


میر نے کابل سے دیکھا

میر تقی محمد



سیرتے کا لہجے دیکھا

تحریک اسلامی طالبان اور امارت اسلامیہ افغانستان
کا تاریخی اور تحفہ ترقی جائزہ



مصنف
مفتی محمد امجد

مذہب و عقائد کے بارے میں

| | |
|-----------|------------------------------|
| کتاب | میں نے کابل بستے دیکھا |
| مؤلف | محمد مقصود احمد |
| اشاعت اول | تعداد: ۱۱۰۰ |
| اشاعت دوم | رجب المرجب ۱۴۲۷ھ |
| تعداد | ۱۱۰۰ |
| صفحات | ۲۰۸ |
| قیمت | ۱۱۰ روپے |

ہماری مطبوعات کے پتے

مکتبہ الایمان وکان نمبر ۱۳۱، ندیم ٹریڈ سینٹر، محلہ جنگی، عقب قصہ خوانی بازار پشاور 0321-9013592

رحمانی کتاب گھر وکان نمبر 2، نزد فور سحانی مسجد، لسبیلہ چوک کراچی 0321-2063739

مکتبہ عثمان وعلی، نزد بندھن شادی ہال، کوثر کالونی بہاولپور 0321-4072839

مکتبہ سید الشہد امامیر حمزہ رضی اللہ عنہ، صادق آباد راولپنڈی 0300-5201482

دارالحمود، اعظم مارکیٹ کینٹی چوک، راولپنڈی 051-7118510

ادارہ اشاعت الخیر، حضور صی باغ ملتان، فون 061-4514929

کشمیر نیوز ایجنسی، کوٹلی، آزاد کشمیر 05866042256

مکتبہ الحسن، اردو بازار لاہور 042-7241355

مکتبہ البجیل، فیصل آباد 0301-7006505



ناشر

37-حق شریعت
اردو بازار - لاہور

اشاکسٹ مکتبہ ابن مبارک

موبائل: 0321-4066827 فون: 042-7324844

فہرست

| | |
|-----|---|
| ۷ | کچھ اپنی باتیں |
| ۱۵ | باب (۱)..... امیر المؤمنین |
| ۴۳ | باب (۲)..... افغانستان تاریخ کے آئینے میں |
| ۵۳ | باب (۳)..... طالبان سے پہلے |
| ۷۵ | باب (۴)..... طالبان کون تھے؟ |
| ۹۳ | باب (۵)..... طالبان اور اسلام |
| ۱۰۹ | باب (۶)..... طالبان اور حقوق نسواں |
| ۱۳۵ | باب (۷)..... میں نے کابل بستی دیکھا |
| ۱۵۹ | باب (۸)..... طالبان اور منشیات |
| ۱۶۷ | باب (۹)..... اقوام متحدہ کا کردار |
| ۱۸۳ | باب (۱۰)..... طالبان کیسے آئے؟ |
| ۱۸۷ | باب (۱۱)..... طالبان کے بعد |
| ۲۰۸ | باب (۱۲)..... طالبان کیوں یاد آتے ہیں؟ |

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

انتساب

اپنے والد، اپنے شیخ، اپنے محسن و مربی
جناب میجر (ر) احمد محمود صاحب مدظلہ العالی

کے نام

جن کی توجہات و عنایات میرے لیے توشہ حیات
اور جن کی دعواتِ صالحات میرے لیے ذریعہ نجات ہیں!
رب ارحمہما کما ربیبانی صغیراً

البدیع

محمد مقصود احمد

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

کچھ اپنی باتیں

۱۹۹۷ء کا موسم گرما گزر چکا تھا، لیکن افغانستان کے شمالی شہر مزار شریف کے ارد گرد وسیع و عریض ریگستان کی ریت ابھی تک تپ رہی تھی۔ خاص طور پر دوپہر کے وقت جب سورج کی تپش جو بن پر ہوتی تو فضا اس قدر گرم ہو جاتی کہ گرمیاں گزر جانے کا احساس گم ہو جاتا۔ طالبان کے لشکر ان دنوں مزار شریف شہر کے دروازوں پر دستک دے رہے تھے۔ وہ ہر دوسرے، تیسرے دن رات کے آخری پہر اٹھتے، اسلحہ کندھوں پر لٹکاتے، گاڑیوں میں سوار ہوتے اور مزار شہر سے تقریباً تیس کلومیٹر کے فاصلے پر واقع تاشقرغان نامی قصبے سے اپنے ہدف کی طرف روانہ ہو جاتے۔ ان کا ہر حملہ دشمن پر کاری ضرب ثابت ہوتا اور خود وہ دوپہر تک واپس تاشقرغان کی قرارگاہ میں واپس لوٹ آتے۔


ایسی ہی ایک تپتی دوپہر کو جب وہ محاذ جنگ سے واپس لوٹ رہے تھے، تو میں بھی اپنے پیشہ ورانہ فرائض کی انجام دہی کے سلسلے میں ان کے ساتھ تھا۔ دن بھر محاذ جنگ پر گزارنا بجائے خود ایک تھکا دینے والا عمل تھا، چنانچہ قرارگاہ واپس پہنچتے ہی ہر ایک کی خواہش ہوتی کہ وہ کچھ دیر سٹالے، میری اپنی حالت بھی اس وقت کچھ ایسی ہی تھی، لیکن میں نے ایسا نہیں کیا۔ کیوں؟..... اسی سوال کے جواب کی مہک ہی تھی، جس نے مجھے اس وقت بھی تروتازہ کر دیا، اور آج بھی جبکہ اس واقعہ کو آٹھ سال کا طویل عرصہ بیت رہا ہے، میں ان لمحوں کی کیفیت بیان کر رہا ہوں تو اسی خوشبو نے مجھے محور کر رکھا ہے۔

ہوا کچھ یوں کہ میں محاذ جنگ سے واپس لوٹ کر تاشقرغان کی اس قرارگاہ میں داخل ہوا تو عمارت کے اندر سے آنے والی ایک عجیب سی جاں فزا خوشبو محسوس ہوئی، صرف مجھے نہیں بلکہ میرے ساتھ آنے والے بھی طالبان کو! ہم نے ایک دوسرے کی طرف سوالیہ نگاہوں سے دیکھا اور حیرت و تعجب کے قدم اٹھاتے عمارت کے اندر داخل ہو گئے۔ وہ کئی کمروں پر مشتمل ایک چھاونی

جیسی عمارت تھی، جس کے ہر گوشے میں اس وقت وہی خوشبو مہک رہی تھی۔ ہم ایک کمرے میں پہنچے تو چند طالبان کو افسردہ کھڑے پایا۔ وہ کیوں افسردہ تھے؟ ہم نے یہ پوچھنے کی بجائے ان سے سوال کیا کہ یہ خوشبو کہاں سے آرہی ہے؟

”اس کمرے سے.....“ انہوں نے انگلی کے اشارے سے ہماری ایک کمرے کی طرف راہنمائی کی تو ہم اس میں داخل ہو گئے۔

وہ ایک بڑا سا ہال نما کمرہ تھا، اس کے بیچوں بیچ ایک بستر بچھا تھا، اس بستر میں ایک حسین و جمیل نوجوان گہری پرمسکون نیند سو رہا تھا، اس نوجوان کے سر پر سفید پٹی بندھی ہوئی تھی، جس پر تازہ خون کی ابھرتی ہوئی سرخی صاف محسوس ہو رہی تھی۔ ہم سب تیز قدموں کے ساتھ اس کی طرف بڑھے، وہ ایک بیس، بائیس سالہ نوجوان طالب علم تھا، جو اس دن سویرے سویرے ہمارے ساتھ ہی محاذ جنگ کی طرف گیا تھا، لیکن اس کی لاش ہم سے کچھ دیر پہلے ہی قرار گاہ پہنچ گئی تھی..... اور وہ مسور کن، دل آویز خوشبو اسی کے بدن سے پھوٹ رہی تھی، ایسی خوشبو جو میں نے مشک میں سونگھی نہ عنبر میں، عود میں سونگھی نہ خس میں..... وہ جاں فزا اور دلربا مہک مجھے آج بھی اپنی آنکھوں میں لیے ہوئے ہے اور میں..... خوشی محسوس کر رہا ہوں کہ میں نے اپنی اس کتاب میں اس قدسی لشکر کا تذکرہ قلمبند کیا ہے، جس کا ایک سپاہی وہ شہید تھا۔



تحقیق و جستجو کی حد تک تحریک طالبان سے میری دلچسپیاں اسی وقت سے وابستہ ہیں، جب سے طالبان منظر عام پر آئے۔ لیکن آج ایسے وقت میں جبکہ میں نے طالبان پر یہ کتاب لکھ ڈالی ہے، اس حقیقت کا اظہار بہت عجیب محسوس ہوتا ہے کہ کسی دور میں، میں بھی طالبان کے مخالفین میں سے ایک تھا۔ میں نے جب ابتدائی طور پر ان کا آوازہ سنا تو دوسرے بہت سے لوگوں کی طرح یہی سوچ لیا کہ طالبان بھی افغان بحران کے ایک نئے کردار کے طور پر سامنے آئے ہیں، مجھے یاد ہے کہ ان دنوں میں بہت زور و شور کے ساتھ اپنے ان دوستوں کے سامنے طالبان پر تنقید و تنقیص کرتا تھا جو جذباتی حد تک طالبان سے وابستگی رکھتے تھے، مجھے یہ بھی یاد ہے کہ جب طالبان نے تاجکستان کے دارالحکومت دوشنبے سے کامل جانے والے تاجک راہنما سید عبداللہ نوری کا جہاز زبردستی قندھار میں اتار لیا تھا تو اس وقت بھی مجھے بہت افسوس ہوا تھا، کیونکہ بہت عرصے سے میں وسطی ایشیا کے اس مسلم راہنما سے

عقیدت کی حد تک محبت رکھتا تھا۔

لیکن آنے والے وقت نے حالات کے ساتھ میرے جذبات کو بھی بدل ڈالا!

ہوا کچھ یوں کہ میرے بعض قریبی دوست جن کا کردار آئینے کی طرح صاف و شفاف تھا، تحریک طالبان سے وابستہ ہوئے اور ان کی یہ وابستگی اس قدر بڑھ گئی کہ انہوں نے طالبان کے شانہ بشانہ چلتے ہوئے اپنا سب کچھ نچھاور کر دیا، حتیٰ کہ جائیں بھی..... تب میرے خیالات نے ایک کروٹ لی اور میں یہ عزم کر کے خود افغانستان جا پہنچا کہ بہ چشم خود طالبان کو دیکھوں، ان کے نظام حکومت کا جائزہ لوں اور ان کے اُس افغانستان کا تجربہ کروں جو مسلمان نوجوانوں کو یوں کشاں کشاں اپنی جانب کھینچ رہا ہے۔ بس یہی طالبان کے بارے میں میرے احساسات و خیالات بدلنے کا نقطہ آغاز تھا۔

میں نے طالبان کے افغانستان کا پہلا سفر کیا، تو یہ وہ دن تھے جب طالبان کو اپنی تاریخ کا سب سے دردناک اور صبر آزما سانحہ مزار شریف پیش آیا تھا، میں نے اس تاریخی حادثے کے تمام چشم دید واقعات تحریر کیے تھے، جو بعد میں ”خاک و خون“ کے نام سے کتابی شکل میں شائع ہوئے۔

آپ جانتے ہیں کہ جس چیز کو انسان بہت اچھا سمجھتا ہو وہ ہزار چاہتوں کے باوجود بھی اس کے حسن و خوبی کو کاٹتا ہی نہیں کر سکتا..... بالکل ایسا ہی معاملہ مجھے بھی اس وقت درپیش ہو گیا، جب میں نے طالبان کے بارے میں کچھ لکھنا شروع کیا۔ لیکن اس کے باوجود میں نے گیارہ ابواب پر مشتمل یہ کتاب لکھ کر آپ کے سامنے پیش کر دی۔ صرف اس خیال سے کہ ممکن ہے کوئی صاحب قلم مؤرخ اور صاحب طرز ادیب اسے ایک یادداشت کے طور پر قبول کر لے اور پھر وہ تاریخ اسلام کی اس عظیم الشان تحریک کی مفصل تاریخ مرتب کرے جس طرح کہ دوسری تحریکوں کی تواریخ قلمبند کی جاتی رہی ہیں۔

☆.....☆.....

باوجود اس کے کہ میں نے طالبان کو بار بار دیکھا اور بہت قریب سے دیکھا، میں نے اس کتاب کو جیسا کہ اس کے نام سے ظاہر ہو رہا ہے، صرف اپنے مشاہدات پر ہی منحصر نہیں رکھا، بلکہ طالبان کی پالیسیوں، ان کے طرز حکومت اور طریق کار کو ان الفاظ اور تعبیرات میں پیش کیا ہے جو طالبان کے بارے میں ان کے انتہائی مخالفین نے اپنی کتابوں میں لکھے ہیں۔ یہ کتابیں جن کے اقتباسات آپ کو اس کتاب میں جا بجا بکھرے نظر آئیں گے، میں جب بھی پڑھتا ہوں تو بے ساختہ میری زبان پر عربی کا

یہ مشہور محاورہ مچلنے لگتا ہے:

والحق ماشہدت بہ الاعداء

یعنی سچائی تو وہ ہے جس کی گواہی دشمن بھی دے۔

طالبان کے مخالف ان مصنفین نے اپنی ان کتابوں میں طالبان جیسے بے لوث حکمرانوں کیلئے جو زہر گھولا ہے، وہ روشن خیال اور ترقی پسند طبقے کے اصل چہرے کی بھرپور عکاسی کرتا ہے، لیکن سچ یہ ہے کہ سچائی سو پردوں میں چھپائے نہیں چھپتی۔ مغربی تعصب و تنگ نظری کے دیمک زدہ ان قلموں نے انہیں صفحات میں، اسی سیاہی سے بہت سے ایسے حقائق کا اعتراف کیا ہے جو خود ان کی طرف سے طالبان پر عائد کیے گئے الزامات کے منہ بولتے جوابات ہیں اور بعض جگہ تو یہ حقائق اس انداز سے بیان کیے گئے ہیں کہ پڑھنے والوں کو ہنسی آ جاتی ہے کہ اگر معاملہ حقیقت میں یہی تھا تو طالبان کو اس قدر کوسنے اور برا بھلا کہنے کا کیا جواز بنتا ہے؟

وہ مغربی مصنفین اور مغرب زدہ مشرقی اہل قلم جنہوں نے طالبان کے بارے میں کتابیں لکھیں ہیں اور ان کتابوں سے میں نے اہم ”گواہیاں“ اس کتاب میں درج کی ہیں، درج ذیل ہیں:

پیٹر مارٹن..... برطانوی مصنف ہیں اور کوئین ایلیز بیٹھ ہاؤس اوکسفورڈ میں ریسرچ ایسوسی ایٹ ہیں۔ آٹھ سال تک برٹش ایجنسیز افغانستان گروپ کے اطلاعات کے رابطہ افسر رہ چکے ہیں۔ انہوں نے انگریزی میں طالبان کے منظر اور پس منظر کے حوالے سے ایک کتاب.....

The Taliban War, Religion and the new order in Afghanistan

لکھی۔ اس کتاب کا ترجمہ ۲۰۰۰ء میں اوکسفورڈ یونیورسٹی پریس لندن نے ”طالبان، افغانستان میں جنگ، مذہب اور نیا نظام“ کے نام سے شائع کیا۔ میرے پاس کتاب کا یہی نسخہ موجود ہے اور میں نے اسی کے اقتباسات اس کتاب میں درج کیے ہیں۔

کرسٹینا لیمب..... اسلام اور طالبان سے انتہائی عناد رکھنے والی یہ مغربی مصنفہ اپنی دروغ گو شخصیت کے حوالے سے مشہور ہے۔ حکومت پاکستان اس خاتون کو جھوٹی رپورٹنگ کے الزام میں ناپسندیدہ شخصیت قرار دے کر ملک بدر بھی کر چکی ہے۔ اس خاتون نے طالبان کی پالیسیوں اور طرز کار کیخلاف ایک کتاب لکھی، جس کا ترجمہ ۲۰۰۲ء میں ادارہ نگارشات، لاہور نے ”طالبان کا افغانستان“ کے نام سے شائع کیا۔ معلوم نہیں مترجم محمد یحییٰ خان کو اس کتاب کے ترجمے کی کیوں ضرورت پیش آئی؟


جبکہ کتاب کے مندرجات خود ان کی نظر میں بھی قابلِ اعتماد نہیں ہیں۔ کرشنیا لیمپ نے اپنی اس کتاب میں شروع سے لیکر آخر تک جس طرح طالبان کیخلاف کہانیاں گھڑنے میں جھوٹ کی رنگ آمیزی کی ہے، اگر پورنگ کے اسی طرز کو معیار مان لیا جائے تو کوئی وجہ نہیں رہ جاتی کہ جھوٹی کہانیوں اور فرضی افسانوں کو تحقیق و تجسس کے بہترین نمونے نہ قرار دیا جائے۔

احمد رشید..... ایک مستغرب مشرقی مصنف ہیں، جو افغانستان اور وسطی ایشیا کی اسلامی اور جہادی تحریکوں کے خلاف ملکی اور غیر ملکی اخبارات و جرائد میں بہت کچھ لکھ چکے ہیں۔ انہوں نے انگریزی میں طالبان کے حوالے سے کتاب لکھی، جس کا ترجمہ مشعل، لاہور نے ۲۰۰۱ء میں شائع کیا۔ مترجم حمید جہلمی ہیں اور اردو ترجمہ کا نام ”طالبان، اسلام تیل اور وسط ایشیا میں سازشوں کا نیا کھیل“ رکھا گیا ہے۔ اس کتاب میں طالبان تحریک اور اس کے راہنماؤں کا جس انداز میں تمسخر اڑایا گیا ہے، اس کا اندازہ اسی سے کیا جاسکتا ہے کہ طالبان کے خلاف صلیبی جنگ میں امریکہ کے سب سے بڑے اتحادی ملک برطانیہ کے وزیر خارجہ جیک اسٹرانے پاکستان کا دورہ کیا تو انہوں نے احمد رشید سے خصوصی ملاقات کر کے اس کتاب کے لکھنے پر انہیں مبارکباد دی۔ میراجی چاہتا ہے کہ احمد رشید سے ملاقات ہو تو میں انہیں اپنے پاس محفوظ ان کی کتاب کا وہ نسخہ دکھاؤں جس کے صفحہ اول پر ایک حقیقت پسند نے یہ جملہ لکھ دیا ہے کہ ”یہ کتاب یہودی ایجنٹ نے لکھی ہے“۔ کتاب کے اس قاری نے جب اس کا مطالعہ کیا تو طیش میں آ کر اس کا ورق ورق علیحدہ کر ڈالا۔ میں نے انہی بکھرے اوراق کو یکجا کر کے محفوظ کر رکھا ہے اور اسی نسخے سے اقتباسات اپنی اس کتاب میں نقل کیے ہیں۔


عبدالحمید مبارز..... ایک شاہ پرست افغان مورخ ہیں۔ ظاہر شاہ کے دور میں افغانستان کے کئی صوبوں کے گورنر رہ چکے ہیں۔ فرانس کے اخبارات کے باقاعدہ کالم نگار ہیں۔ انہوں نے فارسی میں ”حقائق و تحلیل و دقائق سیاسی افغانستان ۱۹۷۳ء تا ۱۹۹۹ء“ کے نام سے افغانستان کے ماضی قریب میں بیٹنے والے حالات سے متعلق کتاب لکھی ہے۔ اس کتاب کا آخری باب طالبان کے حوالے سے ہے جبکہ کتاب کے بعض دیگر ابواب میں ربانی، احمد شاہ مسعود اور رشید دوستم کے حوالے سے کئی اہم انکشافات کیے گئے ہیں۔

جزل عظیمی..... افغانستان کی کمیونسٹ انتظامیہ کے اہم رکن رہ چکے ہیں۔ ۱۹۹۲ء میں جب جزل نجیب نے تختِ کابل کو خیر باد کہا تو جن تین جرنیلوں نے شہر میں مجاہدین کے داخلے تک کابل کا اقتدار

سنجاولا، جنرل عظیمی ان میں سے ایک ہیں۔ ۱۹۹۵ء میں طالبان نے ہرات پر لشکر کشی کی تو جنرل عظیمی کمانڈر اسماعیل کے قریبی اتحادیوں میں سے تھے۔ طالبان کے ہاتھوں ہرات کی فتح کے واقعات و حالات پر انہوں نے فارسی میں ایک کتاب ”طالبان چگونہ آمدن؟“ (طالبان کیسے آئے؟) کے نام سے لکھی۔ اس کتاب کے ایک دلچسپ باب کا ترجمہ کر کے میں نے اپنی اس کتاب میں شامل کیا ہے۔ ان کتابوں کے علاوہ میں نے اہم واقعات کے ماہ و سن حاصل کرنے کیلئے بعض دیگر کتب، رسائل اور اخبارات سے بھی استفادہ کیا۔ میں ایسے تمام اداروں اور افراد کا شکر گزار ہوں جنہوں نے ”الف“ سے لے کر ”ن“ تک کسی بھی مرحلے پر اس کتاب کی تیاری میں میرے ساتھ تعاون کیا۔ فخر اہم اللہ احسن الجزاء فی الدارين۔



یہاں میں اس امر کا اظہار بھی ضروری سمجھتا ہوں کہ اس کتاب میں تحریک طالبان کی باقاعدہ تاریخ نہیں بیان کی گئی بلکہ طالبان سے متعلق بعض اہم معاملات ذکر کیے گئے ہیں، اور ان اعتراضات اور سوالات کے جواب دینے کی کوشش کی گئی ہے جو طالبان مخالف مغربی میڈیا سے متاثر ہو کر دھندلا جانے والے ذہنوں میں پائے جاتے ہیں۔ تاہم ایک حد تک طالبان کے سات سالہ دور کے تمام اہم واقعات کی جھلکیاں بھی اس ضمن میں آگئی ہیں۔ ہاں البتہ ایک بات جس کا خلاء یقیناً ہر قاری محسوس کرے گا وہ طالبان کی فتوحات کا تذکرہ ہے۔ اس سلسلہ میں عرض ہے کہ راقم الحروف ”جہاد طالبان“ کے نام سے ایک اور قلمی کاوش کا آغاز کر چکا ہے، جس میں قد ہار سے لیکر مزار تک، امریکی حملوں کے دوران اور امریکی قبضے کے بعد طالبان کے اہم معرکوں کے حالات و واقعات کو یکجا کر دیا جائے گا۔ اگر قارئین کی دعائیں ساتھ رہیں اور زندگی نے ساتھ دیا تو یہ کتاب بھی عن قریب آپ کے ہاتھوں میں ہوگی۔ تب پھر ”میں نے کامل بٹے دیکھا“ اور ”جہاد طالبان“ کو ایک ہی کتاب کے دو حصے قرار دے کر آپ اسے ”تاریخ طالبان“ کا نام دے سکیں گے۔ ان شاء اللہ تعالیٰ



اس کتاب کی ابتدائی ورق گردانی کے دوران آپ ایک اور چیز کی بھی کمی محسوس کریں گے، جسے عام طور پر تفریظ، تصدیق یا پیش لفظ کہا جاتا ہے۔ یہ ”کئی“ مجھے بھی عجیب محسوس ہوتی رہی، لیکن میں اس

احساس کے باوجود اپنی اس کتاب کیلئے کسی سے کچھ نہیں لکھوا سکا۔ شاید اس لیے کہ جن لوگوں تک میری رسائی ہے ان میں اچھے اچھے قلم کار ہونے کے باوجود کوئی نہیں جو طالبان کی قصیدہ گوئی کرتے ہوئے اپنے قلم میں عمل کی روشنی بھر سکے اور وہ لوگ جو اپنے عمل اور کردار سے ملامت عمر مجاہد اور ان کے وفاشعار ساتھیوں کی روشن اور تابندہ روایات کو زندہ رکھے ہوئے ہیں، میری اُن تک پہنچ نہیں۔ محرومی کا یہی احساس، تقریظ و تصدیق کی کمی کے احساس پر غالب رہا اور میں نے کسی سے کچھ لکھوانے کی اپنے اندر ہمت نہ پائی۔

وصلی اللہ علی النبی الکریم محمد وعلی الہ واصحابہ اجمعین


محمد مقصود احمد

۱۸/ربیع الاول ۱۴۲۶ھ

۲۸/اپریل ۲۰۰۵ء

” عجیب بات ہے کہ میں نہ حواس باختہ ہوتا ہوں اور نہ ہی بے دینوں کے ساتھ اسلام کے خلاف راستہ اختیار کرتا ہوں، باوجودیکہ میرا اقتدار بھی خطرے میں ہے، میری سربراہی اور کرسی بھی خطرے میں ہے، میری زندگی بھی خطرے میں ہے، پھر بھی جان بھی قربان کرنے کیلئے تیار ہوں، اگر میں کافروں کے مطالبے پر ایسی راہ اختیار کر لوں جو اسلام کے خلاف ہو ان کے ساتھ موافقت کروں اور ان کے ساتھ معاملات ٹھیک رکھوں تو میری ہر چیز مستحکم ہوگی، میری بادشاہی اور سلطنت بھی برقرار رہے گی اور اسی طرح طاقت، پیسہ اور جاہ و جلال بھی خوب ہوگا، جس طرح دیگر ممالک کے سربراہوں کا ہے، لیکن میں اسلام کی خاطر ہر قربانی کیلئے حاضر ہوں، سب کچھ کرنے کیلئے حاضر ہوں، جان قربان کرتا ہوں، سب کچھ سے بے پرواہ ہو چکا ہوں، سلطنت، اقتدار، طاقت اور ہر چیز کی قربانی کا عزم کر چکا ہوں، اسلامی غیرت کرتا ہوں، اسلام پر فخر کرتا ہوں، اس پاک وطن پر غیرت کرتا ہوں۔“

(افغانستان پر امریکی حملوں سے قبل ملا محمد عمر مجاہد کا اپنی قوم سے خطاب)



امیر المؤمنین

یہ سن ۲۰۰۰ء کا ذکر ہے! میں اور میرے چند دوست افغانستان کے معلوماتی دورے پر تھے۔ ماہ جون کی ایک چھٹی دوپہر میں جب ہم قندھار شہر میں واقع سپریم کورٹ کی عمارت میں اسلامی عدالتوں کے اعلیٰ عہدیداروں سے ملاقاتیں کر کے واپس سرکاری مہمان خانے میں پہنچے تو ہمیں بتایا گیا کہ طالبان کے راہنما امیر المؤمنین ملا محمد عمر مجاہد آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ طالبان کے دور میں افغانستان کا دورہ کرنے والے کسی بھی شخص کیلئے ملا عمر صاحب سے ملاقات سب سے پرکشش مرحلہ ہوتا تھا۔ حالانکہ یہ بات سبھی کو معلوم تھی کہ ملا عمر اپنی گونا گوں مصروفیات اور حفاظتی نقطہ نظر سے بہت ہی کم لوگوں سے ملا کرتے تھے۔ خاص طور پر غیر ملکیتوں سے ان کی ملاقاتوں کو تو انگلیوں پر بھی شمار کیا جاسکتا ہے۔ ان کے بارے میں مشہور ہے کہ انہوں نے غیر ملکی سرکاری نمائندوں سے ملاقاتیں بھی اپنے وزراء اور مشیروں پر چھوڑ رکھی تھیں۔ البتہ کبھی شاذ و نادر وہ خود بھی ان سے مل لیا کرتے تھے۔ مثلاً اقوام متحدہ کے نمائندے الاخضر الابراہیمی اور سعودیہ کے شہزادہ ترکی الفیصل ان چند افراد میں سے ہیں جن سے ملا عمر صاحب نے خود ملاقات کی تھی۔ مگر ملا صاحب سے ملاقات کی راہ میں ان مشکلات کے باوجود ہم نے اپنے طور پر طالبان راہنماؤں سے جن میں قندھار کے والی ملا محمد حسن صاحب اور ملا عمر کے مشیر خاص طیب آغا خاص طور پر قابل ذکر ہیں، پُر زور اصرار کر کے اپنا مطالبہ منوالیا تھا اور اب انہوں نے ہماری ملاقات کا بندوبست کر لیا تھا۔

طالبان کا سرکاری مہمان خانہ شہر سے باہر واقع تھا، جہاں سے میں اور میرے دیگر ساتھی طالبان

کی سرکاری گاڑیوں میں بیٹھ کر قندھار شہر کے اندر واقع شہداء چوک کے قریب اس مقام کی جانب روانہ ہو گئے جسے وہاں کے لوگ ”والی کوشی“ (گورنر ہاؤس) کہتے ہیں۔ والی کوشی دراصل قندھار کے گورنر ملا محمد حسن کا سرکاری دفتر تھا، مگر ۱۹۹۹ء میں جب ملا محمد عمر صاحب کو نشانہ بنانے کیلئے بعض بیرونی طاقتوں نے اپنے زرخیز ایجنٹوں کے ذریعے قندھار میں ایک طاقتور بم دھماکہ کیا تو اس کے بعد سے طالبان کے راہنما نے اپنے پرانے دفتر میں جانا ترک کر دیا اور اب وہ عموماً والی کوشی ہی میں بیٹھ کر فرانس منصفی سرانجام دیتے تھے۔ جس کی ایک بڑی وجہ غالباً یہ بھی تھی کہ والی کوشی کے برابر ہی میں ملا صاحب کی رہائش گاہ واقع تھی۔

قندھار شہر کی مرکزی سڑک سے ہوتی ہوئی جب ہماری گاڑیاں والی کوشی کے سامنے پہنچیں تو قافلے کے بیشتر شرکاء دنگ رہ گئے۔ کیونکہ والی کوشی کی عمارت ان کی توقع سے کچھ زیادہ ہی سادگی سے بنائی گئی تھی۔ یہ درست تھا کہ ہمارے قافلے کے بیشتر شرکاء ایسے تھے جنہوں نے طالبان کو اس سے پہلے دیکھا نہیں تو سُن ضرور رکھا تھا مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ امر بہر حال ان کیلئے باعث حیرت تھا کہ افغانستان کے پچانوے فیصد علاقے پر حکمرانی کرنے والے طالبان کے گورنر ہاؤس کے باہر نہ کوئی سیکورٹی فورسز کا گشت تھا، نہ حفاظتی انتظامات اور نہ ہی انہیں پروٹوکول دینے کیلئے مسلح اہلکاروں کے چاق و چوبند دستے۔ والی کوشی کی عمارت بھی انتہائی سادہ طرز تعمیر کا نمونہ تھی۔ جس کے بیشتر حصے کو بم دھماکے میں منہدم ہو جانے کی وجہ سے دوبارہ تعمیر کیا گیا تھا۔

والی کوشی کے دروازے پر پہنچنے ہی گورنر قندھار ملا محمد حسن صاحب نے جو اس وقت ہمارے ساتھ ہی تھے، اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے چھوٹے سے وائر لیس سیٹ پر مخصوص فریکوئنسی سیٹ کی اور والی کوشی کے اندر رابطہ کر کے مہمانوں کے پہنچنے کی اطلاع دی اور اس رابطے کے چند لمحوں بعد ہی ہماری گاڑیوں کیلئے والی کوشی کا آہنی دروازہ کھول دیا گیا۔ دروازے سے اندر داخل ہونے کے بعد والی کوشی کا سامنے والا حصہ ہمارے سامنے تھا جو ابھی تعمیری مراحل سے گزر رہا تھا۔ ہمارے طالبان ڈرائیوروں نے گاڑیاں ایک بظنی راستے سے گزریں اور اب ہم والی کوشی کے عقبی حصے میں پہنچ گئے۔ جہاں چند کمرے تھے اور ان کے برآمدے میں کھڑے چند طالبان راہنما مہمانوں کے منتظر تھے۔ گاڑیاں رکتے ہی انہوں نے آگے بڑھ کر مہمانوں کو خوش آمدید کہا، اور پھر ان میں سے ملا محمد عمر صاحب کے مشیر خصوصی سید طیب آغا صاحب نے آگے بڑھ کر ہماری ایک کمرے کی طرف راہنمائی کی۔ اس کمرے سے گزر کر ہم ایک

اور کمرے میں داخل ہو گئے۔ ملا محمد عمر صاحب سے ملاقات کیلئے پرانی افغان طرز کے مطابق بنے ہوئے موٹی موٹی دیواروں والے ان کمروں سے گزرتے ہوئے ہمیں لمحہ بھر کیلئے پراسراریت کا احساس ضرور ہوا لیکن جونہی ہم دوسرے کمرے میں داخل ہوئے تو ایک انجانے مگر پر وقار نورانی ماحول نے ہم سب کے دلوں کو گویا مسحور کر کے رکھ دیا۔

ہمارے سامنے امیر المؤمنین ملا محمد عمر مجاہد کھڑے تھے۔ دراز قد، وجہ شکل و صورت، سر پر سیاہ عمامہ رکھے، سادہ سے کپڑوں میں ملبوس ملا صاحب نے سب مہمانوں سے معانقہ کیا اور پھر انہیں بیٹھنے کی دعوت دیتے ہوئے، خود بھی اس مسہری کا سہارا لے کر بیٹھ گئے جس پر گدّا تو بچھا ہوا تھا مگر چادر عائب تھی۔ ملا صاحب نے خود اسی مسہری سے ٹیک لگائی اور مہمانوں کو گاؤں تکے پیش کیے۔ بیٹھنے کے بعد کچھ دیر تک تو سبھی مہمان اس عظیم شخص کی جانب دیکھتے ہی رہے جواتے بڑے ملک پر حکمرانی کرتے ہوئے بھی اس قدر سادہ طرز میں زندگی بسر کر رہا تھا۔

جی ہاں! امیر المؤمنین کے کمرہ ملاقات میں نہ آرام دہ صوفے تھے، نہ خوبصورت کرسیاں، نہ کاغذات صدارت سے سچی دھجی میز تھی اور نہ ہی کمرے کی چھت پر کوئی چمکتا دمسکا فانوس ٹلکتا نظر آ رہا تھا۔ بس ایک افغانی قالین تھا جو پورے کمرے میں بچھا ہوا تھا اور اس کی چاروں جانب افغان طرز کے مطابق روئی کے گدے رکھے ہوئے تھے۔ افغانستان کے اکثر علاقے اگرچہ گرمیوں میں بھی مناسب موسم رکھتے ہیں مگر قندھار ان میں سے نہیں۔ شہر کے آس پاس پھیلے ہوئے وسیع و عریض ریگستانی علاقے کی وجہ سے گرمیوں میں اس شہر میں شدید گرم موسم ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود امیر المؤمنین کے دفتر میں ہماری متلاشی نگاہوں کو ایک بھی ایئر کنڈیشن دکھائی نہیں دیا۔ کیونکہ ملا محمد عمر اور ان کے دیگر عہدیداران امارت ایسے ہی موسم میں گزر بسر کرتے رہے ہیں۔

امیر المؤمنین نے مہمانوں سے انتہائی دھیمے انداز میں خیر و عافیت دریافت کی اور پھر باقاعدہ گفتگو کا آغاز ہوا۔ گفتگو کے دوران طالبان حکومت کی داخلی و خارجی پالیسیوں کے بارے میں مختصر مگر سیر حاصل بات چیت ہوئی۔ ملا عمر صاحب نے آنے والے مہمانوں کے مشورے خندہ پیشانی سے سنے اور مختصر الفاظ میں ان کے سوالات کے جوابات دیئے۔ گفتگو کے دوران جب بعض مہمانوں نے طالبان کے راہنما کو مشورہ دیا کہ وہ بیرونی دنیا میں طالبان کیلئے رائے عامہ ہموار کرنے کیلئے طالبان کے اعلیٰ عہدیداروں پر مشتمل ایک باقاعدہ وفد ترتیب دیں تو ملا صاحب نے جواب دیا کہ یہ

کام اگر آپ لوگ کریں تو زیادہ بہتر ہے۔ کیونکہ طالبان کے حق میں اپنوں سے زیادہ غیروں کی گواہی مؤثر ہو سکتی ہے۔

ملا صاحب سے ہمارے وفد کی گفتگو تقریباً آدھے گھنٹے تک جاری رہی اور پھر ہم نے ان سے رخصت ہونے کیلئے اجازت چاہی۔ رخصت کرتے ہوئے انہوں نے ایک مرتبہ پھر سب سے معافتہ کیا۔ اس موقع پر ہمارے ایک دوست نے جب ان سے کہا کہ ”دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے شہادت عطا فرمائیں“ تو انہوں نے بڑی سنجیدگی سے کہا ”اللہ تعالیٰ آپ کو وہ مقام عطا فرمائیں جو انہیں پسند ہو۔“ اور پھر ہم سب امیر المؤمنین سے رخصت ہو گئے۔

امیر المؤمنین سے ملاقات کے بعد ہم والی کوشی سے نکلے..... پھر دو چار دن بعد افغانستان سے بھی لوٹ آئے اور بالآخر ایک دن ایسا بھی آیا جب یہ اندوہناک خبریں سننے کو ملیں کہ طالبان قندھار سے چلے گئے ہیں، اب والی کوشی کی مہارت ان کے بجائے ان کے دشمنوں کے قبضے میں ہے اور شہر کی سڑکوں پر اب طالبان کی بجائے امریکی فوجیں گشت کر رہی ہیں۔ ان اطلاعات نے ہم سب پر بجلیاں گرائیں، دل خون کے آنسو رو دیا اور آنکھیں نم ہو گئیں۔ مگر مجھے یقین ہے اور بھرپور یقین ہے کہ وہ مرد درویش آج بھی بالکل ویسے ہی سنجیدہ اور پروقار شکل و صورت کے ساتھ، سر پر عمامہ رکھے اور سادہ لباس پہنے افغانستان کے کسی پہاڑ یا صحراء میں ویسے ہی سکون و اطمینان سے بیٹھا ہوگا جیسا ہم نے اس کو والی کوشی میں بیٹھا دیکھا تھا۔ کیونکہ وہ زمین کے ٹکڑوں اور انسانوں کے سروں پر نہیں بلکہ دلوں پر حکمرانی کرتا ہے اور اس کی یہ حکمرانی آج بھی باقی ہے۔ اس کے ساتھی آج بھی اسے ایک قابل فخر امیر سمجھتے ہیں، ہزاروں نہیں لاکھوں افغان عوام اس کی راہیں تک رہے ہیں اور کروڑوں مسلمانوں کے دل صبح و شام اس کیلئے دھڑکتے ہیں۔

طالبان کے راہنما ملا محمد عمر مجاہد آج منظر عام پر نہیں ہیں، اور نہ ہی کسی کو یہ معلوم ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی طاقت سے ٹکر لینے والا یہ طاقتور اور بہادر انسان کہاں بیٹھا کراچی انٹرنیٹ جماعت کی باگ ڈور سنبھالے ہوئے ہے لیکن پھر بھی دنیا والے اس مرد آہن کو جاننا چاہتے ہیں، اس کی طاقت کا راز سمجھنا چاہتے ہیں اور اس کے ماضی، حال اور مستقبل کے بارے میں واقفیت حاصل کرنے کے خواہشمند ہیں۔

☆.....☆.....

بھلے وقتوں میں افغانستان کا جنوبی شہر قندھار ملک کا دوسرا بڑا شہر سمجھا جاتا تھا، جس کی اپنی آبادی

لاکھوں سے متجاوز تھی اور آس پاس کے گاؤں دیہاتوں میں بھی سینکڑوں قبائل بستے تھے۔ انہی قبائل میں سے ایک پشتونوں کا مشہور قبیلہ ”ہوتک“ بھی تھا جس کا اصل مسکن تو صوبہ زابل تھا مگر اس کی ایک شاخ کے افراد گزشتہ ایک صدی سے قندھار کے قریب آ کر آباد ہو گئے تھے۔ امیر المؤمنین کا آبائی تعلق اسی قبیلہ سے ہے۔ آپ کے والد مرحوم کا نام مولوی محمد ایاز اخوند تھا۔

امیر المؤمنین کا صحیح سن پیدائش تو ریکارڈ میں درج نہیں تاہم ان کی عمر سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ وہ ۱۹۶۰ء کے لگ بھگ پیدا ہوئے۔ پیدائش کے کچھ عرصے بعد جب آپ کی عمر ابھی صرف تین سال ہی تھی کہ آپ کے چالیس سالہ والد محترم اپنے اکلوتے بیٹے اور بیوی کو سوگوار چھوڑ کر اس عالم سے کوچ کر گئے۔ والد سے پہلے آپ کا ایک چھوٹا بھائی اور تین بہنیں بھی کم سنی کے عالم میں ہی اللہ کو پیاری ہو چکی تھیں۔

مولوی غلام نبی مرحوم کے انتقال کے کچھ عرصہ بعد ان کی بیوہ یعنی ملا محمد عمر صاحب کی والدہ محترمہ نے اپنے شوہر مرحوم کے بھائی مولوی محمد انور سے عقد نکاح کر لیا۔ یوں نئے ملا محمد عمر کو حقیقی والد کے بعد ایک ایسا شفیق مرنی مل گیا جس نے اپنے بھتیجے اور سوتیلے بیٹے کی بھرپور طریقے سے پرورش کی اور کسی بھی قدم پر اسے تیزی کا احساس نہ ہونے دیا۔

مولوی محمد انور کے علاوہ ملا محمد عمر صاحب کے باقی تین چچاؤں مولوی محمد حفیظہ اخوند، حاجی مولوی محمد جمعہ اخوند اور حاجی مولوی محمد ولی اخوند نے بھی اپنے اس بھتیجے کی پرورش و تعلیم میں بھرپور کردار ادا کیا، جس کے چہرے پر کم سنی ہی سے سعادت و خوش بختی کے آثار نمایاں تھے۔ ان چچاؤں میں سے مولوی محمد ولی اخوند اپنے علاقے کی اہم روحانی شخصیت بھی سمجھے جاتے تھے اور لوگ انہیں ”پیر صاحب“ کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ ویسے عام طور پر لوگوں کا کہنا یہی ہے کہ ملا محمد عمر صاحب کا خاندان آبائی طور پر ہی علمی اور روحانی خاندان سمجھا جاتا ہے جس کے فرزندوں سے ماضی میں بھی لاکھوں بندگان خدا نے راہ ہدایت پائی۔ ملا محمد عمر صاحب کے تین سگے بھائی ہوئے اور چار بہنیں۔ بھائیوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ سبھی جہاد میں شریک رہے۔

ہوش سنبھالنے کے بعد ملا محمد عمر صاحب نے ابتدائی تعلیم اپنے سوتیلے والد اور حقیقی چچا مولوی محمد انور سے حاصل کی۔ جو صوبہ ارزگان میں ایک مسجد کے امام و خطیب تھے اور ان کی وجہ سے ملا محمد عمر صاحب اور ان کی والدہ قندھار سے نقل مکانی کر کے یہیں آ بسی تھیں۔ یہاں ارزگان میں مولوی محمد انور کے پاس

مقیم اور مسافر طلبہ کی ایک بڑی تعداد بھی حصول علم کی غرض سے مقیم رہتی تھی۔ ملا محمد عمر نے اپنے سوتیلے والد کے علاوہ دیگر کئی اساتذہ کرام سے بھی علمی فیض حاصل کیا مگر افسوس کہ ان میں سے سوائے ان کے دوسرے بچا مولوی محمد جمعہ اخوند کے کسی کا نام معلوم نہیں ہو سکا۔

ملا محمد عمر کی تعلیم ابھی جاری تھی اور وہ فقہ حنفی کی مشہور کتاب ”ہدایہ“ پڑھ رہے تھے کہ اچانک حالات نے ایسا پلٹا کھایا کہ ان کو تعلیم چھوڑ کر عملی میدان میں اترا نا پڑا اور پھر ہمیشہ ہمیشہ کیلئے ملا ہی رہ گئے۔ (یاد رہے کہ افغانستان اور وسطی ایشیا کے علاقوں میں دینی طالب علم جب تک اپنی تعلیم پوری نہیں کر لیتا اسے ”ملا“ کہا جاتا ہے اور جب وہ تعلیم مکمل کر لے تو اسے ”مولوی“ کا لقب دیا جاتا ہے۔ ملا محمد عمر کے نام کے ساتھ بھی ”ملا“ اسی وجہ سے بولا جاتا ہے کیونکہ وہ تاحال باقاعدہ طور پر اپنی تعلیم مکمل نہیں کر سکے، البتہ پاکستان کے صوبہ سرحد میں واقع دارالعلوم حقانیہ اکوڑہ خٹک نے اپنی تاریخ میں پہلی مرتبہ طالبان کے راہنما امیر المؤمنین ملا محمد عمر مجاہد کی اسلامی خلافت کے احیاء اور شریعت اسلامیہ کے نفاذ کے سلسلے میں گرانقدر خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے ان کیلئے اعزازی طور پر سند فراغت جاری کی)

۱۳۹۸ھ مطابق ۱۹۷۸ء میں جب ملا محمد عمر مجاہد کی عمر اٹھارہ سال کے لگ بھگ تھی اور وہ ابھی تعلیم حاصل کرنے میں لگن تھے کہ اچانک ان کے ملک میں بددین عناصر کی شہہ پر کیونٹ انقلاب برپا ہو گیا جس کے نتیجے میں روس کو افغانستان میں مداخلت کا موقع ملا اور اس نے اپنی افواج وہاں داخل کر دیں۔ روسی افواج کی آمد کے ساتھ ہی پورے افغانستان میں غیر متمند افغان مسلمانوں نے اجنبی جارحیت کے خلاف ہتھیار اٹھالیے اور جانیں ہتھیلیوں پر رکھ کر کیونسٹوں کا مقابلہ شروع کر دیا۔ اس موقع پر علماء اور طلباء نے اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے قوم کی راہنمائی میں مرکزی کردار ادا کیا اور اپنی دیگر مصروفیات ترک کر کے وہ میدان جہاد میں نکل آئے۔ ملا محمد عمر صاحب بھی ایسے ہی طلبہ میں سے ایک تھے، جنہوں نے اپنے ملک و ملت کی بقاء کیلئے کتابیں رکھ کر ہتھیار اٹھالیے تھے، اور پھر ارزگان کے باشندوں نے دیکھا کہ مولوی محمد انور کا ہونہار شاگرد جیسے حصول علم کا شوقین تھا ویسے ہی وہ میدان عمل کا شہسوار بھی نکلا۔

ملا محمد عمر نے اپنی جہادی زندگی کا آغاز ارزگان ہی سے کیا جہاں وہ سکونت پذیر تھے۔ انہوں نے یہاں اپنے مجاہد ساتھیوں کے ساتھ مل کر روسی افواج پر حملوں کا سلسلہ شروع کیا اور یہ حملے اس قدر کامیابی کے ساتھ کیے کہ روسی افواج کو انتہائی جدید اسلحہ سے لیس ہونے کے باوجود ان کے ہاتھوں شدید نقصان اٹھانا پڑا۔ ملا محمد

عمر مجاہد کی اسی جنگی صلاحیت کی وجہ سے آپ مجاہدین کے ہر دھڑے کا منڈر بن گئے۔ روسی افواج پر حملوں کے دوران آپ کے جسم پر شدید زخم بھی آئے۔ چنانچہ ایک دفعہ روسی فوج کی طرف سے فائر کیے گئے راکٹ کا ایک پارچہ آپ کی ٹانگ پر لگا، جس کی وجہ سے آپ زخمی ہو گئے اور دوسری مرتبہ جنگ کے دوران شدید فائرنگ کی بارش میں ایل ایم جی کی گولیوں کا برسٹ ملا عمر مجاہد کو لگا جس سے جسم کے مختلف حصوں پر شدید زخم آئے۔ تاہم علاج کے بعد آپ صحت یاب ہو گئے اور دشمن کے خلاف اپنی جدوجہد کو جاری رکھا۔

ارزگان میں ملا عمر اور ان کے ساتھیوں کی کارروائیاں جاری تھیں کہ مولوی محمد انور اخوند کو تشویش لاحق ہوئی کہ کہیں کیونست ان کے پیچھے کی روز بروز بڑھتی ہوئی جہادی سرگرمیوں سے تنگ آ کر انہیں کوئی گزند پہنچادیں۔ چنانچہ انہوں نے اپنے پیچھے سے کہا کہ وہ جنگی حکمت عملی کے تحت اپنا ٹھکانہ بدل لیں اور ارزگان کو چھوڑ کر قندھار کے مضافات میں چلے جائیں۔ چچا کا حکم سن کر ملا عمر نے اس پر عمل کیا اور قندھار پہنچ کر اپنی عسکری کارروائیوں کا دوبارہ آغاز کر دیا۔ قندھار میں ملا محمد عمر نے کیونستوں کے خلاف گوریلا جنگ کیلئے موضع پنجوائی کا انتخاب کیا، کیونکہ یہاں سے گزرنے والی بڑی سڑک کیونست افواج کی سپلائی لائن بھی تھی جس سے انہیں زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچایا جاسکتا تھا۔ پنجوائی میں مختلف معرکوں میں ملا محمد عمر نے اپنی بھرپور جنگی اور عسکری صلاحیت کا ثبوت دیتے ہوئے دشمن پر کئی کاری اور کامیاب وار کیے جس کے نتیجے میں وہ علاقے بھر میں مشہور اور معروف جہادی کمانڈر بن گئے۔ اسی دوران ملا محمد عمر صاحب ایک معرکے میں شدید زخمی بھی ہو گئے۔ جس سے آپ کی ایک آنکھ بھی شہید ہو گئی۔ ملا صاحب کے بعض قریبی ساتھیوں کا کہنا ہے کہ اس مرتبہ جب آپ زخمی ہوئے تو آپ کو پاکستان کے سرحدی شہر کوئٹہ لیجا یا گیا۔ جہاں ڈاکٹروں نے آپ پریشن کر کے آپ کو ہدایت کی کہ اپنے زخموں کو پانی سے پچائیں اور تیمم کر کے نماز پڑھیں۔ مگر ملا صاحب نے وضو چھوڑنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ یہ ناممکن ہے کہ میں زخموں کی وجہ سے وضو نہ کروں۔

ملا محمد عمر مجاہد دشمن سے باقاعدہ جنگ کیلئے معروف افغان جہادی راہنما مولوی محمد نبی محمدی کی تنظیم حرکت انقلاب اسلامی سے منسلک ہو گئے تھے اور حرکت کی جانب سے آپ کو علاقائی کمانڈر مقرر کیا گیا تھا۔ ملا محمد عمر صاحب کے پرانے جہادی دوستوں میں سے ایک نے دیرینہ یادیں تازہ کرتے ہوئے بتایا کہ آپ کو آر پی جی سیون (ایٹمی ٹینک راکٹ لانچر) چلانے میں خصوصی مہارت حاصل تھی، چنانچہ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ پنجوائی کے علاقے میں روسی افواج کا ایک ٹینک زمین میں چھپا ہوا تھا اور اس کا گولہ

باری سے مجاہدین کو شدید نقصان اٹھانا پڑ رہا تھا۔ مجاہدین نے کئی بار اس ٹینک کو تباہ کرنے کی کوشش کی مگر روسیوں نے اس کو ایسی جگہ کھڑا کر رکھا تھا جہاں سے اس کو نشانہ بنانا تقریباً ناممکن تھا۔ ملا محمد عمر صاحب کو جب یہ صورتحال معلوم ہوئی تو انہوں نے بذات خود اس کو تباہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ چنانچہ اب کی بار خود انہوں نے راکٹ فائر کیا تو وہ سیدھا نشانے پر جا لگا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے روسی ٹینک سے نکلنے والے شعلے فضا میں بلند ہونے لگے۔



ملا محمد عمر صاحب اور ان جیسے دیگر جانناز مجاہدین کی قربانیوں ہی کا نتیجہ تھا کہ افغان سرزمین پر روس اور اس کے ایجنٹوں کو عبرتناک شکست کا سامنا کرنا پڑا اور پھر ایک دن آیا جب روسی افواج اپنی پیشانیوں پر شکست کا بدنما داغ لیے افغانستان سے واپس لوٹ گئیں۔ روسی افواج کے واپس لوٹنے اور روسی ایجنٹوں کی حکومت کے خاتمے کے بعد جب بد قسمتی کے مارے مختلف جہادی راہنماؤں نے اقتدار کی رسہ کشی میں پڑ کر ایک دوسرے کا گریبان پکڑنا شروع کیا تو اس کڑے وقت میں ملا محمد عمر صاحب بھی ان چند خوش نصیب مجاہدین میں سے تھے جنہوں نے اس آگ میں کودنے کی بجائے کنارہ کشی اختیار کرنے کو ترجیح دی۔ چنانچہ جہاد افغانستان کے اختتام پر آپ نے کلاشکوف رکھ کر دوبارہ کتاب اٹھالی اور ایک مرتبہ پھر اپنی ادھوری پڑھائی مکمل کرنے میں مشغول ہو گئے۔ مگر یہ بحیثیت اب بھی ان کا مقدر نہ بن سکی، شاید اس لیے کہ اللہ تعالیٰ دنیا والوں کو دکھانا چاہتا تھا کہ بڑے بڑے انقلاب برپا کرنے والے عظیم لوگوں کیلئے علم سے زیادہ عمل ضروری ہے اور قابلیت سے زیادہ جرات و استقامت ضروری ہے۔

جہاد کے اختتام کے بعد ہی ملا محمد عمر نے اکتیس سال کی عمر میں شادی کی، جس سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اولاد بھی عطا کی۔

کلاشکوف رکھ کر دوبارہ کتاب اٹھاتے ہوئے ملا محمد عمر صاحب نے شاید کبھی سوچا بھی نہ ہوگا کہ اب انہیں پھر کلاشکوف اٹھانی پڑے گی، مگر حالات نے ایک مرتبہ پھر انہیں مدرسہ سے میدان کی جانب پلٹنے پر مجبور کر دیا۔ جہاد افغانستان کے اختتام پر شروع ہونے والی افغان راہنماؤں کے مابین اقتدار کی رسہ کشی اور ہوائے نفسانی اس قدر زیادہ بڑھی کہ پورا افغانستان دیکھتے ہی دیکھتے ایک تھوڑی شکل اختیار کر گیا جس کے نتیجے میں ہونے والی خانہ جنگی نے گلی گلی بہتی بہتی شہر شہر میں تعصب و قوم پرستی کے شعلے

بڑھکا دیئے اور افغان قوم جو کافروں سے بچی کھچی رہ گئی تھی اب اپنوں کے ہاتھوں لقمہ اجل بننے لگی۔ یہ صورت حال یوں تو سبھی مسلمانوں کیلئے غم و الم کا باعث تھی مگر افغان قوم تو خاص طور پر ان حالات سے آزرده تھی۔ لیکن اصل شکل یہ تھی کہ ان حالات میں کون ہو سکتا تھا جو ہمت کر کے آگے بڑھتا، اس دیکھتے الاؤ میں کودتا اور اپنی قوم کو اس سے نکالنے کی جرأت کا مظاہرہ کرتا۔ بلاشبہ یہ ایک کٹھن مرحلہ تھا اور اس سے وہی شخص گزر سکتا تھا جس کو اس کے رب نے خدا داد صلاحیتوں سے نوازا ہو۔

دنیا اس وقت عالمی طاقتوں پر نظریں گاڑے ہوئی تھی کہ دیکھئے ان میں سے کون آگے بڑھ کر افغان بحران کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے اور پھر اس میں کامیاب بھی ہو جاتا ہے۔ مگر سولہ لاکھ شہداء کے رب نے یہ عزت اس مرد خدا مست کے مقدر کر رکھی تھی جسے قندھار والے ملا محمد عمر مجاہد کے نام سے یاد کرتے ہیں۔

قندھار شہر کے قریب میوند کے مقام پر ایک مدرسے میں اپنی تعلیم مکمل کرنے میں مگن ملا محمد عمر مجاہد نے جب نام نہاد راہنماؤں کی باہمی خانہ جنگی میں اپنے مسلمان بھائیوں کا خون ریاکیاں جاتا دیکھا تو وہ زیادہ دیر خاموش نہ رہ سکے اور بالآخر انہوں نے ذاتی محنت اور جدوجہد سے اپنے ساتھی طلبہ پر مشتمل ایک جماعت تیار کر لی جسے آنے والے وقتوں میں ”تحریک طالبان“ کا نام دیا گیا۔ تحریک طالبان کی بنیاد کیسے رکھی گئی اور اس میں ابتدائی طور پر کون لوگ شامل تھے اس کا تفصیلی ذکر ہم آئندہ صفحات میں کریں گے، تاہم فی الحال ملا عمر صاحب کی ذات کے حوالے سے یہ عرض ہے کہ ملا صاحب خود ہی اس تحریک کے بانی ہیں اور انہوں نے اپنے اخلاص، جدوجہد، قربانی اور کوشش کے نتیجے میں اس بے سروسامان تحریک کو بام عروج تک پہنچایا۔ یہی وجہ ہے کہ اس تحریک کے ماضی پر گہری نظر رکھنے والے لوگ اس حقیقت کا کھلے دل سے اعتراف کرتے ہیں کہ اس کی کامیابیوں اور کامرانیوں میں بانی تحریک کے ذاتی کردار کا بہت بڑا عمل دخل تھا۔

ملا محمد عمر مجاہد کا وہ شوق جنوں پرور اور مجہد مسلسل کیسی تھی، جس نے تحریک طالبان کو جنم دیا، آئیے ابتدائی دنوں کی یہ کہانی خود انہیں کی زبانی سنتے ہیں۔ تحریک کے آغاز کی یہ داستان انہوں نے خود ۱۳/ اپریل ۱۹۹۶ء قندھار میں افغان علماء کے ایک بہت بڑے مجمع کو سنائی تھی:

”تحریک کا آغاز اس طرح ہوا کہ ایک دن میں مدرسے میں طلبہ کے درمیان بیٹھا کتاب پڑھ رہا تھا۔ اچانک میں نے کتاب بند کر دی، اپنے ساتھ

ایک اور طالب علم کو لیا اور ہم دونوں مدرسے سے نکل آئے۔ ہم سنگ حصار سے
 زنگوات آگئے، وہاں ہم نے ایک شخص سے موٹر سائیکل مانگی۔ اس شخص کا نام
 سرور تھا اور وہ طولقان کا رہنے والا تھا۔ پھر میں نے اپنے دوست کو اپنے ساتھ
 موٹر سائیکل پر بٹھایا اور اسے بتایا کہ ہم مختلف مدارس کے طلبہ کے پاس جائیں
 گے۔ چنانچہ شام کو ہم ترخو آگئے۔ اس دوران میں نے اپنے رفیق سفر سے کہا
 کہ ہم گھومتے رہیں گے اور یہ راستے یاد رکھو کہ ان شاء اللہ ایک انقلاب اور
 تبدیلی ضرور آئے گی۔ اگلی صبح ہم پھر موٹر سائیکل پر سوار ہوئے اور ایک مدرسے
 میں جا پہنچے، جہاں چودہ طالب علم سبق پڑھ رہے تھے۔ ہم نے ان سب کو جمع کیا
 اور ان سے بات کی کہ آپ لوگ تو کل محض کو ذہن سے نہ نکالیں۔ میں نے
 انہیں کہا کہ دیکھیں اللہ کا دین پائمال ہو رہا ہے اور کچھ لوگوں نے اس کو ایسا بنا دیا
 ہے کہ دوسرے لوگ بھی برباد ہو رہے ہیں، برے بنتے جا رہے ہیں، ایک
 مخصوص طریقے سے مسلمان تباہ کیے جا رہے ہیں۔ یہ لوگ دوسرے مسلمانوں کو
 بھی فسق و فجور کا عادی بنا رہے ہیں اور فسق کو عام کر کے جاری رکھنا چاہتے ہیں،
 بد معاش اور بد قماش لوگ تمام علاقوں پر قابض ہو چکے ہیں، رابرینی اور لوٹ مار
 جاری ہے، ہر راستے پر لوگوں کی عزتیں لوٹی جا رہی ہیں، لوگوں سے مال زبردستی
 چھین لیا جاتا ہے اور قتل ہو رہے ہیں۔ میں نے ان طلبہ سے کہا کہ ظلم و ستم کے
 ایسے ماحول میں درس و تدریس کا سلسلہ جاری نہیں رکھا جاسکتا۔ اس انداز سے یا
 زندہ باد، مردہ باد کے نعروں سے یہ مسائل حل نہیں ہو سکتے۔ ہم آپ سے یہ کہتے
 ہیں کہ اگر آپ دین کا علم واقعی اللہ کی رضا کیلئے حاصل کر رہے ہیں تو اللہ کی
 رضاء ہی کیلئے اب آپ کو یہ سلسلہ چھوڑنا ہوگا اور اب یہ تعلیم جاری نہیں رہے
 گی۔ میں نے ان سے یہ بھی کہا کہ ہم سے کسی نے پیسے کا وعدہ نہیں کیا ہے، ہم
 اپنے وطن کے مسلمانوں سے روٹی مانگیں گے، معلوم نہیں وہ روٹی دیں گے بھی یا
 نہیں؟ ہمیں پھر پڑھنے کا موقع بھی نہیں ملے گا، کیونکہ یہ کام ایک دن یا ہفتے کا
 نہیں اور نہ مہینے یا سال کا ہے۔ یہ بھی معلوم نہیں کہ یہ تبدیلی کسی کے بس کی بات

بھی ہے یا نہیں؟ میں نے ان طلبہ کو غیرت اور حوصلہ دلانے کیلئے یہ بھی کہا کہ جب یہ فاسق اور فاجر لوگ اس شدید گرمی میں ان گرم پتھروں پر بیٹھ کر اللہ کی نافرمانی اور اللہ کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں اور کھلے عام یہ کام کر رہے ہیں تو پھر ہم اور آپ تو اپنے آپ کو اللہ والے اور دین والے کہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم دین کی خدمت کرنا چاہتے ہیں تو اعلانیہ نہیں کر سکتے۔ آپ لوگ اتنی غفلت نہ برتیں اور اتنی بے حسنی کا مظاہرہ نہ کریں۔ پھر میں نے اپنے منصوبے کو ذرا مزید مشکل انداز میں پیش کرتے ہوئے ان طلبہ سے یہ بھی کہا کہ اگر ہم نے کسی جگہ پر قبضہ کر لیا تو وہاں بیٹھے رہیں گے، لیکن یہ گلے شکوے نہیں شروع کر دیں گے کہ جی ہماری تعلیم نہیں ہے، ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، اسلحہ نہیں ہے یا روٹی نہیں ہے۔ ان سب باتوں کے بعد میں نے ان سے پوچھا کہ بتائیے آپ لوگ یہ کام کر سکتے ہیں یا نہیں؟ اللہ کی قسم ان چودہ طلبہ میں سے ایک نے بھی یہ نہیں کہا کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں یا کرنے کیلئے تیار ہوں۔ ان سب نے مجھے یہی کہہ کر اگر جمعہ کی رات (جب مدارس میں چھٹی ہوتی ہے) آپ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو ہم ساتھ دے سکتے ہیں ورنہ نہیں۔ میں نے ان سے پوچھا کہ جمعہ کے بعد یہ کام کون کرے گا؟ اللہ گواہ ہے، بات بالکل اسی طرح ہے، اگر یہ کام ہم اسلحہ یا دوسرے وسائل کے بھروسے پر کرنا چاہتے تو دوسرے مدارس کے طلبہ کو بھی انہیں کی طرح سمجھ کر واپس سیدھا اپنے مدرسہ میں آجاتے، لیکن میں نے اللہ کے ساتھ عہد کیا تھا اور محض توکل اختیار کیا تھا، لہذا میں نے اپنے عہد کو پورا کیا۔ یہ سب توکل کی برکت ہے، اللہ تعالیٰ نے میری مدد فرمائی اور میرے ساتھ وہ معاملہ کیا جو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں۔ بہر حال ان طلبہ سے رخصت ہو کر ہم دوسرے مدرسے میں آ گئے۔ وہاں کے طلبہ سے بھی ہم نے اسی انداز سے بات کی، بلکہ ان کے سامنے کام کو مزید مشکل بنا کر پیش کیا اور انہیں باور کرایا کہ یہ کام آسان نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود وہاں کے سب طلبہ نے جو پانچ یا سات تھے، اپنے نام میرے پاس لکھوائے اور میرا ساتھ دینے کیلئے

تیار ہو گئے۔ یہ اور پہلے مدرسے کے طلبہ سب ایک ہی امت اور قوم سے تعلق رکھتے تھے اور ایک ہی علاقے میں رہتے تھے۔ یہ نہیں تھا کہ یہ کسی دوسری امت کے تھے اور وہ دوسری امت کے، یہ بھی نہیں تھا کہ یہ مولوی تھے اور وہ جاہل، ایسا بھی نہیں تھا کہ یہ مرد تھے اور وہ عورتیں، یہ سفید ریش تھے اور وہ بچے۔ ابتداء ہی میں یہ عجیب حکمت تھی کہ مجھے ایک زبردست آزمائش سے گزرنا پڑا۔ یہی نقطہ آغاز تھا اور یہیں سے ہم نے تحریک شروع کی۔ ہم اسی طرح موٹا سا نیل پر گھومتے رہے، حتیٰ کہ عصر تک ہم نے ۵۳ افراد کو اپنے ساتھ کام کرنے کیلئے تیار کر لیا۔ صرف توکل کرنے والے افراد۔ میں نے ان سب سے کہا کہ آپ لوگ صبح سویرے ہمارے پاس آ جائیں اور پھر میں اپنے ٹھکانے پر چلا آیا۔ لیکن وہ سب طلبہ رات ہی کو ایک بجے ہمارے محلے میں آ گئے، حالانکہ ابھی چوبیس گھنٹے بھی پورے نہیں ہوئے تھے، ہمارے ایک مولانا صاحب صبح سویرے مسجد میں گئے تو دیکھا کہ وہ سب طلبہ وہاں پہلے سے پہنچے ہوئے ہیں۔ اسی دن صبح دس بجے ہم اپنے ساتھ دو ڈرائیور بھی لے آئے۔ پھر ہم نے اپنا ایک آدی حاجی بشر نامی شخص کے پاس بھیجا اور اس سے دو گاڑیاں مانگیں۔ اس نے گاڑیاں فراہم کر دیں۔ پھر ہم اپنے ان ساتھیوں کو ”کشک نخود“ لے آئے، کچھ اور افراد بھی ہمارے ساتھ ہو گئے۔ جب تعداد بڑھی تو ہم نے اپنے ٹھکانے سے پانچ میل کے فاصلے پر اسلخا اکٹھا کیا اور کام شروع کر دیا۔“

.....☆.....☆.....

بانی تحریک کے ذاتی کردار میں ان کے حالات زندگی کے کئی روشن پہلو بہت اہم اور واضح ہیں جن کے ذکر کے بغیر ان کا تذکرہ یقیناً ادھورا سمجھا جائے گا۔ ملامحمد عمر مجاہد کی شخصیت کا سب سے اہم پہلو ان کا تقویٰ اور پرہیزگاری ہے۔ اپنے اس وصف کی بناء پر انہیں طالبان میں انتہائی محترم مقام حاصل ہے۔ ملامحمد عمر کے تقویٰ اور پرہیزگاری کی اسی شہرت کا تذکرہ کرتے ہوئے پیٹر مارسٹن نے لکھا ہے:

”یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ (لامحمد عمر) ایک متقی آدی ہیں اور سادہ سی زندگی بسر کرتے ہیں۔“

راقم الحروف کو طالبان کے ایک قدیم ساتھی نے بتایا کہ تحریک طالبان کے منظم ہونے کے بعد

جب پہلی مرتبہ باقاعدہ امیر المؤمنین منتخب کرنے کیلئے مشاورت کی گئی تو اکثریت نے ملا محمد عمر کے پرانے ساتھی ملا یار محمد شہید رحمہ اللہ کے بارے میں مشورہ دیا کہ انہیں امیر منتخب کیا جائے۔ مگر پھر ملا یار محمد شہید نے کہا کہ اگرچہ میں عمر میں بڑا ہوں لیکن میری نظر میں ملا محمد عمر تقویٰ اور پرہیزگاری میں سب سے آگے ہیں لہذا میری رائے یہ ہے کہ ملا محمد عمر صاحب ہی کو امیر منتخب کیا جائے۔ یہ سن کر تمام ارکان شورائی نے ملا محمد عمر کو امیر تسلیم کیا اور ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔

غالباً اسی تقویٰ ہی کا نتیجہ ہے کہ ملا محمد عمر بہت ہی کم گواہ ہوئے ہیں اور وہ لوگ جن کو ان سے ملاقات کا موقع ملا ہے اچھی طرح جانتے ہیں ملا محمد عمر صاحب مختصر الفاظ میں جامع بات کرتے ہیں اور انتہائی دھیمے لہجے میں پست آواز سے بولتے ہیں۔

انہیں لوگوں سے اختلاط اور میل جول کا بھی قطعاً شوق نہیں صرف ضرورت کے وقت لوگوں سے ملتے ہیں اور کسی غیر مسلم سے ملنا تو انہیں بالکل ہی گوارا نہیں۔ غیر ممالک سے آئے ہوئے سرکاری نمائندوں سے بھی ان کی ملاقاتیں نہ ہونے کے برابر رہی ہیں۔ شاید وہ واحد سربراہ مملکت رہے ہیں جنہوں نے سات سال حکمرانی کی لیکن اس دوران ایک بار بھی وہ اپنے ملک سے باہر نہیں گئے۔ سعودی عرب کے شہزادے ترکی الفیصل نے جب ایک ملاقات کے دوران انہیں سعودی حکومت کی جانب سے اپنے وزرا اور مشیروں سمیت حج و عمرہ کی دعوت دی تو انہوں نے جواب دیا کہ ”ابھی ہم پر جہاد فرض ہے حج و عمرہ نہیں، جب ہم جہاد سے فارغ ہو جائیں گے تو پھر حج و عمرہ بھی ادا کر لیں گے۔“

اپنے پورے دور حکومت میں وہ صرف دو مرتبہ ملک کے دارالحکومت کاہل گئے اور اس کے علاوہ ان کے کسی تفصیلی سفر کے بارے میں معلومات نہیں۔

ملا محمد عمر صاحب علماء کرام، بزرگوں اور مشائخ سے خصوصی عقیدت رکھتے ہیں اور اپنے دور میں انہوں نے ایسے لوگوں کی بھرپور خدمت کی ہے۔ اسلام کی سر بلندی اور ملت کی بقاء کیلئے اپنی جانوں کا نذرانہ دینے والے شہداء سے بھی انہیں حد درجہ محبت تھی، چنانچہ وہ بارہا ان دو قبرستانوں پر فاتحہ خوانی اور مراقبہ کی حالت میں دیکھے گئے جن میں سے پہلے قبرستان میں وہ شہداء مدفون ہیں جنہیں روسی افواج نے گمنامی کے عالم میں شہید کر کے ایک ہی قبر میں دفن کر ڈالا تھا، کہا جاتا ہے کہ ان میں اکثر شہداء علماء دین تھے۔ دوسرا قبرستان قندھار کے شمال میں واقع ہے جس میں ۱۹۹۷ء میں مزار شریف میں ازبکوں اور شیعوں کے ہاتھوں شہید ہونے والے ہزاروں طالبان کی قبریں ہیں۔ قندھار سے

طالبان کے انخلاء کے کچھ دنوں بعد قندھار کے کچھ لوگوں نے ایک دن اچانک ہی ملا عمر صاحب کو اول الذکر قبرستان میں حسب سابق فاتحہ خوانی کرتے ہوئے دیکھا، اس واقعہ کی خبر جنگل کی آگ کی طرح پورے علاقے میں پھیل گئی مگر جب امریکی افواج نے ملا صاحب کو گرفتار کرنے کیلئے اس قبرستان کا رخ کیا تو وہاں ملا عمر کا نام و نشان تک نہ تھا، علاقے کی ناکہ بندی کے باوجود امریکیوں کو وہ نہیں مل سکے۔

ملا عمر صاحب کی کامیاب قیادت کا ایک راز ان کی طبیعت کا استغناء بھی ہے۔ وہ اگر چاہتے تو افغانستان جیسے ملک کی حکمرانی کے دوران بھی عیش و عشرت کی زندگی بسر کر سکتے تھے مگر انہوں نے سات سال کے طویل عرصے میں کبھی بھی اپنی بات چیت، رہن سہن، کھانے پینے یا سفر و حضر سے یہ ثابت کرنے کی کوشش نہیں کی کہ وہ امارت اسلامیہ افغانستان کے حکمران ہیں۔

میری ذاتی معلومات کے مطابق انہیں پاکستان کے بعض حلقوں کی جانب سے اعلیٰ رہائش گاہ کی پیشکش کی گئی مگر انہوں نے بے نیازی کے ساتھ اس درخواست کو رد کر دیا۔ تحریک طالبان کے ابتدائی دنوں میں انہوں نے قندھار کے مضافات میں ایک کچے مکان میں رہائش رکھی اور پھر جب سرکاری مصروفیات بڑھ گئیں تو وہ قندھار شہر میں بنے ہوئے ایک بڑے مگر سادہ سے مکان میں منتقل ہو گئے۔ اس مکان کے دروازے کی دونوں جانب مندرجہ ذیل عبارت جلی حروف میں لکھی تھی:

لله الأمر

(حکمرانی صرف اللہ ہی کیلئے ہے)

ملا عمر صاحب کو کئی مرتبہ ان کے مخالفین نے بڑی بڑی رقوم پیش کرنے کی بھی کوشش کی مگر انہوں نے ہمیشہ ایسی پیشکش کو رد کر دیا۔ تحریک طالبان کے ابتدائی دنوں میں کابل پر حکومت کرنے والے صدر ربانی نے اپنا ایک وفد ملا عمر صاحب سے اظہارِ بھکتی کے نام پر روانہ کیا جس میں کابل حکومت کے وزیر اطلاعات اور وزیر معارف و تربیت شیخ جلیل بھی شامل تھے۔ اس وفد نے ملا عمر صاحب کو ربانی کی جانب سے چار ہزار ملین افغانی کرنسی کا ہدیہ پیش کیا اور کہا کہ یہ صدر ربانی کی جانب سے تمہوڑا ساتھ ہے۔ مگر ملا عمر نے اس تحفہ کو قبول کرنے سے انکار کرتے ہوئے ان سے اپنے علاقوں میں امن و امان قائم کرنے اور شریعت نافذ کرنے کا مطالبہ کیا۔

صحیح موقف پر پختگی سے ڈٹے رہنا اور اصولوں پر سودے بازی نہ کرنا بھی ان کی طبیعت اور مزاج

کا خاص عنصر رہا ہے۔ ان کو اپنے دور میں کئی مواقع ایسے پیش آئے جب انہیں اپنے صحیح موقف کے مقابلے میں دنیا بھر سے سخت مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا، حتیٰ کہ بعض اوقات ان کے قریبی وزراء اور مشیروں نے بھی انہیں مؤقف میں لچک پیدا کرنے پر مجبور کیا، مگر وہ پھر بھی اپنی کبھی ہوئی بات پر ڈٹے رہے۔ ملا عمر صاحب کے دور میں ہمیں اس ثابت قدمی کی کئی مثالیں نظر آتی ہیں۔ جن میں سے چند ایک درج ذیل ہے:

شیخ اسامہ بن لادن کے حوالے سے طالبان کو اپنے سات سالہ عہد میں سے پانچ سال تک شدید مشکلات اور اعتراضات کا سامنا رہا ہے اور اس سلسلہ میں بیرونی دنیا کی جانب سے انہیں بار بار بڑی طرح مشکلات جھیلنی پڑیں اور یہ مشکلات بعض اوقات اس قدر بڑھ جاتیں کہ طالبان کے کئی بڑے بڑے عہدیدار اس مشکل سے چھٹکارا حاصل کرنے کیلئے شیخ اسامہ کی میزبانی کے مؤقف پر لچک میں آجاتے مگر اس سلسلہ میں ملا عمر صاحب نے ہمیشہ دو ٹوک مؤقف کا اظہار کیا اور اسی پر وہ شروع سے لے کر آخر تک قائم رہے۔ حتیٰ کہ جب شیخ اسامہ کی میزبانی کی پاداش میں افغانستان پر ۲۰۱۹/۲۰ اگست ۱۹۹۸ء کی درمیانی شب بمباری کی گئی تو اس وقت بھی ملا عمر صاحب کے مؤقف میں کوئی لچک نہیں آئی۔ ان حملوں سے چند دن قبل بی بی سی پشتو سروس نے ملا عمر صاحب سے اس موضوع پر انٹرویو کیا جس میں ملا صاحب نے اپنا مؤقف مندرجہ ذیل انداز میں پیش کیا:

”تمام حکومتیں ہمارے مقابلے پر آئیں تو بھی دنیا کی کوئی طاقت ہمیں اسامہ کو حوالے کرنے پر مجبور نہیں کر سکتی۔ اسامہ ہمارا مہمان ہے اسے ہم کسی دباؤ یا لالچ پر کسی کے بھی حوالے نہیں کر سکتے، کوئی بھی غیرت مند مسلمان کسی مسلمان کو کسی کافر کے حوالے نہیں کر سکتا۔ ہم اسامہ کی حفاظت آخردم تک کریں گے اور ضرورت پڑی تو اس کی حفاظت اپنے خون سے کریں گے۔ امریکی سی آئی اے نکلی اور بے کار ہو چکی ہے جیسی وہ اپنی خراب کارکردگی کو چھپانے کیلئے ہر دم دھماکے کا الزام اسامہ پر لگاتی ہے۔ اسامہ کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ وہ اتنے دور دراز علاقوں میں بم دھماکے کرائے۔“

اس انٹرویو کے چند دن بعد ہی امریکہ نے افغانستان پر رات کے اندھیرے میں حملہ کر دیا۔ کروڑوں میزائلوں سے کیے جانے والے ان حملوں کے نتیجے میں افغانستان میں زبردست تباہی پھیلی مگر

اس مرد قلندر کا اب بھی وہی مؤقف تھا۔ چنانچہ حملوں کے بعد جب بی بی سی نے دوبارہ انٹرویو کیا تو انہوں نے کہا:

”پورا افغانستان بھی اُلٹ جائے اور ہم تباہ و برباد بھی ہو جائیں تو بھی شیخ اسامہ کو کسی کے حوالے نہیں کریں گے۔ میری غیرت برداشت نہیں کرتی کہ کسی مسلمان کو کافر کے حوالے کروں۔ ہماری قوم اسلامی غیرت سے سرشار ہے اور ہم ہر قسم کے خطرات برداشت کرنے کیلئے تیار ہیں۔ امریکہ جو کرنا چاہتا ہے کر لے، ہم بھی جو کر سکتے ہیں کریں گے۔“

ملا محمد عمر مجاہد نے شیخ اسامہ کے مؤقف پر پلک رکھنے والے اپنے کئی وزراء، مشیروں اور سفیروں کو بھی برطرف کر دیا یا انہیں معطل کر دیا۔ مگر خود آخر وقت تک اپنی بات پر ڈٹے رہے اور پھر اسی کی پاداش میں افغانستان کا اقتدار ان سے چھین لیا گیا۔ لیکن یہ بات اب بھی پورے دُشوق کے ساتھ کہی جاسکتی ہے کہ وہ آج بھی افسردہ نہیں ہوں گے۔ کیونکہ انہوں نے خود ایک مرتبہ سعودی شہزادے ترکی الفیصل سے کہا تھا:

”جب تک ہمارے اندر خون کا ایک قطرہ بھی باقی ہے، ہم اسامہ کی حفاظت کریں گے، خواہ افغانستان کے سب گھر تباہ ہو جائیں، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں اور لوہا پگھل جائے ہم پھر بھی اسامہ کو حوالے نہیں کریں گے۔“

ملا محمد مجاہد کے عزم و استقلال کے کڑے امتحان کا ایک اور موقع اس وقت پیش آیا جب ۱۹۹۹ء کے آخر میں انٹین انٹیر لائن کے ایک مسافر طیارہ کو بعض نامعلوم افراد اغوا کر کے قندھار لے آئے اور اس کے بدلے انہوں نے بھارتی جیلوں میں قید کشمیری جہادی راہنما مولانا محمد مسعود ازہر اور ان کے اسیر رفقاء شیخ عمر سعید اور مشتاق زرگر کی رہائی کا مطالبہ کر دیا۔ طیارہ ہائی جیکنگ کے واقعہ کا حل تلاش کرنا طالبان کیلئے ایک چیلنج کی شکل اختیار کر گیا کہ اگر وہ اس میں جانبداری کا مظاہرہ کرتے تو سارا الزام ان پر آتا اور اگر وہ اس سے دستبردار ہوتے تو وہ بھی انہیں پسند نہیں تھا، کیونکہ اغواء کے بدلے میں اغواء کار جن لوگوں کی رہائی چاہتے تھے وہ سب مجاہدین تھے اور طالبان دنیا کے کسی بھی خطے کے مجاہدین کیلئے خیر خواہی کے بھرپور جذبات رکھتے تھے۔ اس موقع پر طالبان کے کئی راہنماؤں نے ملا محمد عمر صاحب کو مشورہ دیا کہ وہ اس معاملے سے بیڈل ہو جائیں اور طیارے کو کہیں اور روانہ کر دیں۔ مگر ملا عمر نے اس سے

انکار کر دیا اور کہا کہ کچھ بھی ہو جائے وہ اس مسئلے کو حل کرنے میں ضرور دلچسپی لیں گے۔ ان کے اس فیصلے کے بعد دنیا نے دیکھا کہ طالبان نے جس دانائی اور ہوشیاری سے یہ مسئلہ حل کیا پوری ہائی جیکنگ کی تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ خود بھارتی حکام نے بھی اس موقع پر ملاح محمد عمر مجاہد اور ان کے ساتھیوں کی حکمت عملی کا اعتراف کیا۔

ملاح محمد عمر مجاہد کے مؤقف پر ڈٹے رہنے کی تیسری واضح مثال اس وقت سامنے آئی جب ۲۰۰۰ء میں طالبان نے بامیان کے بتوں کو مسمار کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس فیصلے کے بعد دنیا بھر کے ممالک نے طالبان کو اس سے باز رکھنے کی کوشش کی۔ مگر ملاح عمر صاحب نے بیرونی دنیا کے پروپیگنڈے کی نہ پرواہ کی اور نہ ہی ذرائع ابلاغ کا مخالفانہ رویہ انہیں اس سے روک سکا۔ انہوں نے ان مشکل حالات میں بھی اپنے مؤقف پر ثابت قدمی دکھاتے ہوئے بتوں کو وقت مقررہ پر مسمار کروایا، اور پھر اس پر شکرانے کے طور پر سوگائیں کی قربانی بھی پیش کی۔ بتوں کی مسماری کے بعد امیر المؤمنین نے مسلمانوں کے نام ایک خصوصی پیغام جاری کیا، جس میں کہا گیا تھا کہ:

”بلاشبہ بتوں کو معبود کے طور پر یا کسی اور حیثیت سے رکھنا منکرات کے سوا کچھ نہیں اور منکرات کی حفاظت حرام ہے۔ یہ عبرت کا سامان نہیں بلکہ شرک اور بت پرستی کی یاد تازہ کرنے کے اسباب ہیں۔ اور اگر بت عبرت کے اسباب ہوتے تو ان کو دیکھنے کیلئے آنے والے سیاح عبرت کے خزانے ہوتے۔ جو لوگ بتوں کی حفاظت میں مصلحت سمجھتے ہیں ان کی مصلحت تو محض یہ ہے کہ کافروں کو خوش کیا جائے اور کافر تو قرآن کے فیصلے کے مطابق مسلمانوں سے ہرگز راضی نہیں ہوں گے۔ اِلَّا یہ کہ ان کی راہ اختیار کی جائے۔ نعوذ باللہ۔ بلاشبہ یہ بت تو جاہلیت کی باقیات اور آثار ہیں۔ کون اتحق ان کو اپنے غیرت مند آباء و اجداد کی یادگار مان سکتا ہے بلکہ غیرت مند مسلمان ان کے وجود کو اپنے لیے عار اور طعنہ سمجھتے ہیں اور اس کو ہٹانے کیلئے بے چین۔ کیا ایسا بھی کوئی ہے جو آج اپنے گھر سے کوئی بت نکال کر فخر سے کہے کہ یہ میرے باپ دادا کا معبود ہے؟ ہمارے آباء و اجداد کی نشانیوں اور آثار تو ان کے علمی، صنعتی، تعمیری اور بصیرت سے لبریز کارنامے ہیں ان کی بیدار مغزی اور سمجھداری کی ایک شاندار تاریخ ہے اور

امارت اسلامی افغانستان خود کو اس ورثے کی حفاظت کا ذمہ دار سمجھتی ہے۔ اس لیے ہم اپنے افغان بھائیوں اور دیگر مسلمان بھائیوں سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ افغانستان کی اسلامی امارت کی حیثیت اور اغراض و اہداف کو اچھی طرح سمجھیں اور جان لیں کہ امارت اسلامی افغانستان اسلامی شریعت کو حق اور سچ سمجھتی ہے اور اسی کے نفاذ سے بہرہ مند ہے۔ اور شرعی احکام کو توڑنا، ان کا مذاق اڑانا اپنے ایمان کے ساتھ کھیل کھیلنے کے مترادف ہے اور اس کیلئے وہ کبھی تیار نہیں ہوگی۔“


ملا محمد عمر مجاہد کی استقامت و عزیمت کا ایک بے مثال مظاہرہ اس وقت ہوا جب گیارہ ستمبر ۲۰۰۱ء کے حملوں کے بعد امریکہ نے افغانستان پر باقاعدہ حملوں کا اعلان کر دیا۔ یہ وقت سخت مشکل اور کٹھن تھا کیونکہ ایک طرف کمزور سا افغانستان تھا اور دوسری جانب امریکہ جیسی طاقتور حکومت، لیکن اس صورتحال میں بھی ملا محمد عمر اپنے موقف پر پوری طرح ڈٹے رہے اور انہوں نے ثابت کر دیا کہ بے غیرتی کی زندگی کی نسبت عزت کے ساتھ مرجانا زیادہ بہتر ہے۔ افغانستان کے خلاف امریکی جارحیت کے آغاز کے موقع پر امیر المؤمنین نے افغان عوام سے آخری خطاب کرتے ہوئے فرمایا:

”موجودہ حالات میں ہر مسلمان کو اس کا ایمان اور اس کی غیرت لاکارتی ہے کہ ہر گھڑی ثابت قدم رہے، اگر ایمان اور غیرت نہ ہو تو مسلمان ہمیشہ خوف زدہ ہوں گے اور پھر ان کا احترام رونے زمین پر نہ ہوگا، چنانچہ وہ آخر کار مریں گے بھی لیکن بے ایمانی اور بے غیرتی کی حالت میں مریں گے، لہذا اول تو پوری دنیا کے مسلمانوں کو چاہئے کہ اپنے ایمان کے متعلق غیرت کا اظہار کریں، چاہئے کہ افغانستان کے بارے میں غیرت کا اظہار کریں، اور چاہئے کہ مسلمانوں کے معاملے میں غیرت کا اظہار کریں، اسلام کی خاطر قربانی میں ہر ایک کو ہر کام کیلئے حاضر ہونا چاہئے اور اگر بالفرض وہ ایسا نہیں کرتے تو نہ کریں، وہ تو ہر کسی کا اپنا معاملہ ہے لیکن افغانستان کے عوام کو تو اپنی تاریخ، غیرت اور ایمان پر قائم رہنا چاہئے، انگریزوں اور روسیوں کے وقت تو میں نہیں تھا، نہ طالبان تھے، نہ اسامہ تھا، تو پھر وہ کیوں آئے؟ افغانستان کے لوگوں نے قربانی دی، تو نہ میں نے ان کو کہا تھا نہ اسامہ نے ان کو کہا تھا۔ نہ انہیں کندھے سے ہلا

کر کہا گیا تھا کہ لیجئے یہ کام کریں۔ اس وقت افغانستان کے عوام نے جہاد کیا اور غیرت اور ایمان کا کام کیا۔ اب بھی اسی طرح کا ایک معاملہ ہے۔ ہر مسلمان کو اس وقت ثابت قدمی دکھانی چاہئے، چاہے مرے یا زندہ رہے لیکن راستہ یہی ہے اور ضرور بالضرور کامیابی اسی صورت میں حاصل ہوتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، مسلمان کو اپنے خدا پر اتماد کرنا چاہئے، اپنے خدا کے قول اور خبر پر یقین رکھنا چاہئے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: "وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین" (آپ لوگ کامیاب ہوں گے اگر آپ مومن ہوں گے) مومن کے معنی یہ تو نہیں کہ بس میں تو کچھ نہیں کر سکتا، بس محض مؤمن ہیں، صرف "ہم مومن ہیں" پر تو آپ کی نجات نہیں ہو سکتی، ہاں! جب آپ خود کو سچا مومن بنالیں تو پھر آپ کیلئے ضرور بالضرور کامیابی ہوگی، یہ اللہ جل جلالہ کا وعدہ ہے اور خدا تعالیٰ کبھی اپنے وعدہ کے خلاف نہیں کرتا۔ عجیب بات ہے کہ میں نہ خواستہ باخستہ ہوتا ہوں اور نہ ہی بے دینوں کے ساتھ اسلام کے خلاف راستہ اختیار کرتا ہوں، باوجودیکہ میرا اقتدار بھی خطرے میں ہے، میری سربراہی اور کرسی بھی خطرے میں ہے، میری زندگی بھی خطرے میں ہے، پھر بھی جان بھی قربان کرنے کیلئے تیار ہوں، اگر میں کافروں کے مطالبے پر ایسی راہ اختیار کروں جو اسلام کے خلاف ہو ان کے ساتھ موافقت کروں اور ان کے ساتھ معاملات ٹھیک رکھوں تو میری ہر چیز مستحکم ہوگی، میری بادشاہی اور سلطنت بھی برقرار رہے گی اور اسی طرح طاقت، پیسہ اور جاہ و جلال بھی خوب ہوگا، جس طرح دیگر ممالک کے سربراہوں کا ہے، لیکن میں اسلام کی خاطر ہر قربانی کیلئے حاضر ہوں، سب کچھ کرنے کیلئے حاضر ہوں، جان قربان کرتا ہوں، سب کچھ سے بے پرواہ ہو چکا ہوں، سلطنت، اقتدار، طاقت اور ہر چیز کی قربانی کا عزم کر چکا ہوں، اسلامی غیرت کرتا ہوں، اسلام پر فخر کرتا ہوں، اس پاک وطن پر غیرت کرتا ہوں، تو ایک عام فرد کو کیا ضرورت پیش آئی کہ وہ بے غیرتی اور بزدلی دکھائے جس کی کوئی بھی چیز خطرے میں نہیں ہے؟ صرف اسے ایک وقت

جہاد میں حاضر ہونا ہوگا یا حاضر نہیں ہوگا اور پھر بھی حواس باختہ ہوتا ہے، اس طرح جو غیر مالک میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو کیا حادثہ پیش آیا ہے؟ یہ لوگ کس وجہ سے پھکلائے ہوئے ہیں، اور کس چیز سے خوفزدہ ہیں؟ جبکہ ان کی کوئی بھی چیز خطرے میں نہیں ہے، میری زندگی، تمام طاقت اور اقتدار خطرے میں ہے اور پھر بھی غیرت کرتا ہوں تو آپ کو کیا ہوا کہ آپ ایسا نہیں کر سکتے یا نہیں کرتے؟ آپ کا ایمان ضعیف ہے اس لیے آپ ایسا نہیں کرتے، اگر آپ میں ایمان ہے اور آپ کو اپنے ایمان پر فخر ہے یا آپ مضبوط ایمان کے طلبگار ہیں تو پھر آپ کو بھی ضرور ایسا ہی کرنا چاہئے، جب میں اس قربانی کیلئے خود کو پیش کرتا ہوں اور کسی چیز کی پروا نہیں کرتا تو آپ کیوں ایسا نہیں کر سکتے؟ میں آپ پر حیران ہوں۔ اگر آپ میں ایمان ہو اور آپ کا ضمیر زندہ ہو تو چاہئے کہ آپ اٹھ کھڑے ہوں اور اگر ایمان اور ضمیر آپ میں نہیں تو پھر مجھے بھی آپ کی پروا نہیں، پھر میں آپ کی کیا بات مانوں؟ کیوں مانوں؟ اور کس طرح مانوں؟ آپ مجھے مشورہ دیتے ہیں یا مجھے کہتے ہیں کہ ایسا کرو ایسا کرو۔ اگر آپ میں مضبوط ایمان ہے تو آپ ایسی چیز کو ہرگز برداشت نہیں کر سکتے جس میں ایمان کا نقصان ہو، جس میں اسلام کا نقصان ہو، جس میں ملکی حدود کا نقصان ہو یا اس میں دیگر نقصانات ہوں، یہ جو آپ سب کچھ برداشت کرتے ہیں تو محض اس لیے کہ آپ کا ایمان کمزور ہے، آپ کا اسلام کمزور ہے، آپ کو چاہئے کہ اپنی اصلاح کریں اور آپ کو چاہئے کہ ایمان اور اسلام کو مضبوط کریں، آپ خود اپنے طریقہ کار پر نظر ثانی کریں، ایمان اور اسلام کو تھامے رکھیں، اگر آپ اس کی خواہش کریں کہ میں اپنے ایمان اور اسلام کی حفاظت کروں اور اپنی غیرت کو محفوظ کروں تو کبھی ایسی چیز وجود میں نہیں آسکتی جس میں دین یا ملت کا نقصان ہو، لہذا ہر مسلمان اس بارے میں غور کرے اور پکا عزم کرے، اپنے اسلام اور قرآن پر غیرت کرے، اللہ جل جلالہ کی مہربان ذات آپ کو کامیابی دے۔ کامیابی صرف یہ ہے کہ ایمان پر موت آئے۔ یہی بڑی کامیابی ہے، اور اگر کچھ

بھی نہ ہو تو صرف یہی کامیابی ہے۔ اسلام کے پرچم کی سر بلندی اسی میں ہے، اس میں نہیں کہ دنیاوی چیزیں باقی رہ جائیں۔ مسلمان کی حقیقی کامیابی اس میں ہے کہ اسلام کی ناموس اور غیرت اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ اور اسلام کا پرچم اسی طرح اونچا اور بلند رہے، اگر ہم ایسی چیزوں پر راضی ہو جائیں جو کفار کو پسند ہوں تو ہم نے اسلام کے نام کو ڈھایا اور اسلامی غیرت کو ملیا میٹ کر دیا، یاد رکھئے! بہادری اور قربانی سے اسلام کا پرچم نہیں جھکتا، اسلام کا پرچم ان چیزوں سے جھکتا ہے جن چیزوں سے ایمان اور اسلام کو نقصان پہنچتا ہو۔ اسی طرح کفار کی بات ماننے سے اسلامی پرچم جھک جاتا ہے۔ اگر آئندہ دنوں جہاد کی ضرورت پیش آجائے تو ضروری ہے کہ ہر مسلمان آمادہ ہو، چاہئے کہ اپنی جان کی قربانی کیلئے تیار ہو، ہر شخص یہ سمجھ لے کہ جب میں کسی کو جہاد پر ابھارتا ہوں اور اس کی ترغیب دیتا ہوں تو اپنے اقتدار کیلئے نہیں دیتا، میرے اقتدار کی حفاظت تو اس میں نہیں ہے، اس کی حفاظت تو اس میں ہے کہ جس طرح دیگر ممالک کفار کے راستے پر عمل پیرا ہیں میں بھی ان کے راستے پر عمل پیرا ہو جاؤں، اس وقت یہ لوگ میری بہت زیادہ اور مکمل حمایت کریں گے، حتیٰ کہ فوج بھی دیں گے، مالی امداد بھی دیں گے، سب کچھ دیں گے، تو اقتدار کی حفاظت ان کی بات ماننے میں ہے، اس میں نہیں ہے کہ سرنگا کر کے قربانی کیلئے حاضر ہو جاؤں۔“



امیر المؤمنین ملا محمد عمر مجاہد کی عسکری صلاحیتوں اور جنگی چالوں کا بھی تحریک طالبان کی فتوحات میں بہت بڑا کردار ہے۔ چنانچہ یہ بات بھی جانتے ہیں کہ ملا محمد عمر مجاہد اگرچہ خود قندھار میں رہتے تھے مگر وائرلیس کے ذریعہ بڑی بڑی جنگوں میں برابر کے شریک رہے۔ وہ جنگی میدانوں میں ہر قدم پر طالبان کی راہنمائی کرتے اور مسلسل انہیں آگے بڑھنے اور پیچھے ہٹنے سے متعلق ہدایات جاری کرتے رہتے۔ طالبان کے کئی اہم جنگی کمانڈروں نے خود کئی بار ان کی اس صلاحیت کا کھلے دل سے اعتراف کیا۔ جس کی سب سے اہم وجہ شاید یہ تھی کہ بعض اوقات جب انہوں نے ملا محمد عمر کی ہدایات کو نظر انداز کرنے کی

کوشش کی تو انہیں بھاری نقصان اٹھانا پڑا۔ ایسا ہی ایک واقعہ ۱۹۹۷ء کے آخر میں اس وقت پیش آیا جب طالبان کی افواج قندوز سے نکل کر دوسری مرتبہ مزار شریف پر حملہ آور ہوئیں۔ جب طالبان تاشقرغان شہر میں پہنچے جو مزار شریف سے تقریباً ۴۰ کلومیٹر کی مسافت پر واقع ہے تو ملا عمر صاحب کی جانب سے انہیں ہدایت ملی کہ آئندہ کل وہ مزید پیش قدمی کر کے مزار شہر سے باہر واقع دوراہے کے مقام پر جمع ہو جائیں لیکن اس سے آگے مزید پیش قدمی اس وقت تک نہ کریں جب تک قندھار سے مزید ہدایات نہ مل جائیں۔ اگلے دن جب طالبان نے مزار شریف کی جانب سے بڑھنا شروع کیا تو دشمن نے اپنے مورچے چھوڑ کر شہر کی جانب پسپائی شروع کر دی اور پسپا ہوتے ہوئے وہ دوراہے سے بھی آگے گزر کر شہر کے اندر داخل ہو گئے۔ طالبان نے جب دشمن کو یوں فرار ہوتے دیکھا تو وہ امیر کی ہدایت بھول گئے اور دشمن کا تعاقب کرتے ہوئے دوراہے سے آگے بڑھ گئے۔ مگر کچھ ہی دیر بعد انہیں احساس ہوا کہ دشمن ہر دو طرف سے انہیں گھیرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ دشمن کی اس چال کو سمجھتے ہی طالبان کو کسی قدر پسپائی اختیار کرنی پڑی، جس کے نتیجے میں اگلے دن شام کے وقت وہ واپس اسی دوراہے کے مقام پر پہنچ گئے جہاں رکنے کا انہیں حکم ملا تھا۔

قندھار میں بیٹھ کر جنگوں میں شمولیت ہی کی وجہ سے ملا محمد عمر صاحب ان دنوں جب طالبان کسی جنگ میں مصروف ہوتے تھے قندھار میں آنے والے کسی بھی مہمان سے ملنے سے معذرت کر لیتے تھے۔ ایسے دنوں میں ان کے مشیر اور وزیر بھی بتاتے تھے کہ ملا صاحب بہت مصروف ہیں اور سارا دن نقشہ سامنے رکھ کر برسر پیکار مجاہدین کو ہدایات جاری کر رہے ہیں۔

ملا محمد عمر کا امریکہ طالبان جنگ کے دوران دشمن کے اندھا دھند حملوں کے درمیان زندہ رہنا بھی کسی کرامت سے کم نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت کے بعد اس حفاظت میں ملا صاحب کی اپنی عسکری صلاحیت کا بھی خوب دخل تھا، جس کا اظہار مختلف مقامات پر ہوتا رہا۔ مجھے طالبان کے ایک ساتھی نے بتایا کہ اس جنگ کے دوران ایک دن ملا صاحب اپنے چند معتد ساتھیوں کے ساتھ کسی خفیہ ٹھکانے پر تھے کہ وہیں بمباری شروع ہو گئی۔ ملا صاحب نے جلدی سے وہ مقام بدل دیا، مگر فوراً ہی دوسری جگہ بھی بمباری شروع ہو گئی۔ ملا صاحب نے پھر جگہ بدل لی لیکن پھر وہی معاملہ ہوا۔ یہ صورتحال دیکھ کر ملا صاحب نے اپنے ہاتھ سے دائر لیس سیٹ پھینک دیا اور پھر جب ٹھکانہ بدلا تو بمباری نہ ہوئی۔

سخت سے سخت وقت میں نہ گھبرانا بھی ملا محمد عمر صاحب کا ایک اہم وصف ہے۔ ان پر جیسے کیسے بھی حالات آتے وہ اسے خندہ پیشانی سے برداشت کرتے۔ مجھے بعض طالبان نے بتایا کہ ۱۹۹۸ء میں ایک مرتبہ طالبان کا عیشہ (خرچہ پانی) بند ہو گیا۔ جب کمانڈروں نے ملا صاحب سے اس سلسلہ میں بات کی تو انہوں نے بتایا کہ سرکاری خزانہ بالکل خالی ہے اور ان کے پاس طالبان کو دینے کیلئے کچھ نہیں۔ انہوں نے ان حالات میں اپنے کمانڈروں سے کہا:

”آپ میں سے جو مجھے چھوڑ کر جانا چاہتا ہے وہ چلا جائے اور جو ان حالات میں میرے ساتھ رہنا چاہتا ہے وہ رہے۔ آپ کو اختیار ہے لیکن میں کسی بھی موقع پر جہاد سے دستبردار نہیں ہوں گا۔“

ملا محمد عمر صاحب اسی جذبہ جہاد کی وجہ سے عالم اسلام کے سبھی مظلوم مسلمانوں کا بھی درد اور غم رکھتے ہیں اور اسی جذبے کے تحت انہوں نے بعض بین الاقوامی واقعات پر اپنے جذبات کا بھرپور اظہار کیا اور کئی موقعوں پر خلافِ عادت احتجاجی بیانات بھی جاری کیے۔ خاص طور پر کشمیر، فلسطین، چیچنیا اور کوسوو کے مسلمانوں پر ڈھائے جانے والے مظالم پر انہوں نے سخت ردِ عمل کا اظہار کیا۔ قندھار میں ایک عید کے موقع پر لاکھوں مسلمانوں کے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے ملا محمد عمر صاحب نے کہا:

”مسلمان بھائیو! آج افغانستان کے ایک بڑے حصے پر اسلامی حکومت قائم ہے جس کی وجہ سے تم اطمینان اور خوشحالی کے ساتھ عید کی خوشیاں منا رہے ہو، مگر اس موقع پر تم ان مظلوم مسلمانوں کو نہ بھولو جو مختلف علاقوں میں ظالموں کے زیر تسلط ہیں اور اپنی جان و مال اور عزت کے دفاع کی طاقت نہیں رکھتے۔ تم اس مبارک موقع پر ان مظلوم مسلمانوں کی مدد کرنے کا عہد کرو اور اگر تم ان کی مدد نہیں کر سکتے تو کم از کم ان کیلئے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ان کو ظالموں سے نجات عطا فرمائیں۔“

مسلمانوں سے اسی قلبی تعلق کی بناء پر انہوں نے پوری دنیا میں سب سے پہلے چیچنیا میں قائم ہونے والی اسلامی حکومت کو تسلیم کیا۔ حالانکہ کسی بھی دوسری حکومت نے ایسے اقدام کی جرأت نہ کی۔ ملا محمد عمر سے جب اس بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ ایسا کرنا ہمارا شرعی فرض تھا۔

یہ بھی ایک ناقابل انکار حقیقت ہے کہ ملا محمد عمر صاحب اور ان کی بڑا پاکردہ تحریک کی تیز تر

کامیابیوں میں ملا صاحب کے ان فرامین کا بھی بہت زیادہ عمل دخل ہے جو انہوں نے اپنے دور حکومت میں مختلف مواقع پر جاری کیے۔ ان فرامین سے نہ صرف یہ کہ طالبان اور افغان عوام کو بہتر طریقے سے راہنمائی ملتی رہی بلکہ طالبان کے مخالفین بھی کم از کم اس بات کا اعتراف کرنے پر مجبور ہو گئے کہ ملا محمد عمر صاحب ایک عقلمند، باخبر اور باشعور حکمران ہیں جو انتہائی دانشمندانہ اور منجھے ہوئے انداز سے کاروبار مملکت چلا رہے ہیں۔ ہم آنے والی سطور میں ملا محمد عمر صاحب کے چند اہم اور تاریخی فرامین کے اقتباسات بطور نمونہ کے درج کرتے ہیں۔

سرکاری ملازمین کی جانب سے رشوت خوری کے سدباب کے پیش نظر ملا محمد عمر صاحب نے مندرجہ ذیل فرمان جاری کیا:

”اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک اسلامی نظام حکومت میں غدر، خیانت اور رشوت جیسے مالی جرائم میں ملوث ہونا، اسلامی نظام کے بلند اہداف کے منافی اور اسکی بقاء کیلئے انتہائی مضر ہے۔ اور یہ چیز اللہ جل جلالہ کے غضب اور نظام حکومت کی ناکامی کا سبب بن سکتی ہے۔ افغانستان میں اسلامی تحریک طالبان کا قیام اور جدوجہد ایسے مفسد کے قلع قمع کیلئے ہے تاکہ ان کا رفع دفع ہو سکے۔ اسی مقصد کو رو بہ عمل لانے کیلئے مندرجہ ذیل دفعات منظور کی جاتی ہیں:

(۱)..... امارت اسلامیہ کی حدود میں کسی شخص کے بارے میں رشوت میں ملوث ہونے کا ثبوت مل جائے تو اسے بطور سزا پانچ سال قید کی سزا دی جائے گی۔

(۲)..... امارت اسلامیہ کی ساری عدالتیں اس بات کی پابند ہیں کہ رشوت میں ملوث مجرموں کے بارے میں دفعہ بالا کو نافذ کریں۔

(۳)..... یہ فرمان وقت اجراء سے نافذ العمل ہے ملک کے تمام ذرائع ابلاغ کے ذریعے اس کی تشہیر کی جائے۔“

عوام کی شکایات سننے اور لکھنے کے متعلق امیر المؤمنین نے امارت اسلامیہ کے گورنروں کے نام مندرجہ ذیل فرمان جاری کیا:

”السلام علیکم ورحمۃ اللہ! دینی اور ملی ذمہ داری کی بجا آوری کے تحت آپ حضرات اپنے اپنے صوبوں میں لوگوں کے مسائل اور جائز شکایات سننے کا

اہتمام کریں۔ اس امر کی نگرانی کیلئے ایک باصلاحیت اور فعال شورشی تشکیل دی جائے جو تحقیق کر کے لوگوں کے ساتھ گورنروں کے رویے کا جائزہ لیں اور خامیوں کی نشاندہی کریں، ان کی تیار کردہ رپورٹ میرے پاس بھیجی جائے۔ اس کام کی طرف اچھی طرح توجہ دیں اور اپنے اپنے صوبوں میں ایک ایک ”شکایت بکس“ رکھیں تاکہ وہ آپ کی اصلاحی جدوجہد میں مددگار رہوں۔“

(واضح رہے کہ افغانستان کے صوبے صرف ایک بڑے شہر اور نواحی دیہاتوں پر مشتمل ہوتے ہیں) افغانستان کے بحران کی سب سے بڑی وجہ وہاں کے لوگوں میں رچی بسی قوم پرستی اور علاقہ پرستی تھی۔ یہی وہ ناپاک جذبات تھے جنہوں نے ہستے ہستے افغانستان کو آگ میں دھکیل دیا۔ ملا محمد عمر صاحب نے اسی حوالے سے طالبان کیلئے ایک خصوصی فرمان جاری کیا:

”محترم طالبان! السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تحریک طالبان کے منشور میں قوم پرستی اور علاقہ پرستی کا کوئی تصور نہیں ہے۔ جس شخص کو بھی ذمہ داری سونپی جاتی ہے وہ اس کی اہلیت اور دینداری پر پوری طرح مطمئن ہونے کے بعد کی جاتی ہے تاکہ وہ دین و ملت کی خدمت کرے خواہ وہ کسی بھی علاقے یا قوم سے تعلق رکھتا ہو، بعض اطلاعات کے مطابق سننے میں آیا ہے کہ بعض فسادی لوگ اس طرح کے مفسد اندازوں کو رواج دینے کے خواہاں ہیں، ان کو حتمی طور پر یہ مفسد خیالات چھوڑنے چاہئیں، ورنہ یہ ان کی دین و دنیا کی تباہی و سوائی کا سبب بنے گا۔ مذکورہ بات پر ضرور عمل کیا جائے کیونکہ ایک تو یہ امر واجب ہے، اس کے علاوہ اس کے خلاف کرنے میں ملت اسلامیہ کے بہت سے نقصانات بھی ہیں، بطور عبرت گزشتہ زمانے کی تاریخ پر غور و فکر کر لیا جائے۔“

ملا محمد عمر نے اپنے پیروکار طالبان کو یہ بھی ہدایت کی کہ چونکہ وہ لوگ ملک گیری کی ہوس میں نہیں بلکہ ایک مقدس مشن کی مقدس جنگ لڑ رہے ہیں لہذا ہر دم انہیں اپنے اعمال کی اصلاح کرتے رہنا چاہئے۔ اس سلسلہ میں انہوں نے جو فرمان جاری کیا وہ اس طرح ہے:

”جیسا کہ آپ کا اور ہمارا مقصد جہاد اور اللہ کی زمین پر اللہ کا مقدس نظام قائم کرنا ہے تو اس مقدس ہدف کو حاصل کرنے کیلئے ضروری ہے کہ ہر جگہ

اور ہر وقت اسلامی اصولوں کے مطابق عمل کیا جائے۔ حالت جنگ میں اگر نامناسب کام اور منکرات صادر ہوں گے تو وہ جنگ میں ناکامی اور زخمیوں اور شہداء کی کثرت کا سبب بنتے ہیں، لہذا آپ سب ان منکرات کے سدباب کی جانب متوجہ ہوں اور ہر قیمت پر ان کا سدباب ہونا چاہئے تاکہ شریعت کے مطابق اور اخلاص سے جہاد کا فریضہ سرانجام دیا جاسکے۔“

کہا جاتا ہے کہ دنیا بھر میں استعمال ہونے والی چرس کا ۷۵ فیصد حصہ افغانستان میں پیدا ہوتا ہے۔ اور یہی چرس کی کاشت ہی افغانوں کا سب سے بڑا معاشی سہارا ہے۔ لیکن چونکہ شریعت اسلامیہ میں اس کی اجازت نہیں لہذا ملا محمد عمر صاحب نے پورے ملک میں چرس کی کاشت کو ممنوع قرار دیتے ہوئے مندرجہ ذیل فرمان صادر کیا:

”چونکہ چرس کا استعمال شرعی نقطہ نظر سے ایک ناجائز عمل ہے جس کی وجہ سے انسانی عقل و حواس کمزور ہو جاتے ہیں بلکہ بسا اوقات زائل بھی ہو جاتے ہیں۔ لہذا وزارت امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے وزیر اور تمام ذمہ داروں کو یہ اختیار دیا جا رہا ہے کہ جہاں کہیں چرس کا کاروبار یا اس کے کارخانے قائم ہیں ان کا مکمل خاتمہ کر دیں اور عوام سے اپیل ہے کہ اسلامی اور انسانی ہمدردی کے تحت ان کا بھرپور ساتھ دیں تاکہ کسی کو ان کی مزاحمت کا موقع نہ ملے۔“

ملا محمد عمر صاحب کے اس فرمان کے اجراء کے بعد خود اقوام متحدہ کے نمائندوں نے اس بات کی گواہی دی کہ افغانستان میں چرس کی کاشت کا تانائے فیصد خاتمہ ہو چکا ہے۔

مغربی دنیا نے طالبان کو حقوق نسواں کی تلفی کے حوالے سے بھی سخت مورد الزام ٹھہرایا ہے۔ حالانکہ طالبان نے انہیں افغان تاریخ میں سب سے زیادہ حقوق فراہم کیے۔ امیر المؤمنین نے امارت اسلامیہ میں حقوق نسواں کے متعلق مندرجہ ذیل پیغام جاری کیا:

”جیسا کہ شریعت میں عورت کی عزت و عصمت کے مستقل حقوق ہیں جن پر عمل پیرا ہونے سے عورت کی عزت و عصمت محفوظ رہتی ہے، مگر افغان معاشرے میں بے انصافی پر مبنی غیر شرعی رسم و رواج کے تحت عورت اپنے حقوق سے محروم اور مختلف مظالم کا شکار ہے۔ اس قسم کے مظالم کے سدباب کیلئے

مندرجہ ذیل دفعات منظور کی جاتی ہیں:

(۱)..... ملک کا کوئی بھی شخص عورت کو دیت، ہرجانہ، صلح وغیرہ میں ہرگز نہیں دے سکتا۔

(۲)..... (الف) کسی بھی مسلمان کو اجازت نہیں کہ بیوہ عورت کو خاوند کے گھرانے ہی میں نکاح کرنے پر مجبور کرے۔ (ب) شرعی اصول کے مطابق بیوہ اپنی مرضی سے نکاح کر سکتی ہے۔

(۳)..... امارت اسلامیہ کے ججوں اور ذمہ داروں کو اجازت ہے کہ

درج بالا دفعات کی خلاف ورزی پر سخت سزا دیں۔“

اقوام متحدہ کی جانب سے طالبان پر بار بار اعتراضات عائد کرنے اور اشکالات کرنے پر ملا محمد عمر صاحب نے اس بین الاقوامی ادارے کے رویے اور حیثیت کے حوالے سے ایک تفصیلی فرمان جاری کیا۔ جس کے آخر میں انہوں نے کہا:

”ہم اقوام متحدہ کے ساتھ بات چیت کیلئے اس شرط پر تیار ہو سکتے ہیں جب وہ اسلام کی حدود اور شریعت کے دائرے کے اندر ہو، کیونکہ اقوام متحدہ کا قانون اگر قرآن کے کسی حکم سے متعارض ہو جائے تو کسی مسلمان کے شایان شان نہیں کہ وہ اس کو تسلیم کرے کیونکہ مسلمانوں کی سلامتی کی واحد راہ اسلام ہے۔ جو لوگ اقوام متحدہ سے بہر حال اتفاق کرنے پر مصر ہیں تو یہ صرف اور صرف ان سب حالات کا کرشمہ ہے۔“

ملا محمد عمر کے ان گرانقدر اور پر مغز فرامین سے ان کی قائدانہ صلاحیتوں کا بھی بخوبی اندازہ کیا جاسکتا ہے۔

☆.....☆.....

امریکہ طالبان جنگ کے نتیجے میں جب طالبان اقتدار کے ایوانوں کو خیر آباد کہہ رہے تھے تو اس وقت بھی ملا محمد عمر بالکل پرسکون تھے اور انہیں ذرا بھی غم نہ تھا کہ ان کے سات سالہ دور حکمرانی کا خاتمہ ہو رہا ہے۔ انہوں نے بالکل پرسکون طریقے سے شہر چھوڑا اور درویشوں کی طرح اپنے کسی ٹھکانے کی جانب چل دیے۔ مجھے طالبان کے ایک قریبی ساتھی نے بتایا کہ جب طالبان نے قندھار چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا تو ملا صاحب نے تحریک کے سرکردہ افراد کو بلایا اور بیت المال کے اموال ان کے درمیان تقسیم کر دیے اور کہا


کہ یہ اموال امارت اسلامیہ کی آپ کے پاس امانت ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب کبھی پھر ہمیں موقع دے گا تو یہ واپس جمع کروانے ہوں گے۔ پھر انہوں نے اپنا اسلحہ بھی یہ کہہ کر ان کے حوالے کر دیا کہ یہ بھی بیت المال ہی کا ہے۔ بیت المال کو محفوظ ہاتھوں تک پہنچانے کے بعد ملا عمر صاحب اٹھے، اپنی چادر کندھے پر ڈالی اور دو قرسی رشتہ داروں کے ساتھ موٹر سائیکل پر سوار ہو کر نامعلوم مقام کی جانب روانہ ہو گئے۔ اس موقع پر جب طالبان نے ان سے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ رہ کر آپ کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں تو انہوں نے کہا:

”میرا اللہ میرا حافظ ہے“

جرات و استقامت کا پہاڑ، ہمت و بہادری کا پیکر، اللہ کا یہ برگزیدہ بندہ دنیا بھر کی مخالفتوں کے باوجود الحمد للہ آج بھی زندہ ہے اور کوسوں گھاٹیوں اور صحراؤں میں کھڑا ہوا بانگِ دہلی یہ اعلان کر رہا ہے:

”امر یکہ کے خلاف ہمارا جہاد جاری رہے گا“





افغانستان تاریخ کے آئینہ میں

افغانستان براعظم ایشیا کے وسطی ممالک میں سے ہے۔ اس کے شمال میں سوویت یونین تھا جو اب ٹوٹ کر ترکمانستان اور ازبکستان کی شکل میں بکھر چکا ہے۔ جبکہ شمال مشرق میں تاجکستان، مشرق میں چین، جنوب مشرق میں پاکستان اور مغرب میں ایران واقع ہے۔ افغانستان کا کل رقبہ چھ لاکھ باون ہزار کلومیٹر ہے۔ آبادی کا اٹھ فیصد حصہ پشتون، انیس فیصد تاجک، پانچ فیصد ازبک اور تین فیصد حصہ ہزارہ قوم پر مشتمل ہے۔ آمو، ہلمند، بامون اور فرخ رود مشہور دریا ہیں جو سرزمین افغانستان کے بیشتر علاقوں کو سیراب کرتے ہیں۔

افغانستان ایک قدیم، تاریخی ملک ہے۔ لیکن اٹھارویں صدی تک اس میں سیاسی وحدت ناپید تھی۔ یہ علاقہ مختلف حصوں میں تقسیم تھا۔ جہاں الگ الگ حکومتیں قائم تھیں۔ ۱۷۳۰ ق، م میں سکندر اعظم نے اس سرزمین کو فتح کیا اور اس کے کچھ عرصہ بعد یوچی قبائل نے اس پر قبضہ کر لیا۔ ۱۷۰۰ء کے لگ بھگ یہ علاقہ غزنی کے چینیوں کے قبضہ میں تھا جنہیں بعد میں ایرانی حکمران نوشیرواں نے شکست دے کر اپنا باجگوار بنا لیا۔

خلیفہ دوم حضرت عمرؓ کے عہد خلافت میں مسلم سپہ سالار احنف بن قیسؓ نے خراسان کے کئی علاقے فتح کر لیے۔ عہد عثمانی میں عبداللہ بن عامرؓ نے کامل فتح کر لیا، لیکن یہ تمام علاقے بالخصوص کامل ایک عرصہ تک مسلمان فاتحین کیلئے معمر بنے رہے، کیونکہ یہاں کے جفاکش باشندے ہمیشہ بغاوت کر دیتے۔ چنانچہ ۱۲۲ھ (۶۶۳ء) میں حضرت عبدالرحمن بن سمرہؓ نے کامل کو از سر نو فتح کیا۔ ۴۷ھ میں

یہاں کے والی ربیع الخارثی نے پہلی مرتبہ اس علاقے میں اسلامی قوانین نافذ کیے۔

۷۹ھ (۶۹۳ء) میں قتیبہ بن مسلم خراسان کے والی مقرر ہوئے تو انہوں نے شمالی افغانستان کے تمام باغی عناصر کو کچل ڈالا۔ اس کے بعد ۲۰۷ھ (۸۳۲ء) تک یہ علاقے بنو امیہ اور ان کے بعد بنو عباس کے زیر قبضہ رہے۔ چنانچہ اس عرصے میں اس پورے خطے پر اسلامی تہذیب کی گہری چھاپ لگ چکی تھی اور دین اسلام نے یہاں کے تمام باطل مذاہب کی جڑ کاٹ کر رکھ دی تھی۔

۲۰۷ھ (۸۳۲ء) میں بنو عباس کے مقرر کردہ امیر خراسان طاہر بن حسین نے بغاوت کر کے شمالی افغانستان میں اپنی خود مختاری کا اعلان کر دیا۔

۲۰۹ھ (۸۳۳ء) میں یعقوب خارجی نے اس آل طاہر کی حکومت کا خاتمہ کر کے کابل سمیت موجودہ افغانستان کے تمام علاقوں پر قبضہ کر کے اس سرزمین پر پہلی مرتبہ واحد حکومت قائم کی۔

۲۸۷ھ (۹۰۰ء) میں اسماعیل بن احمد بن سامان نے بخارا، مرو اور ہرات اور اس کے بعد مغربی افغانستان کا علاقہ فتح کر لیا۔ اس کے بعد ۳۹۵ھ (۹۷۶ء) میں جبکہ ابھی افغانستان کے بیشتر علاقے ساسانیوں کے قبضے میں تھے۔ غزنی پر سبکتگین لودھی نے اپنی حکومت قائم کر لی۔ اسی کے بیٹے سلطان محمود غزنوی نے شمالی افغانستان کو فتح کر کے بلخ (مزار شریف) کو اپنا دار الحکومت بنایا۔ ۵۵۲ھ (۱۱۵۷ء) تک موجودہ افغانستان کا تمام علاقہ سلطنت غزنوی میں شامل رہا۔ (اگرچہ بعض علاقوں پر مختلف حکمران غزنویوں کے باجگزار بن کر حکومت کرتے رہے)

۳۵۵ھ (۱۰۶۳ء) تک طغرل بیگ سلجوقی نے غزنویوں سے بلخ (مزار شریف) اور بخارا سمیت کئی علاقے چھین لیے۔ اس کی اولاد آل سلجوقی یا سلاہہ کہلائی۔

۶۱۳ھ (۱۲۱۵ء) تک یہاں آل خوارزم شاہ حکمرانی کرتے رہے لیکن اس دوران غور کے علاقے کے غوری حکمرانوں سے برابر ان کی کشمکش چلتی رہی۔

۶۱۶ھ (۱۲۲۰ء) میں تاتاری حملہ آور چنگیز خان نے خوارزم شاہ کو شکست دیکر اسلامی مملکت کو تاخت و تاراج کرنا شروع کیا۔

۶۲۳ھ (۱۲۲۷ء) میں چنگیز خان کی ہلاکت کے بعد افغانستان پر اس کا بیٹا طولی خان حکمران ہوا۔ ۶۳۳ھ (۱۲۳۵ء) میں چنگیز خان کے پوتے ہلاکو خان نے اپنے دادا کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اسلامی اقدار کو ملیا میٹ کیا اور تاتاری قوانین نافذ کیے۔

۶۳۵ھ (۱۲۳۷ء) میں تاتاریوں کی طرف سے ملک شمس الدین سندھ سے خراسان تک کا حاکم مقرر ہوا جس کا خاندان آل کرت کے نام سے مشہور ہوا۔

۷۷۸ھ (۱۲۳۷ء) میں امیر تیمور لنگ نے اس حکومت کا خاتمہ کر کے کابل، غزنی اور قندھار سمیت افغانستان کے تمام علاقوں پر اپنی حکومت کی بنیاد رکھی۔ جو اس کے خاندان میں ۹۱۱ھ (۱۵۰۶ء) تک چلتی رہی۔

۹۱۰ھ (۱۵۰۳ء) میں کابل پر شہنشاہ ہا بر نے قبضہ کر لیا۔

۹۵۲ھ (۱۵۰۳ء) میں ہمایوں نے قندھار فتح کیا اور اگلے ہی برس کابل بھی اس کے قبضے میں آ گیا۔

۱۰۳۱ھ (۱۶۲۰ء) میں شاہ عباس صفوی نے قندھار فتح کر لیا لیکن صرف سولہ سال بعد ۱۰۴۷ھ

(۱۶۳۷ء) میں شاہ جہان نے صفویوں سے قندھار واپس لے لیا۔

۱۱۵۱ھ (۱۷۳۵ء) میں ایران کے بادشاہ نے تیموری سلطنت کا خاتمہ کرنے کے بعد ہرات اور

اس کے بعد قندھار اور کابل پر بھی قبضہ کر لیا۔

۱۱۶۳ھ (۱۷۳۷ء) کے بعد احمد شاہ ابدالی افغانستان کے بلا شرکت غیرے حکمران بن گئے۔ احمد

شاہ ابدالی کا خاندان تاریخ میں ”درانی“ کے لقب سے مشہور ہے۔ اس خاندان کا تعلق ”سدوزی“ قبیلہ سے تھا۔ احمد شاہ ابدالی کے پوتے زمان شاہ کے بعد زمام سلطنت سدوزی قبیلے کے ہاتھوں سے نکل کر بارک زئی خاندان کے دوست محمد نامی شخص کے ہاتھوں میں چلی گئی۔

۱۲۵۳ھ (۱۸۳۲ء) میں ہندوستان پر قابض انگریزوں نے افغانستان کی طرف پیش قدمی شروع

کی اور درہ بولان کے راستے سے حملہ آور ہو کر قندھار فتح کر کے شاہ شجاع کو حکمران بنا دیا جبکہ امیر دوست محمد خان نے اپنے آپ کو انگریزوں کے حوالے کر دیا۔

لیکن افغانستان کے غیور مسلمانوں نے انگریزی اقتدار رد کرتے ہوئے محمد اکبر خان کی قیادت میں جہاد کا آغاز کر دیا۔ جس کے نتیجے میں حملہ آور انگریز فوج کا مکمل صفایا ہو گیا۔ صرف ایک شخص ڈاکٹر براڈن اپنی قوم کو افغانوں کی شجاعت اور سرفروشی کی داستان سنانے کیلئے زندہ واپس پہنچا۔

لیکن ۱۸۴۲ء میں انگریز کابل پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ اس مرتبہ انہوں نے خود ہی امیر

دوست محمد خان کو جو اب ان کا وفادار بن چکا تھا کابل کا حکمران بنا دیا۔

۱۸۷۸ء سے ۱۸۸۰ء تک ایک مرتبہ پھر افغانوں اور انگریزوں کے درمیان جنگوں کا سلسلہ چلتا رہا

کیونکہ دوست محمد کے بیٹے شیر علی نے روس سے دوستی کر کے انگریزوں سے دشمنی مول لے لی۔ ان جنگوں کے نتیجے میں کابل پھر سے انگریزوں کے قبضہ میں چلا گیا۔ جنہوں نے اس مرتبہ عبدالرحمن کو حکمران بنایا۔ کچھ عرصہ کے بعد انگریزی فوجوں نے قندھار بھی فتح کر کے عبدالرحمن کے حوالے کیا اور خود واپس ہندوستان لوٹ گئے۔

۱۹۱۹ء میں عبدالرحمن کا بیٹا امیر امان اللہ خان تخت نشین ہوا اور انگریزوں سے اپنے مقبوضہ علاقے واپس لینے کیلئے جنگ شروع کر دی۔ اس طرح افغانوں اور انگریزوں کے درمیان ایک طویل جنگ کا سلسلہ چل نکلا جس کا نتیجہ ٹل (ضلع کوہاٹ) کے مقام پر افغان سپہ سالار نادر شاہ کے ہاتھوں انگریزوں کی شرمناک شکست کی صورت میں نکلا۔ اس کے بعد انگریزوں نے اندرونی سازشوں کے ذریعہ امان اللہ خان کے خلاف فضاء بنانی شروع کی اور بالآخر وہ ۱۹۲۹ء میں ایک تاجک سردار حبیب اللہ بچہ سقہ کو کابل پر قبضہ دلانے میں کامیاب ہو گئے۔ جس نے انگریزوں کی مدد سے بغاوت کر کے امان اللہ خان کا تختہ الٹا اور اسے اٹلی کی طرف فرار ہونے پر مجبور کر دیا۔ بچہ سقہ کی حکومت اگرچہ صرف نو ماہ تک رہی لیکن یہ عرصہ تاریخ افغانستان کا سیاہ ترین دور تھا۔ انگریزوں نے جب بچہ سقہ کی ناکامی دیکھی تو فرانس میں متعین افغان سفیر نادر شاہ کو بلا لایا گیا جس نے اکتوبر ۱۹۲۹ء میں کابل پر قبضہ کر لیا۔

لیکن نومبر ۱۹۳۸ء میں نادر شاہ بھی ایک طالب علم کی گولی کا نشانہ بن کر قتل ہو گیا۔ نادر شاہ کے قتل کے بعد اس کے بھائیوں نے اس کے کم عمر بیٹے طاہر شاہ کو بادشاہت سونپ دی۔

سرزمین افغانستان کے ساتھ روس کی دلچسپی بہت پرانی ہے۔ گزشتہ چار صدیوں سے ماسکو کے حکمران کابل پر حکمرانی کے خواب دیکھتے آئے تھے، لیکن روس کو مکمل طور پر افغانستان میں اثر و رسوخ حاصل کرنے کا موقع طاہر شاہ کے دور میں ملا، جب طاہر شاہ نے وزارت عظمیٰ کی ذمہ داریاں اپنے قریبی عزیز سردار دادا کو سونپ دیں۔

اس شخص نے برسراقتدار آتے ہی روس سے اس قدر تعلقات بڑھائے کہ روس کو اس سرزمین میں مکمل طور پر نفوذ کا موقع مل گیا۔ سردار دادا نے اپنے پاس روسی مشیر بلوائے اور افغان فوجی اور سول افسروں کو تربیت کیلئے ماسکو بھیجا۔ دوسری طرف اس نے اپنے قریبی ہمسایہ ملک پاکستان سے بھی دشمنی کے بیج بوکر اپنے آقا روس اور بھارت کو خوش کیا۔ سردار دادا کی روز بروز بڑھتی ہوئی طاقت سے عیاشیوں میں مست طاہر شاہ کو خطرہ محسوس ہوا تو اس نے اسے برطرف کر دیا۔ لیکن اب پانی سر سے گزر چکا تھا۔

سردار دادا دروس کی مدد سے حکومت افغان میں اس قدر اثر انداز ہو چکا تھا کہ اس نے برطانی کے کچھ ہی عرصہ بعد جولائی ۱۹۷۳ء میں طاہر شاہ کا تختہ الٹ کر اقتدار پر قبضہ کر لیا اور بادشاہت کے خاتمے کا اعلان کر کے خود ہی صدر اور وزیر اعظم بن بیٹھا۔ دادا کا زمانہ مسلمانان افغانستان کیلئے بہت تاریک ثابت ہوا۔ اقتدار میں آنے کے کچھ ہی عرصے بعد اس نے بہت سے بااثر اور اسلام دوست راہنماؤں پر پاکستان اور امریکہ دوستی کا الزام لگا کر جیل بھیج دیا اور بہت سے لوگوں کو گولی مار کر شہید کر دیا۔ مسلمان نوجوانوں پر طرح طرح کے ظلم و ستم ڈھا کر انہیں جبر و استبداد کا نشانہ بنایا جس سے افغانستان کے بیشتر مسلمان راہنما ہجرت کر کے چلے گئے۔ دادا نے اپنے بیرونی آقاؤں کو خوش کرنے کیلئے شاہی مجنڈا تبدیل کیا، قومی نشان بدل ڈالا اور کرسی تبدیل کر دی۔ وہ افغانستان کے راسخ العقیدہ مسلمانوں کے دلوں سے اسلام کی عظمت بھی ختم کرنا چاہتا تھا لیکن وہ کامیاب نہ ہو سکا۔ مگر کچھ عرصہ کے بعد اسے احساس ہوا کہ وہ روسیوں کی منزل نہیں، چنانچہ اب اس نے روسیوں کے جال سے نکلنے کے لئے ہاتھ پاؤں مارنا شروع کر دیئے، لیکن اب افغانستان مکمل طور پر روسی ایجنسیوں کے قبضے میں تھا۔

۱۲ اپریل ۱۹۷۸ء کی صبح ۹ بجے کے قریب ہل چرخی کی فوجی جھانڈی سے فوج کا دیویدیکل ٹینکوں پر مشتمل ایک دستہ ایوان صدر کی طرف بڑھا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے صدارت اور وزارت عظمیٰ کے عہدے نور محمد ترہ کئی کی طرف منتقل ہو گئے۔ سردار دادا اپنے کئی رشتہ داروں سمیت اس بغاوت میں مارا گیا۔

۱۲ اپریل ۱۹۷۸ء کی شام ترہ کئی ایوان صدر میں پہنچا تو روسیوں کی دیرینہ خواہش پوری ہو گئی، اس خونریز سازش کو ”سرخ انقلاب“ سے تعبیر کیا گیا۔ ترہ کئی نے افغانستان کا نام ”ڈیموکریٹک دی ری پبلک آف افغانستان“ رکھا لیکن اقتدار میں آنے کے بعد اسے ایک دن بھی سکون نصیب نہ ہوا۔ کیونکہ ملک بھر کے عوام میں ترہ کئی کی اسلام دشمن پالیسیوں سے بے چینی کی لہر دوڑ گئی تھی جس کے نتیجے میں بہت سے مقامات پر غیر تنہا افغانوں نے علماء کی قیادت میں روس نواز حکومت کیخلاف بغاوت کر دی۔ روس نواز ترہ کئی کو اپنی فوج میں بھی کئی مرتبہ بغاوت کا سامنا کرنا پڑا۔ جنہیں اگرچہ اس نے طاقت کے بل بوتے پر دبا دیا لیکن جگہ جگہ شروع ہونے والے جہاد نے اس کی حکومت کو بالکل کمزور بنا کر رکھ دیا۔ ترہ کئی کے پاس ان مجاہدین کا کوئی علاج نہ تھا۔ بالآخر اس کا اقتدار بھی اختتام کو پہنچا۔ ۱۹۷۹ء میں جب ترہ کئی کیوبا کی ایک کانفرنس سے واپس آ رہا تھا تو حفیظہ اللہ امین نے اسے گرفتار کر کے صدارتی محل میں نظر بند کر دیا اور خود

اقتدار پر قبضہ کر بیٹھا۔ (اس کے بعد ترہ کئی کے بارے میں کسی کو معلوم نہیں ہوسکا کہ وہ کس حالت میں ہے؟ البتہ کچھ عرصہ بعد امین کی انتظامیہ کی طرف سے اعلان کیا گیا کہ نور محمد ترہ کئی مرگئے ہیں اور انہیں ان کے آبائی گاؤں میں دفن کر دیا گیا ہے)

حیظ اللہ امین نے اپنے پیش رو کی پالیسیوں کو ترک نہیں کیا۔ بلکہ بے گناہ لوگوں پر ظلم و ستم کے شکنجے اور سخت کر دیئے۔ بستیاں بمباری سے تباہ ہوتی رہیں جیل خانے قیدیوں سے بھرتے رہے، عقوبت خانوں اور قتل گاہوں میں مظلوموں کی آہیں اور کراہیں گونجتی رہیں، ملک بھر میں سرکاری ادارے روسی دوستی کے راگ الاپتے رہے، ادھر روسی فوجی مشیروں کے اختیارات بڑھتے رہے، ادھر مجاہدین کے گوریلا دستے بھرتے ہوئے طوفان میں ڈھلتے رہے۔

جوں جوں امین نے جبر و استبداد کی آگ تیز کی فوج کے چھوٹے چھوٹے یونٹ بھی بغاوت کر کے مجاہدین سے ملنے لگے۔ مجاہدین کی قوت ناقابل تغیر ہو گئی تو روس کے اشارے پر امین کی انتظامیہ نے اوچھے ہتھکنڈے استعمال کیے۔ سرکاری اہلکار اور روسی ایجنٹ دیہاتی بستیاں میں گھروں، اسکولوں اور مساجد کو آگ لگاتے اور پھر ڈھنڈورا پیٹتے کہ مجاہدین نے فلاں مسجد اور فلاں اسکول کو جلا دیا اور فلاں ہستی کو لوٹ لیا ہے جو لوگ اپنی آنکھوں سے یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے ان کے دلوں میں مجاہدین کی محبت کم ہونے کے بجائے اور گہری ہوتی چلی گئی۔

بالآخر حفیظ اللہ امین کے اقتدار کی مدت بھی پوری ہوئی اور ماسکو کی عدالت سے اس کی حکومت کے ساتھ ساتھ اس کی زندگی کا فیصلہ بھی صادر ہو گیا۔ چنانچہ دسمبر ۱۹۷۹ء کی ایک سب سے رات میں حفیظ اللہ امین کو اس کے محل میں انتہائی بے بسی کے عالم میں موت کے گھاٹ اتار دیا گیا اور اس کے ساتھ ہی ریڈیو تاشقند نے یہ خبر نشر کر دی کہ ہبرک کارل نے حفیظ اللہ امین کا تختہ الٹ کر افغانستان کا اقتدار سنبھال لیا ہے۔ حالانکہ ہبرک کارل اس وقت چیکوسلواکیہ میں مقیم تھا وہ اس واقعہ کے چھ روز بعد افغانستان پہنچا۔

۲۷ دسمبر ۱۹۷۹ء کی رات کاہل شہر اچانک ٹینگوں کی گڑ گڑاہٹ سے لرزنے لگا۔ اس کے بعد توپوں نے گولے اگلنے شروع کیے جن کی آواز دور دور تک شدت سے سنائی دیتی رہی۔ ایک طرف دیوید کل ٹرانسپورٹ طیارے ہزاروں روسی فوجیوں کو کاہل ایئر پورٹ پر اتار رہے تھے تو دوسری طرف روسی سرحد سے ہزاروں ٹینک دریائے آمو مہور کر کے افغانستان کی سر زمین روند رہے تھے۔

امین کے قتل پر لوگ سکون کی نیند سوئے تھے لیکن جب صبح بیدار ہوئے تو انہوں نے شہر کی سڑکوں پر

روسی ٹینکوں کو گشت کرتے ہوئے دیکھا، روسی ساخت کے مگ طیارے اور بمبلی کا پرنٹیجی پرواز کرتے ہوئے گزر رہے تھے۔ یہ نماظر دیکھ کر کابل کے شہری سکتے میں آ گئے۔ اسی روز دوپہر سے پہلے روسی فوج کو شہر سے باہر نکل کر اہم پوزیشنوں پر متعین کر دیا گیا کہ مباد روسی فوجوں اور افغان عوام میں تصادم نہ ہو جائے جو اچانک گھس آنے والی اس اجنبی فوج سے طرح طرح کی نفرت کا اظہار کر رہے تھے۔

نیاروسی ایجنٹ (بہرک کارل) ایک لاکھ سے زائد روسی فوج، ہینکلروں طیارے اور ہزاروں ٹینک لے کر کابل پہنچا۔ اس کی آمد افغانستان پر روسی قبضے کا رسمی اعلان تھی۔ چنانچہ کارل کے دور میں کابل شہر ماسکو اور بیروس کا نظارہ پیش کرنے لگا۔

وہی کابل جہاں کوئی عورت بغیر پردے کے گھر سے باہر نہیں نکل سکتی تھی اب اس کی گلیوں بازاروں میں لڑکیاں اسکرٹ پہن کر نکلتی تھیں، شہر میں نائٹ کلب چلنے لگے، شراب کا دور دورہ ہو گیا۔ کیونرم اپنی تمام تر خباثوں کے ساتھ افغانستان کو اپنی لپیٹ میں لے رہا تھا۔ کابل شہر میں آوارگی پھیلانے والی یہ نوجوان نسل وہ تھی جس کی تعلیم و تربیت ماسکو کے براہ روسی کے معاشرے میں ہوئی تھی۔

دوسری طرف شراب کے نشے میں مدہوش اور عیاشی کے نشے میں چور بہرک کارل نے روسی آقاؤں کے اشارے پر افغانستان کے مسلمانوں پر وہ مظالم ڈھائے جنہوں نے سابقہ ”غلاموں“ کو بھی شرمادیا۔ اس نے علماء و مشائخ کو گرفتار کر کے جیل کی تاریک کوٹھڑیوں میں قید کیا۔ ایک ایک دن میں ہزاروں مسلمانوں کو شہید کیا، ایک ایک قبر میں چار چار ہزار مسلمانوں کو زیر زمین دفن کر دیا گیا، مساجد و مدارس کو بمباری سے تباہ کیا گیا۔ علماء کرام کو ٹینکوں تلے روند ڈالا، توپوں میں داغا گیا، قرآن پاک کو جلایا گیا، یہی نہیں بلکہ قرآن پاک کے مبارک اوراق سے استنجہ کیے گئے، یہ دستور بنایا گیا کہ کیونٹ پارٹی کی رکنیت صرف اسی کو ملے گی جو جوتوں سمیت قرآن پاک پر کھڑا ہو کر مذہب اسلام سے مکمل برأت اور اشتراکیت کا دل و جان سے اقرار کرے۔

کہنے والوں نے کہا کہ اب تو افغانستان ہی نہیں پاکستان کی بھی خیر نہیں۔ روس کا جدید اسلحہ اور تازہ دم فوجیں چند ہی دنوں میں افغانستان عبور کر کے پاکستان میں داخل ہو جائیں گی۔ دو درسیوں کا اندازہ بھی یہی تھا کہ افغانستان کو چند روز میں عبور کر لیا جائے گا۔ کیونکہ اس قوم نے گزشتہ ایک صدی سے شکست کا مزہ بھی نہ دیکھا تھا۔

لیکن اچانک اقوام عالم نے ایک عجیب نظارہ دیکھا..... لمبی لمبی پٹریاں باندھے، چروں پر

ڈاڑھیاں سجائے کچھ خدا مست لوگ ہاتھوں میں پتھر، ڈنڈے، پرانے تختہ، فرسودہ تلواریں اور ناکارہ بندوقیں لیے میدان میں نکلے اور سینے تان کر روسی ٹینکوں کے سامنے کھڑے ہو گئے اور پھر دنیا والوں نے دیکھا کہ افغان مجاہدین خالی ہاتھ ٹینک پر چڑھتے ہیں اور اس کے ششے پر گاراگا کر ٹینک میں داخل ہوتے ہیں اور اس میں دیکھے ہوئے روسی فوجیوں کو چوہے کی طرح نکال کر ٹینک پر قبضہ کر لیتے ہیں۔ اسلحہ نہ ہوتو پتھروں سے مقابلہ کرتے ہیں۔ عورتیں بھی اسلحہ لیکر میدان میں نکل آتی ہیں۔ ایک نو سالہ بچی کئی گھنٹے دشمن کے ایک لشکر کو روکے رکھتی ہے اور درجنوں فوجیوں کو ہلاک کر کے خود جام شہادت نوش کر لیتی ہے۔ یہ افغانستان کی غیرت مند قوم تھی جس نے اسلام کے خلاف کسی بھی نظام کو قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ ان مجاہدین اسلام کی کارروائیوں کا آغاز اگرچہ انقلاب ثور کے فوراً بعد ہی ہو گیا تھا جنہیں افغانستان کے کیونسٹ حکمران تمام تر کوششوں کے باوجود دبانے میں ناکام رہے تھے لیکن روسی افواج کے افغانستان میں داخلے نے ان کے جذبہ جہاد کو اور ہمیز دی تھی۔

بس یہیں سے ایٹارو وفا جہاد و قربانی کی اس داستان کا آغاز ہوتا ہے جس کی انتہاء پر سوویت یونین ختم ہو گیا، کمیونزم ذلیل و رسوا ہو کر دفن ہو گیا، دنیا کا نقشہ بدل گیا، نو مسلم ممالک آزاد ہو گئے، دیوار برلن گر گئی، مشرقی و مغربی یورپ ایک ہو گیا، کشمیر کا جہاد شروع ہوا، دنیا بھر میں اسلامی تحریکوں میں نئی روح پیدا ہو گئی، مسلمانوں نے راہ عزت ”جہاد“ سے آشنائی حاصل کی اور دنیائے کفر افغانستان کے کوساروں سے اٹھانے والے اس نئے طوفان سے لرزہ بر اندام ہو گئی۔

روس دس سال تک افغانستان میں اس لیے جنگ کرتا رہا کہ وہ افغانستان کو ختم کر کے آگے بڑھ سکے لیکن جب اس راہگور ہی میں افغانستان کے مجاہدین نے اس کی کمر توڑ دی تو اسے اپنا وجود بھی خطرے میں نظر آنے لگا اور پھر جب ۱۴ فروری ۱۹۸۹ء کو روسی شکست خوردہ فوج کا آخری قافلہ دریائے آمو پار کر رہا تھا تو دنیا کے کتنے ہی ٹیلی ویژنوں نے یہ عبرتناک نظارہ دکھا کر افغان مجاہدین کا دنیا سے لوہا منوایا:

غبار رہگور ہیں، کیمیا پر ناز تھا جن کو
جبین خاک رکھتے تھے جو، اکسیر گر نکلے

روس نے ۱۹۸۹ء ہی میں اپنی فوجیں افغانستان سے نکال لی تھیں لیکن کابل میں اب بھی ببرک کارمل اور روسیوں کا مشترکہ وارث جنرل نجیب روس کے فراہم کردہ جدید ترین اسلحہ کے ذخائر کے ساتھ موجود تھا۔ چنانچہ روس کے نکلنے کے بعد مجاہدین کا گمراہ براہ راست افغان کیونسٹ حکومت سے ہوا اور

پھر تین سال تک جنرل نجیب کی کمیونسٹ افواج سے جہاد کے بعد بالآخر مجاہدین نے نجیب کو حکومت سے دستبردار ہونے پر مجبور کر دیا۔

۲۳ اپریل ۱۹۹۲ء کا دن اس لحاظ سے تاریخ اسلام کا ایک یادگار دن ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت سے سولہ لاکھ شہداء کی قربانیاں پیش کر کے مجاہدین افغانستان سرخرو ہو کر کابل میں فاتحانہ انداز میں داخل ہوئے۔ اس موقع پر نہ صرف مسلمانان افغانستان میں بلکہ پوری امت مسلمہ میں خوشی کی ایک لہر دوڑ گئی۔ پوری دنیا کے مسلمانوں کے سرفخر سے بلند ہو گئے۔ فلسطین، کشمیر، برما، بوسنیا، چیچنیا، صومالیہ اور دیگر مظلوم ممالک کے مسلمان اپنی تکلیفوں اور زخموں کی کک بھول گئے۔ انہیں یقین ہو گیا کہ آج جس طرح افغان مجاہدین نے جہاد کے ثمرات کو حاصل کیا ہے کل ہماری جدوجہد بھی اسی طرح رنگ لائے گی۔ چنانچہ امام الحرمین عبدالرحمن السدیس کے یہ الفاظ آج بھی مسلمانوں کے کانوں میں گونج رہے ہیں کہ:

”الحمد للہ! اللہ تعالیٰ نے اس سال افغانستان کی شکل میں مسلمانوں کو تحفہ عطا فرمایا ہے، اگلے سال بیت المقدس کی فتح کی شکل میں مسلمانوں کو فلسطین کی آزادی کا تحفہ ملے گا۔“


غرضیکہ دنیا بھر میں مظلوم مسلمانوں کی نظریں اب مجاہدین افغانستان پر لگی ہوئی تھیں کہ وہ ایک پائیدار اسلامی حکومت قائم کر کے مسلمانان عالم کی مدد و نصرت کیلئے کمر بستہ ہوں گے، بالکل اسی طرح جیسا کہ جہاد افغانستان کے دوران بیرونی دنیا کے مسلمانوں نے اپنے افغان بھائیوں کی مدد کی تھی۔

لیکن امت مسلمہ کی یہ خوشی عارضی ثابت ہوئی۔ اس کی آرزوئیں اس وقت خاک میں مل گئیں جب وہ مجاہدین جنہوں نے چودہ سال تک دشمنوں سے جہاد کیا تھا، اقتدار کی رسہ کشی میں ایک دوسرے کے دست بگر بیان ہو گئے۔ افسوس کہ انہوں نے اس حقیقت کو فراموش کر دیا کہ ان کا دشمن میدان میں شکست کھانے کے بعد اب چھپ کر سازشوں کے ذریعے ان پر وار کر رہا ہے۔ چنانچہ وہ لوگ جو کچھ عرصہ پہلے تک روسی اور نجیب حکومت کی ”کمیونسٹ فوجوں“ کے خلاف متحد ہو کر جہاد کر رہے تھے آج صرف اقتدار حاصل کرنے کیلئے دو ستم جیسے کمیونسٹ سے اتحاد کر کے ایک دوسرے کے خلاف صف آراء ہو رہے تھے۔

قومی راہنماؤں کے درمیان اس کشمکش نے افغانستان میں طوائف الملوکی کو جنم دیا، جس سے ہر

طرف بدامنی، قتل و عارت گری پھیل گئی، اور پھر انہی نام نہاد مجاہدین کے ہاتھوں سرزمین افغانستان پر ایسے ایسے جرائم کا ارتکاب ہوا جنہیں بیان کرنے کی زبان و قلم تاب نہیں رکھتے اور نہ ان کا احاطہ کیا جاسکتا ہے۔ جگہ جگہ عوامی راستوں پر پھانگ لگا کر غریب عوام سے ظالمانہ ٹیکس وصول کیا جاتا، عورتوں کو اغواء کر کے انہیں ان کے گوبرِ عنفت سے محروم کیا جاتا، ذرا ذرا سی دشمنی پر ایک دوسرے کو قتل کر دیا جاتا، لیکن کوئی پوچھنے والا نہ ہوتا۔ مگر یہ سب کچھ ان لیڈروں کو کیسے نظر آسکتا تھا جن کی باہمی جنگوں سے کابل اور اس کا گرد و نواح جل کر راکھ ہو چکے تھے۔ ملتِ افغان کے سینے کے یہ ناخدا بیرونی طاقتوں کے اشاروں پر کھیلتے ہوئے اپنی بچی بچی قوم کو خود ہی تباہ و برباد کر رہے تھے۔





طالبان سے پہلے

اپنے سب سے بڑے پشت پناہ روس کی طرف سے مایوس کن رویہ دیکھ کر ۱۸ مارچ ۱۹۹۲ء کو دل برداشتہ جنرل نجیب نے یو این نمائندے بینن سیوان سے کئی دن کے مذاکرات کے بعد مجوزہ عبوری حکومت کیلئے جگہ خالی کرنے کا اعلان کر دیا۔

اس وقت حرار شریف میں جنرل عبدالرشید دوستم اسماعیلی طیشیا کو ساتھ ملا کر اپنی وقاداریاں بدل چکے تھے۔ ایک نگران فوجی کونسل بنانے کے بعد جنرل دوستم نے حرار شریف کا کنٹرول احمد شاہ مسعود کے سپرد کر دیا۔ دوستم کے اہماء پر اس مخلوط کونسل کو قومی اسلامی تحریک (جینش ملی اسلامی) کا نام دیدیا گیا۔

ماضی میں دوستم کی جوجان طیشیا روسی ہتھیاروں کے سہارے افغان مجاہدین کے ساتھ لڑتی بھڑتی آئی تھی۔ اس طیشیا نے جواپنی خون خواری میں مشہور تھی ۱۹۸۸ء میں مجاہدین کے مقابلے میں جلال آباد کا دفاع کیا تھا۔ خوست اور گردیز کی لڑائیوں میں بھی اس طیشیا نے اہم کردار ادا کیا۔ سید جعفر نادری کی اسماعیلی طیشیا جس نے حرار شریف پر کنٹرول کیلئے دوستم کے ساتھ مل کر کارروائی کی۔ اس کے علاوہ ایران کی مدد سے قائم شیعوں کی دو بڑی تنظیموں حرکت اسلامی اور حزب وحدت نے حرار شریف پر قبضے کیلئے دوستم کا ساتھ دیا۔ ہرات اور ہزارہ جات میں ایران کے غالب اثرات پہلے سے موجود تھے۔ یہاں کی شیعہ طیشیا میں ایران سے برابر ہتھیار لیتی آئی تھیں۔ حرار شریف پر ازبک کنٹرول کے بعد ایران کا دائرہ اثر پورے شمال مغربی افغانستان تک پھیل گیا۔ اس لحاظ سے ایران وسط ایشیا کی سرحدوں تک ایک نئے راستے سے نفوذ حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔

۱۷ اپریل ۱۹۹۲ء کو نجیب نے غیر متوقع بیان دیا۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ عبوری حکومت کی تشکیل کا انتظار کیے بغیر اپریل کے آخر میں اقتدار چھوڑ دے گا۔ ۱۰ اپریل کو یو این سیکریٹری جنرل مسٹر بطروس غالی نے جنیوا میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کیا۔ یو این سیکریٹری جنرل نے اعلان کیا کہ مسئلہ افغانستان کے تمام فریق کا بل میں ایک عبوری حکومت کے قیام پر متفق ہو چکے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ عبوری حکومت ۱۵ اگست کو نسل پر مشتمل ہوگی۔ مجوزہ پروگرام کے مطابق یہ کونسل ایک لویہ جرمہ بلانے کے بعد بنی تھی۔ امریکہ، ایران اور پاکستان نے یو این منصوبہ کی حمایت کی۔

۱۳ اپریل کو نجیب نے کا بل میں ایک مینٹگ کی صدارت کی۔ یہ ایک الوداعی مینٹگ تھی۔ حالت یہ تھی کہ اس وقت کا بل کے نواح میں فوجی حمزہیں جاری تھیں۔ سرکاری فوجوں کا مورال پست ہو چکا تھا۔ ۱۴ اپریل کو حزب اسلامی حکمتیار نے کا بل سے ۳۷ میل دور واقع صوبہ پروان کے دارالحکومت چاریکار پر قبضہ کر لیا۔ بگرام ایئر بیس بھی اسی دن مجاہدین کے ہاتھ لگی۔ مجاہدین کے مختلف گروپوں نے پیش قدمی کر کے کا بل کے ارد گرد گھیرا جگ کر لیا۔

۱۶ اپریل کو افغان حکومت کے وزیر خارجہ عبدالوکیل نے نجیب اللہ کو صدارت سے ہٹائے جانے کا اعلان کیا۔ بیرون ملک فرار کی کوشش میں ناکامی کے بعد نجیب نے اقوام متحدہ کے مقامی دفتر میں پناہ لے لی۔ اس کے ساتھ ہی افغان مجاہدین نے جو مختلف تنظیموں سے تعلق رکھتے تھے کا بل کی طرف پیش قدمی شروع کر دی۔

نجیب کے رخصت ہونے کے بعد کا بل کا اقتدار وطن پارٹی کے چار نائب صدور کو منتقل کر دیا گیا تھا جو کہ فوجی جنرل تھے۔ یہ چاروں کیونٹ جنرل بعد میں افغان کمانڈر احمد شاہ مسعود سے مل گئے۔ دوسرے مجاہدین کی پیش قدمی کو روکنے کیلئے کا بل ایئر پورٹ پر جنرل مومن، جنرل دلاور اور جنرل نبی عظیمی نے قبضہ کر لیا۔ بعد میں اسے ازبک طیشیا کے سپرد کر دیا گیا۔

۱۸ اپریل ۱۹۹۲ء کو ریڈیو کا بل نے نائب صدر عبدالرحیم ہاتف کے عبوری صدر بنائے جانے کا اعلان کیا۔ وہ برائے نام صدر تھے۔ ان کا حالات پر کوئی کنٹرول نہیں تھا۔ یو این فارمولاجسے یکطرفہ طور پر آگے بڑھانے کی کوشش کی گئی اس وقت تک اپنی موت آپ مر چکا تھا۔ مختلف افغان گوریلا گروپ دارالحکومت کا بل پر قبضہ کیلئے منصوبہ تیار کر رہے تھے۔

۱۸ اپریل کو وزیر خارجہ عبدالوکیل نے اعلان کیا کہ احمد شاہ مسعود کے ساتھ ان کا ایک باہمی سمجھوتہ

طے پاچکا ہے اور فریقین قیام امن کیلئے آئندہ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں گے۔ یہ کابل پر قبضے کیلئے پہلا باقاعدہ ”تاجک“ اتحاد تھا۔ احمد شاہ مسعود کے گوریلوں، فوجی جرنیلوں اور دوسرے رہنماؤں کے اس اتحاد کو اسلامی جہاد کونسل کا نام دیا گیا۔

گلبدین حکمتیار نے پاکستان میں متعین سات مجاہدین تنظیموں میں سے ۶ مجاہد تنظیموں کے کمانڈروں پر مشتمل ایک ۳۸ رکنی انقلابی کونسل بنائی۔ اس میں احمد شاہ مسعود کا نام شامل نہ تھا۔ اس کونسل کو بھی کابل کا کنٹرول سنبھالنا تھا۔ اس وقت حزب اسلامی افغانستان کے مسلح دستے کابل کے جنوبی نواح میں موجود تھے۔

پاکستان نے افغانستان میں نسلی بنیاد پر اٹھنے والے خون خرابے کے خطرہ کو فوری طور پر محسوس کیا۔ پاکستان کے وزیر اعظم محمد نواز شریف ۱۸/۱۸ اپریل کو پشاور آئے جہاں انہوں نے افغان مجاہدین کے رہنماؤں سے ملاقاتیں کیں۔ ان ملاقاتوں کا بظاہر نتیجہ کچھ نہ نکلا۔ مگر اختلافات کے باوجود وزیر اعظم پاکستان کے ایماء پر مجاہدین کے باہمی مذاکرات جاری رہے۔ ۲۳/۱۰ اپریل ۱۹۹۲ء کو پشاور میں ۱۰ افغان مجاہدین تنظیموں میں ایک ۵۱ رکنی عبوری کونسل کے قیام پر اتفاق رائے ہو گیا۔ اس کا اعلان اتحاد اسلامی کے رہنما عبدالرب رسول سیاف نے ایک پریس کانفرنس میں کیا۔ مذاکرات میں حزب اسلامی حکمتیار کا ایک نمائندہ شامل تھا۔ اسی دن اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل مسٹر بطر دوس عالی اسلام آباد پہنچے۔ حزب اسلامی نے بعد میں ایک اعلامیہ کے ذریعے معاہدہ پشاور کو بعض شرائط کے ساتھ تسلیم کر لیا۔ معاہدہ پشاور کے اہم نکات یہ تھے:

☆ ایک ۵۱ رکنی عبوری کونسل تشکیل دی جائے گی۔ اس کے صدر صبغت اللہ مجددی ہوں گے۔ ان کی میعاد عہدہ دو ماہ ہوگی۔

☆ دو ماہ بعد ایک شورائے قیادی (لیڈر شپ کونسل) بنے گی۔ اس کے سربراہ جمعیت اسلامی کے رہنما برہان الدین ربانی ہوں گے۔ ان کی حکومت کی میعاد چار ماہ ہوگی۔

☆ وزیر اعظم حزب اسلامی گلبدین حکمتیار گروپ میں سے لیا جائے گا۔

☆ جمعیت اسلامی کے کمانڈر احمد شاہ مسعود وزیر دفاع ہوں گے۔

☆ وزیر داخلہ سیاف گروپ سے وزیر تعلیم پونس خالص کی جماعت سے اور وزیر خارجہ سید احمد

گیلانی گروپ سے لیا جائے گا۔

☆ انتقال اقتدار سے لے کر عبوری حکومت کے قیام تک کا سارا عمل چھ ماہ کیلئے ہوگا۔ اس کے بعد ایک اسلامی کونسل مستقبل کی عبوری حکومت کا فیصلہ کرے گی۔

☆ اٹھارہ ماہ کے اندر ایک منتخب پارلیمنٹ افغانستان کی مستقل حکومت تشکیل دے گی۔

جمعیت اسلامی کے گورنر یلا کمانڈر احمد شاہ مسعود جسے عبدالرشید دوستم، سید جعفر نادری اور جنرل عبدالمومن کی حمایت حاصل تھی اسلامی جہاد اتحاد کے نام سے کابل کے شمال میں جبل السراج میں موجود تھے۔ ۱۸ اپریل ۱۹۹۲ء کو انہوں نے بیرونی صحافیوں کو بتایا کہ وہ جلد ہی کابل میں مجاہدین کی حکومت قائم کریں گے۔ ادھر گلبدین حکمت یار نے کابل کے حکمران فوجی افسروں کو وارننگ دی کہ وہ ۲۶ اپریل تک غیر مشروط طور پر ہتھیار ڈال دیں۔

۲۰ اپریل تک اسلامی جہاد اتحاد اور حزب اسلامی افغانستان کے گوریلوں کے درمیان کابل پر کنٹرول کیلئے لڑائی چھڑ چکی تھی۔ اسی دوران افغان وزیر خارجہ عبدالوکیل نے احمد شاہ مسعود کے ساتھ بات چیت کی۔

۲۲ اپریل کو گلبدین حکمت یار نے احمد شاہ مسعود کے گوریلوں اور ان کے ساتھ تعاون کرنے والی جماعتوں کو ۲۳ اپریل تک کابل کی حفاظتی پٹی سے نکل جانے کا الٹی میٹم دیا۔ اس الٹی میٹم کو مسترد کر دیا گیا۔ اگلے روز احمد شاہ مسعود کے سینکڑوں غیر مسلح گوریلے کابل کی گلیوں میں داخل ہو گئے جبکہ حزب وحدت نے جو کہ ہزارہ کے شیعہ مسلک گوریلوں پر مشتمل تھی، کابل کے مغربی حصے پر قبضہ کر لیا۔ اسی دن اقوام متحدہ کے نمائندہ خاص مسٹر بنین سیوان نے چاریکار میں احمد شاہ مسعود سے ملاقات کی۔

۲۵ اپریل کو الٹی میٹم کی مدت ختم ہوتے ہی حزب اسلامی افغانستان (حکمت یار) کے گوریلے سرعت سے کابل کی طرف بڑھے۔ انہوں نے شہر کے اہم حصوں کا کنٹرول سنبھال لیا۔ ان میں وزارت دفاع اور وزارت داخلہ کی عمارتیں شامل تھیں۔ جبکہ صدارتی محل، ریڈیو ٹیلی ویژن اسٹیشنوں، کابلی ایئرپورٹ اور دوسری کئی حساس تحصیبات پر احمد شاہ مسعود، جنرل دوستم اور جنرل مومن کے فوجیوں کا قبضہ برقرار رہا۔

اس سے اگلی شب حزب اسلامی اور جمعیت اسلامی کے گوریلوں میں کابل پر مکمل قبضہ کیلئے شدید جھڑپیں شروع ہو گئیں۔ زبردست فضائی حملوں اور بھاری توپ خانے کی گولہ باری کے نتیجے میں حزب اسلامی کے گوریلے کابل کی پوزیشنوں سے پیچھے ہٹ گئے۔ تاہم دو دن بعد فریقین میں عارضی جنگ

بندی عمل میں آگئی۔

۲۸ اپریل کو صحت اللہ مجددی نے کابل پہنچ کر عبوری صدارت کا عہدہ سنبھال لیا۔ پاکستان نے اسی دن نئی حکومت کو تسلیم کر لیا۔ اس سے اگلے دن محمد نواز شریف وزیر اعظم پاکستان ایک سرکاری وفد لے کر کابل آئے۔ اس دورے کی دعوت صحت اللہ مجددی نے دی تھی۔

۲۹ اپریل ۱۹۹۲ء کو عبوری کونسل کے نامزد وزیر دفاع احمد شاہ مسعود جنہیں جنرل کا عہدہ مل چکا تھا ۱۳ برس کی خانہ جنگی کے خاتمہ پر کابل پہنچے۔ وہ ۱۰۰ ٹینکوں اور ۵۰۰۰ گوریلوں کے ہمراہ شہر میں داخل ہوئے۔ دوسرے دن انہوں نے اخبار نویسوں سے ملاقات کے بعد کہا کہ وہ عبوری حکومت کے ”باغیوں“ اور ”تخریب پسندوں“ کی سرگرمیوں کو پکڑ دیں گے۔ لیکن جنرل دوستم کی ملیشیا نے کابل کے شہریوں سے جو سلوک کیا وہ اس کا موازنہ کر سکے۔ ایک خبر رساں انجینسری کی اطلاع کے مطابق کابل کے جنوبی علاقے پر کٹرول کے بعد دوستم کے فوجیوں نے گھروں کو خوب لوٹا۔ ایک پوری مارکیٹ لوٹ مار کر کے اجاڑ دی گئی۔ بیرونی سفارت خانے تک محفوظ نہ رہے۔ ان کی قیمتی کاریں اور دوسرا اثاثہ قیمت ساز و سامان لوٹ لیا گیا۔ حتیٰ کہ پاکستان کا سفارت خانہ بھی ان کی دستبرد سے محفوظ نہ رہا۔ وہاں سے آٹھ کاریں چھین لی گئیں۔

نسلی، لسانی اور مذہبی تفرقہ نے فتح کی خوشیاں منانے کے بجائے کابل کو خون میں نہلا دیا۔ تاجک اور ازبک اپنے مقابلے میں پشتونوں سے ٹکرا گئے اور پشتونوں نے اپنے مطالبات منوانے تک ہتھیار ڈالنے سے انکار کر دیا۔ ادھر ایران کی حمایت یافتہ حزب وحدت کے مطالبے پہلے سے زیادہ بڑھ گئے اور انہوں نے ۵۱ کئی عبوری کونسل میں ۱۹ سیٹوں کا مطالبہ کر دیا۔

۲ مئی ۱۹۹۲ء کو کابل کے دفاع کیلئے ایک کونسل بنی۔ اس میں پشتونوں کو بھی نمائندگی دی گئی تھی، لیکن یہ کونسل کوئی مؤثر کردار ادا نہ کر سکی۔ اقوام متحدہ کے نمائندہ خاص مسٹر بینن سیوان ۳ مئی کو کابل آئے۔ مجاہدین کی حکومت کے قیام کے بعد یہ ان کا پہلا دورہ کابل تھا لیکن اب ان کا مشن عبوری حکومت کے مسائل نمٹانے کے بجائے نجیب کی جان بچانا تھا۔

۵ مئی کو عبوری صدر صحت اللہ مجددی نے ۳۶ ارکان پر مشتمل کابینہ بنائی۔ ان کے اپنے دو بیٹے کابینہ میں شامل کیے گئے۔ جبکہ حزب اسلامی (حکمت یار) اور حزب وحدت سے کوئی نمائندہ نہ لیا گیا۔ اسی دن پروفسر ربانی اور سیاف کے نمائندے کابل کے جنوب میں گلبدین حکمت یار سے ملے۔ جنہوں

نے ایک سمجھوتے کا اعلان کیا اور فریقین کے درمیان جاری جھڑپیں ختم ہو گئیں۔ وزیر دفاع احمد شاہ مسعود نے اخباری نمائندوں کے سوال پر خود اس سمجھوتے کی تصدیق کی۔ البتہ انہوں نے اس کی تفصیلات بتانے سے انکار کر دیا۔ اصل میں وہ حکمت یاری کی شرائط پر اس سمجھوتے سے مطمئن نہ تھے۔

۷ مئی ۱۹۹۲ء کو احمد شاہ مسعود نے ایک پرہجوم کانفرنس میں گلبدین حکمت یاری کی طرف سے پیش کی گئی شرائط مسترد کر دیں۔ انہوں نے کہا کہ دو ستم ملیشیا کو کابل سے نکالا نہیں جائے گا۔ ان کے بقول اس ملیشیا نے نجیب کو اقتدار سے ہٹانے میں اہم کردار ادا کیا اور اب وہ اسے کابل سے نکال کر اس کی تزییل کرنا نہیں چاہتے تھے۔ اپنے فوجی دستے کو مضبوط تر کرنے کیلئے مسعود نے پرچم پارٹی کے رکن اور نجیب حکومت کے سابق چیف آف آرمی اسٹاف جنرل آصف دلاور کو ان کے عہدے پر بحال کر دیا۔ وہ ایک تاجک تھے۔

احمد شاہ مسعود کے انکار کے بعد جنگ بندی کا سمجھوتا ختم ہو گیا۔ اس سے پہلی بار شمال اور جنوب میں پائی جانے والی رقابت کو شدت سے ابھرنے کا موقع مل گیا۔ افغانستان جو کہ نسلی لحاظ سے ایک نازک رشتے میں بندھا ہوا تھا، نفرتوں کے طوفان میں پھنس گیا۔

عبوری حکومت برسر اقتدار آئی تو اس نے نجیب کے سوا تمام لوگوں کو عام معافی دینے کا اعلان کیا۔ اس سے بڑے بڑے مجرم صاف بچ گئے۔ اس پالیسی سے نہ صرف افغان مجاہدین میں تفرقہ پیدا ہوا بلکہ اس سے بڑھ کر وہ ایک دوسرے کے خلاف صف آراء ہو گئے۔ ۱۶ مئی کو ۲۰ ارکان پر مشتمل ایک پاکستانی قبائلی وفد خون خرابے کو روکنے کیلئے پشاور سے براستہ تورخم کابل کیلئے روانہ ہوا۔ اس میں سینیٹر ممبران قومی اسمبلی، قبائلی سردار، ملک، روحانی پیشوا اور علماء شامل تھے۔ ۲۱ مئی کو اس وفد کی موجودگی میں ۵ نکاتی صلح نامے کا اعلان کیا گیا۔ ٹھیک اسی دن دو ستم ملیشیا نے حزب اسلامی کے ٹھکانوں پر گولہ باری کر کے اس صلح نامے کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔

۲۲ مئی کو عبوری صدر صبغت اللہ مجددی نے مزار شریف کی ایک مسجد میں ایک غیر معمولی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ان ملیشیاؤں کو مصداتی اعزازات سے سزا جنہوں نے وسط مارچ میں نجیب کے خلاف بغاوت کر کے مسعود کا ساتھ دیا تھا۔ اس سلسلے میں ازبک ملیشیا کے تین ستاروں والے جنرل عبدالرشید دو ستم کو ترقی دے کر چار ستاروں والا جنرل بنا دیا گیا۔ مجددی نے اپنی تقریر میں انہیں ”مجاہد“ کہہ کر پکارا۔ دو ستم کے علاوہ بریگیڈیر جنرل مومن اور لیفٹیننٹ جنرل سید جعفر نادری کو بالترتیب لیفٹیننٹ

جزل اور کرٹل جزل کے عہدوں پر ترقی دی گئی۔ کابل ٹی وی نے معمول کی نشریات کو روک کر ان ترقیوں کی خبر نشر کی۔

احمد شاہ مسعود اور حکمتیار اس دوران پاکستان کے ایک وفد کی آمد کے بعد ایک دوسرے سے بالواسطہ مذاکرات کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے تھے۔ ان کوششوں کا نتیجہ یہ نکلا کہ کابل کے مشرق میں واقع لیو اراکٹ بیس میں دونوں گوریلارہنماں کر بیٹھے۔ کئی گھنٹوں کے طویل مذاکرات کے بعد جس میں سعودی شہزادے نائف بھی شامل تھے ایک معاہدہ امن طے پا گیا۔ بعد میں احمد شاہ مسعود اور حکمت یار نے ایک مشترکہ پریس کانفرنس سے خطاب کیا۔

مسعود حکمت یار معاہدہ سات نکات پر مشتمل تھا۔ اس میں کابل سے پلیشیا میں ہٹانے کی بات تسلیم کی گئی تھی۔ اس کے علاوہ ایک مشترکہ کمیشن بنانے پر اتفاق ہوا تھا جس نے انتقال اقتدار کیلئے انتخابات کرانے تھے۔

۲۶ مئی کو صدر صیغۃ اللہ مجددی نے مسعود اور حکمتیار کے درمیان ہونے والے معاہدے کی بعض شقوں کو ناقابل عمل قرار دیا۔

۲۹ مئی کو صیغۃ اللہ مجددی کا ہوائی جہاز پاکستان سے واپسی پر کابل کے ہوائی اڈے پر اتر رہا تھا کہ اسے ایک راکٹ آ کر لگا جس سے جہاز کا انجن جزوی طور پر تباہ ہو گیا۔ اس حادثے میں زخمی ہونے والے پائلٹ کا کہنا تھا کہ جہاز پر حملہ جنوبی کابل کی جانب سے کیا گیا تھا۔ بعض یعنی شاہدین کا بیان تھا کہ جہاز پر اینٹی ایئر کرافٹ گن سے فائرنگ ہوئی تھی۔ اس وقت جہاز پر وفد کے ۱۰۰ سے زائد ارکان سوار تھے۔ اس حملہ کیلئے مجددی نے حزب اسلامی کو ذمے دار ٹھہرایا۔

مجددی کے جہاز پر حملے کے ناخوشگوار واقعے کے بعد امن کی مہم مامیڈین ٹوٹ گئیں۔ چھ دن کی جنگ بندی کے بعد دو ستم اور حکمت یار کے دستوں میں زبردست فائرنگ ہوئی۔ پھر جون کے اوائل میں سیاف کے اتحاد اسلامی اور شیعوں کی حزب وحدت کے درمیان خونخاک جھڑپیں کئی دن جاری رہیں۔ جن سے کابل کا امن پارہ پارہ ہو کر رہ گیا۔

۱۶ جون کو مجددی نے ایران کے دباؤ پر اپنی کابینہ میں ۳ وزراء کا اضافہ کیا۔ ان کا تعلق حزب وحدت سے تھا۔ قومی سلامتی کی وزارت اسی تنظیم کے سپرد ہوئی۔ ۱۶ جون کو ہی اتحاد اسلامی کے رہنما پروفیسر سیاف حکمت یار سے ملے۔ انہوں نے مجددی پر الزام لگایا کہ وہ بہرک کارل احمد شاہ مسعود اور

حزب وحدت کے ساتھ مل کر اپنے اقتدار کو طول دینے کی کوشش کر رہے ہیں جبکہ مجددی کا موقف یہ تھا کہ انہوں نے کابل کو فرقہ بندی سے محفوظ کرنے کیلئے شیعہ وزراء کا بیڑہ میسر لیا۔

صدر مجددی کچھ اس قسم کے بیان دے رہے تھے جن سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ وہ اپنے عہدہ صدارت کو دو سال تک بڑھانا چاہتے تھے۔ ان کے ہوائی جہاز پر حملے کے بعد عہدہ صدارت کو طول دینے کے بیانات اس تو اتر سے آنے لگے کہ ان سے افغانستان میں ایک بحران کی سی کیفیت پیدا ہوگئی۔ لیکن پھر اچانک معاہدہ پشاور کے مطابق انہوں نے صدارت چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ ۲۸ جون ۱۹۹۲ء کو انہوں نے ۱۰ رکنی قیادی کونسل کو اقتدار منتقل کر دیا۔ کونسل نے اسی دن پروفیسر برہان الدین ربانی کو صدارت کیلئے جنم لیا۔ ربانی جو کہ جمعیت اسلامی کے سربراہ تھے اور ایک تاجک تھے۔ ان کا تعلق صوبہ بدخشاں سے تھا۔ معاہدہ پشاور کے مطابق انہیں چار ماہ تک عہدہ صدارت پر رہنا تھا۔

کابل میں گزشتہ دو ماہ سے لوٹ مار کا بازار گرم تھا۔ یکم جولائی کو قیادی کونسل نے شہر میں مسلح گروپوں کے خلاف آپریشن کلین اپ کا حکم دیا۔ اس مقصد کیلئے ۱۵۰۰ فوجیوں پر مشتمل ایک خصوصی دستہ تشکیل دیا گیا۔ اس میں چند گوریلا افغان گروپوں کے علاوہ سابق کمیونسٹ یونٹوں کے فوجی شامل تھے، ان فوجیوں نے سرکاری احکامات کی آڑ میں ایسی کارروائیاں کیں جو آپریشن کلین اپ کے اصل مقاصد سے ہٹ کر تھیں۔ برہان الدین ربانی ایک تنظیم کے سربراہ ہونے کے ناتے غیر جانبدار صدر نہیں کہلائے جاسکتے تھے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان کے احمد شاہ مسعود سے اختلافات پیدا ہو گئے تھے اور اب وہ حکمت یار سے رابطے کرنے لگے تھے۔ یہ رابطے نتیجہ خیز ثابت ہوئے اور دو ماہ کے بائیکاٹ کے بعد حزب اسلامی حکمت یار نے معاہدہ پشاور کے مطابق حکومت میں جانے کا فیصلہ کیا۔ ۶ جولائی ۱۹۹۲ء کو حزب کے نامزد وزیراعظم عبدالصہب فررید نے کابل پہنچ کر اپنے عہدے کا چارج سنبھال لیا۔

نئے وزیراعظم سینکڑوں مسلح گوریلوں کے ہمراہ چار پیکار سے دارالحکومت میں داخل ہوئے۔ حزب اسلامی نے سیاسی تعاون کے ساتھ ساتھ اپنی ”فائر پاور“ ثابت کرنے کا موقع ہاتھ سے جانے نہ دیا۔ دو دن پہلے اس نے کابل پر زبردست گولہ باری کی جس میں ۱۰۰ کے لگ بھگ افراد ہلاک ہوئے۔ طاقت کی نمائش کے یہ مظاہرے کابل کے باشندوں کیلئے عذاب بن گئے۔ آنے والے دنوں میں قبائلی رقابت نے اس بد نصیب شہر کو جموٹوں کا مسکن بنا دیا۔

۱۲ جولائی ۱۹۹۲ء کو وزیر داخلہ احمد شاہ نے بیان دیا کہ وہ کسی مدافعت کا سامنا کیے بغیر کابل سے ان

مخالفیہ گھریلووں کو نکال دیں گے جنہوں نے مختلف سرکاری محاذوں پر اہم کاموں اور بڑے بڑے کاموں پر قبضہ کر رکھا تھا۔ لیکن وزیر داخلہ کا یہ بیان خیالی خدما ماہریت ہوا۔ شخصوں کی تنظیم حزب وحدت کے رہنما عبداللطیف حزاری نے بیان دیا کہ جب تک انہیں اقتدار میں پورا حصہ نہیں دیا جائے گا وہ کبھی جھڑپوں شامل نہ ہوں گے۔ واضح رہے کہ مختلف شیعہ گروپوں پر مشتمل حزب وحدت کا بل کے مغزلی اور شمالی حصوں پر قابض تھی۔ ان کے گوریلوں کا تعلق زیادہ تر ہزارہ قبائل سے تھا۔ باقی قریب سترہ حزب وحدت اور سیاف کی حزب اسلامی میں خونخوئی جھڑپیں ہو چکی تھیں۔

۱۷ جولائی کو وزیر اعظم عبدالصوب رفرید نے اپنی اتحادی تنظیم حزب وحدت کو قیادی کونسل میں شامل کرنے کا اعلان کیا تو حالات پھر خراب ہو گئے۔ ۱۸ جولائی کو کابل سے عہدہ تلخیا کو باہر جانے کا حکم دیا گیا جسے ٹال دیا گیا۔ ۱۹ جولائی کو حزب وحدت اور اتحاد اسلامی میں دوسری بار جھڑپیں شروع ہو گئیں۔ تین دن کی لڑائی میں درجنوں افراد ہلاک اور زخمی ہو گئے۔ سینکڑوں لوگ لڑائی سے متاثرہ علاقے سے بھاگ گئے۔ ۲۲ جولائی کو جنگ بندی ہوئی۔

حزب وحدت کے ساتھ ہونے والی جھڑپوں نے سیاف کے اتحاد اسلامی کی کمر توڑ کر رکھ دی۔ ان حالات میں سابق کمیشنر نے ازبک لیٹیا نے فائدہ اٹھایا جسے اب وزیر دفاع احمد شاہ مسعود کی اشریاد حاصل تھی۔ جولائی ۱۹۹۲ء کے آخر میں اس کے مزید ۷۰۰ مسلح افراد کابل میں داخل ہو گئے۔

۳۱ جولائی ۱۹۹۲ء کو حزب اسلامی افغانستان نے اپنے ہیڈ کوارٹر چہار آسیاب سے ایک اعلامیہ جاری کیا کہ ”قاتلوں“ کو قوم کارہما بننے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ شورائے مل و معشر پر تنقید کرتے ہوئے کہا گیا کہ یہ صرف عوامی رائے کے اظہار کو ”دھوکا“ دینے کیلئے بنائی گئی تھی۔

یہ چہار آسیاب سے جاری ہونے والا آخری ایسی ٹیم تھا۔ ۲ مارچ کو ایچ جے کابل پر راکٹوں سے حملہ شروع ہو گیا۔ ایک دن میں شہر پر ۱۵۰ راکٹ اور گولے لگائے گئے۔ کئی گولے ایئر پورٹ پر آ کر گرے۔ دو ہوائی جہاز تباہ ہو گئے۔ ان میں سے ایک ہوائی جہاز جو صدر کے لئے مخصوص تھا، مگر سمیت تباہ ہو گیا۔ ٹیلی ویژن کی خبر کے مطابق ۱۳ شہری ہلاک اور ۹ زخمی ہوئے۔ فریقین نے ایک دوسرے پر لڑائی شروع کرنے کا الزام لگایا۔

نجیب کے زوال کے بعد یہ کابل میں ہونے والی سب سے خونخوئی لڑائی تھی جو کم و بیش ایک ماہ جاری رہی۔ یو این کے ابتدائی اندازے کے مطابق اس میں ۲۵۰۰ شہری ہلاک ہوئے۔ غیر ملکی سفارت کار

کابل کو چھوڑ کر فرار ہو گئے۔ کئی سفارت خانوں کو گولہ باری سے نقصان پہنچا۔ شہر کے ۱۷ میں سے ۸ ہسپتال تباہ ہو گئے۔ حتیٰ کہ صدارتی محل کو بھی نقصان پہنچا۔ اس لڑائی کے نتیجے میں ۳۹۰۰۰ مہاجرین پاکستان واپس آنے پر مجبور ہوئے۔

ایک ۲۰ رکنی عائشہ ٹیم جس کا تعلق پانچ مختلف افغان گروپوں سے تھا، تھار بلیشیاؤں میں جنگ بندی کی کوششوں میں مصروف رہی۔ کوئی دس دن کی دور ڈھوپ کے بعد فریقین ۱۹ اگست ۱۹۹۲ء کو جنگ بندی پر رضامند ہو گئے۔

جنگ بندی کے معاہدہ سکے باوجود یکم ستمبر ۱۹۹۲ء کو فوجی طیاروں کے ذریعے حزب اسلامی کے ٹھکانوں پر بمباری کی گئی۔ شین ڈنڈ کے ہوائی اڈے اور اس کے گرد و نواح میں مگ طیاروں نے سینکڑوں بم برسائے۔ ۲ ستمبر کو افغان حکومت نے ہزاروں گوریلوں کو کابل چھوڑنے کا حکم دیا لیکن دوستم کا کہنا تھا کہ وہ اپنے فوجی دستوں کو کابل چھوڑنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ اس کے کئی یونٹ پکتر بندگاڑیوں پر سوار ہو کر شہر میں خوف دہراں پھیلائے۔ ۶ ستمبر کو ازبک بلیشیاؤں مکمل اخراج کی بجائے کابل کی پیرکوں میں واپس چلی گئی۔ لیکن اس نے کابل ہوائی اڈہ اپنے قبضہ میں رکھا۔ ۱۶ ستمبر کو ایئر فورس کے طیاروں نے حزب اسلامی کے زیر کنٹرول شین ڈنڈ ایئر پورٹ پر حملہ کر دیا۔ جن کے نتیجے میں ایک ہیلی کاپٹر اور ایک اسلحہ ڈپو تباہ ہو گیا۔ اسی دن کابل میں حزب وحدت اور اتحاد اسلامی (سیاف) میں جھڑپیں شروع ہوئیں جو چار دن جاری رہیں۔ اس سے کابل کا نواحی علاقہ کھنڈروں میں تبدیل ہو گیا۔

۲۳ ستمبر ۱۹۹۲ء کو حزب وحدت کو حکومت میں شامل کر لیا گیا۔ ایران نواز شیعوں کی یہ تنظیم جولائی ۱۹۹۳ء میں وزارتوں کیلئے زیادہ شیشیں لینے کے لئے احتجاجاً حکومت سے الگ ہو گئی تھی۔

۱ اکتوبر ۱۹۹۲ء تک آغاز میں دوستم بلیشیاؤں اور جمعیت اسلامی (مسعود) کے اتحادی دستوں سے حزب اسلامی کی جھڑپیں شروع ہو گئیں۔ اس بار ہرات خون خرابے کا نشانہ بنا۔ حزب اسلامی نے ایئر پورٹ سمیت اہم مقامات پر قبضہ کر لیا۔ چند دن بعد سرکاری افواج اسے پیچھے دھکیل کر دوبارہ قابض ہو گئیں۔ کہا جاتا ہے کہ صوبہ ہرات میں اپریل ۱۹۹۳ء میں حکمران جمعیت اسلامی کے بعض کمانڈروں نے بغاوت کر دی تھی جو اس لڑائی کا سبب بنی۔

معاہدہ پشاور کی رو سے برہان الدین ربانی چار ماہ کیلئے صدر چنے گئے تھے۔ ان کے عہدے کی

میں ۱۲۸ اکتوبر کو ختم ہوگئی۔ ۱۳ اکتوبر کو قیادی کونسل نے ان کے عہدہ صدارت میں ۲۵ دن کی توسیع کر دی۔

۱۲۵ اکتوبر ۱۹۹۲ء کو اقوام متحدہ کے ایک تحقیقاتی افسر فیکس ارکور نے جنرل اسمبلی میں ایک رپورٹ پیش کی جس کا تعلق افغانستان میں حقوق انسانی سے تھا۔ اس رپورٹ میں بتایا گیا تھا کہ دنیا میں مختلف اکٹھ ملک افغانستان میں اپنا اپنا اثر و نفوذ بڑھانے کے لئے کام کر رہے ہیں۔ ان کے مطابق حقوق انسانی کی خلاف ورزیوں اور خون خرابہ کے پیچھے یہی عوامل کارفرما تھے۔

۵ دسمبر ۱۹۹۲ء کو مغربی کاہل میں حزب وحدت اور وزیر دفاع احمد شاہ مسعود کے تاجک گولہ بوزوں میں لڑائی شروع ہوگئی۔ وزارت دفاع کے مطابق حکومت نے حزب وحدت کے لاکھ لاکھوں پر ۴۰ لاکھ ڈالر خرچ کر دیے تھے۔ اس سلسلہ میں مقامی خود سرکمانڈروں کو اس حملے کا مدد دیا گیا۔ لڑائی میں سیکڑوں لوگ ہلاک ہو گئے۔ یہ خونریز جھڑپیں اس وقت شروع ہوئیں جب شورائے حل و عقد نے ایک نئے نمبر کا انتخاب کرنا تھا۔

جنرل دوستم جو اپنی قائم کردہ ”جنبش ملی اسلامی“ کا عقیدہ رکھتے تھے، ایک عرصے سے حکومت میں نمائندگی کا مطالبہ کر رہا تھا۔ ۹ دسمبر ۱۹۹۲ء کو اس کی ازبک طیش نے اچانک ہمیشہ قوی کر کے پارلیمینٹ کا بل کی اہم تنصیبات پر قبضہ کر لیا۔ لڑاکا طیاروں نے صدر ذوالفقار کے محل اور وزارت دفاع کو بمباری کا نشانہ بنایا۔ اسی شب دوستم کے ۵۳ ڈویژن نے ایک سخت لڑائی کے بعد قلعہ بالانہ خرابہ پر قبضہ کر کے احمد شاہ مسعود کے دستے کو پسپا کر دیا۔

وزارت دفاع کے ایک سینئر افسر نے ان جھڑپوں کو ایک انتہائی نفاذ و نفوذ اور تباہ کن نتائج کے نتیجے میں ۱۲ دسمبر کو شورائے حل و عقد کا وہ اجلاس نہ ہو سکا جس میں ایک نئے نمبر کا انتخاب ہونا تھا۔ صدارتی ترجمان کے مطابق جمعیت اسلامی کے برہان الدین ربانی اور مشعل قلی فریب (لیٹا) کے پشتون رہنما سید احمد گیلانی اگلے مرحلے کیلئے صدارتی امیدوار تھے۔

مجاہدین کی ۶ تنظیموں میں سے ۱۵ انتخاب کی مخالفت کر رہے تھے۔ جبکہ حکومت نے جنرل ذوالفقار کے نئے ڈھانچے کے تحت ایک ہی دن میں انتخاب کرنا چاہتی تھی۔ اس لئے یہ تھا کہ وہ فطرتاً ہی کے ۲۹ صوبوں میں سے شورائے حل و عقد کے ۱۵۰۰ مندوبین ایک نیا جھڑپ چھنے کیلئے تھے۔ شمالی اکرین لگے۔ لیکن عملی طور پر ایسا نہ ہو سکا۔ ۱۳ دسمبر ۱۹۹۲ء کو حکمت یارا اور مسعود کے گولہ بوزوں میں لڑائی ہو گئی۔ نتیجے میں ۹۰۰ سے زائد مندوب کاہل پہنچ گئے۔

۲۹ دسمبر کو شورائے حل و عقد کا اجلاس شروع ہوا۔ معلوم ہوا کہ برہان الدین بلخ مسعود کے واحد
 ۱۰۰
 ۱۰۰

پاکستان کے لیے ایک نیا دور کا آغاز ہوا۔

پاکستان کے لیے ایک نیا دور کا آغاز ہوا۔

اس عہد کے لیے ایک نیا دور کا آغاز ہوا۔ پاکستان میں موجود سابق افغان صدر محمد نجیب اللہ نے اس احتجاج کو غیر قانونی قرار دے کر مسترد کر دیا۔ اسی طرح حکمت یار نے یہ عہد کیا کہ وہ ربانی کو کابل سے نکال کر دم لیں گے۔ یہ سیاسی کھیل چھ دن بعد ایک خوفناک لڑائی کی شکل اختیار کر گیا۔

۱۹۹۲ء کی جنوری ۱۹ء کو برہان الدین ربانی نے دو سال کے لیے عہدہ صدارت کا حلف اٹھایا۔ حالت نا اطمینانی کے اس وقت کابل پر پاکستانی فوجیں قابض تھیں۔

ربانی کے عہدہ صدارت سے پہلے ہی کابل ایک نئی جنگ کی لپیٹ میں آ گیا۔ عبوری پارلیمنٹ کے قیام نے نئے شہادت کیخبریں دیا۔ پہلی بار حکومت کے حکم پر چھ گروپوں کے کئی سرکردہ افراد گرفتار کر لیے گئے۔ نئے عہدہ صدارت پر اور وزیراعظم نازون نے کئی تجویزیں پیش کر دیں۔

۱۹۹۳ء کو وزارت دفاع کی عمارت گولہ باری کی زد میں آئی۔ کابل بدترین خانہ جنگی کی لپیٹ میں آ گیا۔ جنوری کے تیسرے عشرہ کے اختتام پر سرکاری فوجوں اور حکمت یار کی حزب اسلامی کے درمیان خوفناک لڑائی چھڑ گئی۔ شیعہ حزب وحدت حکمت یار کا ساتھ دے رہی تھی، کیونکہ اس کے لیے سب سے بڑے حریف منافق محمد ربانی کی صفوں میں شامل تھے۔

دو ہفتہ فروری میں نیٹو اقوامی ہلال احمر کمیٹی نے رپورٹ پیش کی کہ لڑائی کے ۲۵ دنوں میں ۵۰۰۰ سے زائد شہری ہلاک ہو چکے تھے۔ غیر ملکی سفارت خانے کابل کی بھیانک صورت حال میں بند ہو رہے تھے اور ان کا عملہ واپس جا رہا تھا۔ پاکستان نے برسر جنگ افغان دہڑوں کو اسلام آباد میں امن مذاکرات کی دعوت دی۔ مارچ ۱۹۹۳ء کے شروع میں پہلا راؤنڈ وزیراعظم کی رہائش گاہ پر ہوا۔ دو دنوں کی بات چیت کے بعد فریقین کابل میں چھک بند ہو گئے۔

اسلام آباد میں ہفتے بھر کے تھکا دینے والے مذاکرات کے نتیجے میں فریقین نے ایک وزیراعظم چننے اور دوطرفی کوئٹہ معاہدے پر اتفاق کیا۔ ۷ مارچ ۱۹۹۳ء کو معاہدہ امن پر دستخط ہو گئے۔ اسی دن تمام افغان لیڈر عالمی ابلاغ عامہ کے نمائندوں کے سامنے آئے۔ انہوں نے معاہدہ کو عملی طور پر نافذ کرنے کے بارے میں رائے دینے سے اجتناب کیا۔ اس کا صاف صاف مطلب یہ تھا کہ اہم امور پر اتفاق رائے نہیں ہو سکا تھا۔ مارچ کے دوسرے عشرے میں گلبدین حکمت یار نے معاہدہ کی رو سے وزارت عظمیٰ کا عہدہ قبول کر لیا۔ اسی دن ۱۱۳۲ افراد پر مشتمل پاک افغان وفد سعودی عرب

کیلئے روانہ ہو گیا۔

۹ مارچ ۱۹۹۳ء کو فریقین نے مکہ میں ایک حتمی معاہدہ پر دستخط کر دیئے۔ اس سے اگلے دن سعودی فرماں روا شاہ فہد اور پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف نے معاہدہ پر مضامین کی حیثیت سے دستخط کیے۔ ۱۵ مارچ کو تھران میں پاک افغان وفد کی موجودگی میں ایران کے صدر ہاشمی رفسنجانی نے اپنے ملک کی نمائندگی کرتے ہوئے اس معاہدہ پر دستخط کیے۔

۲۹ مارچ ۱۹۹۳ء کو نامزد وزیر اعظم گلبدین حکمت یار نے اپنی کابینہ کی تشکیل کا اعلان کیا۔ صدر اور وزیر اعظم میں وزیر دفاع کے عہدہ کیلئے اختلافات موجود تھے۔ نئی کابینہ میں اس عہدہ کے لئے احمد شاہ مسعود کا نام شامل نہ تھا، اس لیے صدر نے اس کابینہ کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔

احمد شاہ مسعود پہلے ہی سے وزیر دفاع چلے آ رہے تھے، اپریل کے شروع میں حکمت یار نے جھگی کابینہ توڑ دی لیکن صدر ربانی نے وزیر اعظم کے اس عمل کی توثیق سے ایک بار پھر انکار کر دیا۔

مئی ۱۹۹۳ء کے شروع میں جلال آباد میں حکمت یار ربانی میٹنگ ہوئی۔ اس کے بعد مختلف تنظیموں میں مذاکرات ہوئے۔ ۱۹ مئی سے دو ماہ کیلئے جنگ بندی ہو گئی۔ مسعود وزارت دفاع سے ہٹنے پر تیار ہو گئے۔ معاہدہ اسلام آباد اور پھر جلال آباد مذاکرات کی رو سے صدر ربانی اور وزیر اعظم حکمت یار کو ڈیڑھ سال تک اپنے عہدوں پر کام کرنا تھا لیکن جلال آباد کے ۲۰ دن کے مذاکرات کے بعد جونہی معاہدہ کا اعلان ہوا، صحابہ فریق کابل میں پھر مستحکم تھا ہو گئے۔ معلوم ہوتا تھا کہ جنگجو تنظیموں کے صحابہ کمانڈر جنگ بندی اور سیاسی فارمولے کو تسلیم کرنے پر تیار نہ تھے۔

۷ جون ۱۹۹۳ء کو نامزد وزیر اعظم گلبدین حکمت یار نے اپنے بیٹے کو ارب چار آ سیاب میں کابینہ کا پہلا اجلاس بلایا۔ جب کابینہ کا اجلاس ہو رہا تھا، اس وقت کابل مارٹر بموں کی زد میں تھا۔ ۱۶ جون کو کابل میں وزارت دفاع کمیشن کی پہلی سرکاری میٹنگ ہوئی۔ فیصلہ ہوا کہ صحابہ فریقوں سے ہماری ہتھیار لے لیے جائیں گے، لیکن عملی طور پر ایسا نہ ہو سکا۔ جنگ بندی کی خلاف ورزیاں حسب معمول جاری رہیں۔

۱۷ جون ۱۹۹۳ء کو وزیر اعظم حکمت یار نے کابل سے ۳۰ کلومیٹر مغرب میں پٹخان میں واقع ایک مقام پر وزارت عظمیٰ کا حلف اٹھایا۔ صدر برہان الدین ربانی نے ایک خاص تقریب میں ان سے حلف لیا۔ ۸ ستمبر کو کابل یونیورسٹی کی دوبارہ کھلنے کی تقریب ہوئی۔ گلبدین حکمت یار نے اس موقع پر تقریر کرتے

ہوئے صدر ربانی سے مستعفی ہو جانے کا مطالبہ کر دیا۔ اکتوبر میں انتخابات کے بجائے باہمی خوں ریزی شروع ہو گئی۔ حکمت یار نے مشروط پیشکش کی کہ صدر ربانی اگر صدارت چھوڑنے اور استعفیٰ دینے پر تیار ہوں تو وہ بھی ساتھ ہی استعفیٰ دیدیں گے۔ انہوں نے دھمکی دی کہ اگر صدر ربانی نے استعفیٰ نہ دیا تو پھر ان کے صدارتی عمل کو بمباری کا نشانہ بنایا جائے گا۔

دو ستمبر ۱۹۹۲ء کے چار صوبوں پر قابض تھا۔ اپریل ۱۹۹۲ء میں جب سے اس نے نجیب اللہ کے خلاف بغاوت کی تھی وہ جمیعت اسلامی ربانی کا حلیف چلا آ رہا تھا۔ اس نے کئی بار حکومت میں شامل ہونے کی کوشش کی جس میں وہ کامیاب نہ ہو سکا۔ بالآخر اس دل برداشتہ جنرل نے دسمبر ۱۹۹۲ء میں کابل پر زوردار حملہ کیا تھا جسے احمد شاہ مسعود نے ناکام بنا دیا تھا۔

اس کی ازبک طیشیا کابل کی خواجہ رواس ایئر پورٹ، قلعہ بالا حصار اور تپہ مرغان پر قابض تھی۔ دو ستمبر نے قسمت آزمائی کیلئے پھر پانسا پلٹا۔ ۱۳ جولائی کو اس نے گلبدین حکمت یار سے اس کے فوجی کیمپ میں ملاقات کی۔ بات چیت اڑھائی گھنٹے جاری رہی۔ حکمت یار نے دو ستمبر کو نئی کابینہ میں ۲ عہدوں کی پیشکش کی۔ معلوم ہوتا تھا کہ دونوں شخصیتیں متحد ہو چکی تھیں۔

۱۵ جولائی کو اتحاد اسلامی کے پروفیسر سیاف نے اعلان کیا کہ وہ حکومت میں دو ستمبر کی شرکت کو قبول نہ کریں گے۔ دو ستمبر کا جوابی بیان آیا، جس میں اس نے کابینہ میں بیٹھیں لینے اور اسی سال کے آخر تک افغانستان میں باقاعدہ الیکشن کرانے کا مطالبہ کیا۔ یہ دونوں مطالبے ایک بار پھر ٹھکرا دیے گئے۔ ان حالات میں حکمت یار کی وزارت عظمیٰ کم و بیش دم توڑ چکی تھی۔

یکم جنوری ۱۹۹۳ء کو دو ستمبر نے بغاوت کر دی۔ کابل راکٹوں، توپوں اور بموں کے دھماکوں سے لرز اٹھا۔ ازبک طیشیا کابل پر چڑھ دوڑی تھی۔ صدر ربانی کے ترجمان نے رشید دو ستمبر پر اس حملے کا الزام لگایا۔ گلبدین حکمت یار کے ترجمان کا کہنا تھا کہ صدر ربانی کے وہ تمام مخالف جو کہ لاقانونیت سے جنگ آچکے تھے اس حملہ میں شریک تھے۔ دو ستمبر کی بغاوت ایک خوفناک جنگ میں تبدیل ہو گئی۔ مخالف فریقوں نے ایک دوسرے پر ہوائی جہازوں سے بمباری کی۔ سرکاری فوجوں نے کابل کا جم کر دفاع کیا۔ دو ستمبر کے آٹھ جرنیل اور ۵۰۰ فوجی گرفتار کر لیے گئے۔ قلعہ بالا حصار پر سرکاری فوجوں کا قبضہ ہو گیا۔ دو ستمبر کو شمال کی جانب دیکھ لیا گیا۔ کابل کے شہری پہلے کی طرح جنگ کی تباہ کاری کا نشانہ بنے۔ ہلال احمر کی رپورٹ کے مطابق ایک ماہ کی لڑائی میں ۹۰۰ گے لگ بھگ افراد ہلاک ہوئے۔ واضح رہے

کہ کامل میں یہ مجاہدین جب سے برسرِ اقتدار آئے تھے اس وقت سے اب تک گیارہ سو افراد باہمی لڑائی میں مارے جا چکے تھے۔

معاہدہ پشاور کی رو سے ربانی جون ۱۹۹۲ء میں چار ماہ کیلئے صدر بنے تھے۔ مگر وہ وقفے وقفے سے خود ساختہ پلیٹ فارموں سے اپنی مدتِ صدارت میں توسیع کراتے رہے۔ اس کا نتیجہ بدترین خانہ جنگی کی صورت میں نکلا۔ برہان الدین ربانی نے درج ذیل مواقع پر اپنے عہدہ صدارت میں توسیع کی:

پہلی توسیع ۱۹۹۲ء ۲۱ اکتوبر ۱۹۹۲ء

دوسری توسیع ۲۲ سال ۲۹ دسمبر ۱۹۹۲ء

تیسری توسیع ۲۹ جون ۱۹۹۳ء ۱۹۹۳ء

دسمبر ۱۹۹۳ء کے آخر میں جبکہ برہان الدین ربانی کو اقتدار چھوڑنا تھا، انہوں نے اپنے عہدہ صدارت میں چوتھی توسیع کر لی تھی۔

☆.....☆.....

قارئین کرام!

آپ نے طالبان کی آمد سے قبل افغانستان میں اقتدار کی جنگ کی المناک کہانی پڑھی، اس جنگ نے افغانستان کو جس طرح آتش و آہن کا مسکن بنا رکھا تھا اور افغان عوام کو طرح طرح کی مشکلات سے دوچار کر رکھا تھا..... آئیے اس کی بھی مختصر روداد ملاحظہ کرتے ہیں:

برطانوی مصنف پیٹر مارسٹن اپنی کتاب ”طالبان، افغانستان میں جنگ، مذہب اور نیا نظام“ میں لکھتے ہیں:

”یوں تو کامل پر مجاہدین کا قبضہ ہو گیا لیکن گلبدین حکمت یار نے جو اقتدار میں مؤثر شرکت کے خواہاں تھے خانہ جنگی شروع کر دی۔ شہری زندگی مفلوج ہو کر رہ گئی۔ شہر مختلف چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بٹ گیا۔ ہر ٹکڑے پر علیحدہ جماعت قابض ہو گئی۔ عبوری صدر صیغہ اللہ مجددی نے اپنے وزیر دفاع احمد شاہ مسعود کے ساتھ مل کر امن و امان کی صورت حال کو قابو میں لانے کی کوشش کی۔ ان کے بعد صدر ربانی نے اس کوشش کو مزید آگے بڑھایا مگر حزب وحدت اور اتحاد اسلامی کی افواج ایک دوسرے کے ساتھ دست

دگر بیاں ہو گئیں۔ اگست ۱۹۹۲ء میں کابل پر راکٹوں کا ایک خوفناک حملہ ہوا جس کے نتیجے میں ۱۸۰۰ شہری جاں بحق ہوئے اور بڑی تعداد میں لوگ مزار شریف کی طرف نکل کھڑے ہوئے۔ غرض ایک خوفناک خانہ جنگی کا سماں پیدا ہو گیا۔ صورت حال کو قابو میں لانے کیلئے حکمت یار کو وزیر اعظم بنا دیا گیا لیکن وہ بھی نام کے وزیر اعظم بنے کیونکہ صدر ربانی پر قاتلانہ حملے کے بعد ان کی کابل میں داخلے کی ہمت نہ پڑی۔

ادھر حزب وحدت اور اتحاد اسلامی کی خون آشام لڑائیاں چلتی رہیں۔ احمد شاہ مسعود بھی عبد رب الرسول سیاف کی اتحاد اسلامی کے ساتھ ہو گئے اور مشرئی کابل میں وہ خون خرابہ ہوا جسے ”افشار قتل عام“ کا نام دیا جاتا ہے۔ مسعود اس اتحاد میں کیوں شامل ہوئے اس کے بارے میں صرف یہی کہا جاسکتا ہے کہ شاید انہوں نے یہ سوچا کہ مجاہدین کی حکومت صرف تاجک اور ازبک لوگوں کی حمایت سے قائم ہوئی ہے لیکن اس کو مستحکم بنانے کیلئے اس میں پشتونوں کو شامل کرنا ضروری ہے۔ سیاف نہ صرف پشتون ہیں بلکہ ان کو سعودی عرب کی بھی حمایت حاصل ہے اس طرح سعودی مالی امداد میں بھی حصہ دار ہوا جاسکتا ہے۔ لیکن اس اقدام سے انہیں ہزارہ قبائل کی مخالفت کا سامنا کرنا پڑا اور آج بھی پشتون طالبان کی مخالفت ازبک ہزارہ اور تاجک ہی کر رہے ہیں۔

احمد شاہ مسعود کی گلبندین حکمت یار سے بھی نہ بنی کیونکہ ان کے خیال میں حکمت یار پاکستان کے عسکری مفادات کے آلہ کار بنے ہوئے تھے اور وہ افغانستان کو پاکستان کی نوآبادی بنانے کیلئے راستہ ہموار کر رہے تھے۔ حکمت یار اقتدار کی راہ میں مسعود کو بڑی رکاوٹ سمجھتے تھے۔

دسمبر ۱۹۹۲ء میں ربانی دوبارہ صدر بن گئے اور دو ستم وغیرہ کو قطعاً نظر انداز کیا گیا۔ چنانچہ دو ستم اور حکمت یار نے ربانی کو ہٹانے کیلئے یکم جنوری ۱۹۹۳ء کو کابل پر راکٹوں کی بارش کر دی اور یہ سلسلہ سارا سال چلتا رہا۔ کابل کے تقریباً

تین لاکھ شہری پناہ لینے کیلئے یا تو پاکستان چلے گئے یا افغانستان کے مختلف شہروں کی طرف ہجرت کر گئے لیکن حکمت یار کو اس سے بھی کوئی فائدہ نہیں پہنچا۔

مزار شریف پر دو ستم کا قبضہ تھا اور ان کی حمایت سے اسماعیلی پل خٹری اور درہ سالانگ کے شمال کی شاہراہ کو کنٹرول کر رہے تھے۔ انہیں مجاہدین کی بھی حمایت حاصل تھی اس لیے امن و امان کو کوئی خطرہ نہ تھا۔ شمال مشرق کا تاجک علاقہ جمعیت کے پاس تھا، مشرقی صوبے مہاجرین کے ایک اتحاد کے زیر نگیں تھے جن کی قیادت حاجی قدیر کے پاس تھی، لیکن یہاں امن و سکون کی کمی تھی۔ فروری ۱۹۹۳ء میں اقوام متحدہ کے چار کارکن قتل کر دیئے گئے جس کی کوئی وجہ بھی منظر عام پر نہ آئی۔ جنوب میں خوست پر بھی مجاہدین کی اجتماعی قیادت حکمرانی کر رہی تھی۔ غزنی پر قاری بابر کی حکومت تھی۔ گردیز میں بد نظمی پر قابو پانے کی تمام کوششیں ناکام ہو گئیں تاہم قندہار کے مقابلے میں وہاں امن تھا۔ قندہار میں ذواتار کی کیفیت تھی کیونکہ وہاں مجاہدین کے مختلف گروہوں نے آپس کی لڑائیوں میں شہر کو بلے کا ڈھیر بنا دیا تھا۔“

طالبان کے خلاف مغربی پروپیگنڈہ کی سرغنہ کر سٹیٹا لیمب اپنی کتاب ”طالبان کا افغانستان“ میں طالبان سے پہلے افغانستان کی صورتحال کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھتی ہیں:

”صدر برہان الدین ربانی کی تاجک گورنمنٹ کا صرف کابل اور شمال مشرق پر کنٹرول تھا۔ اسے کمانڈر احمد شاہ مسعود عرف ”شیر پنجشیر“ کی سرگرم حمایت حاصل تھی۔ لیکن وہ جنوب پر قابض بنیاد پرست لیڈر گلبدین حکمت یار کی فورسز کے محاصرے میں تھا۔..... ہرات اور تین انتہائی مغربی صوبے اسماعیل خان کے زیر اقتدار تھے۔ یہ ایک خود پسند کمانڈر تھا جس کے آدمی کالی اور سفید چیکدار اسکارف باندھتے اور اس کو ”عالی جناب“ کہہ کر مخاطب کرتے..... مزار شریف اور چھ شمالی صوبوں پر ”واڈکا“ (روسی شراب) کے رسیا ازبک جنگجو جنرل رشید دوستم کی حکمرانی تھی جو زمانہ جہاد میں روسی تنخواہ دار تھا۔ دوستم کی ۲۰ ہزار افراد پر مشتمل جاز جانی پلیشیا، اتنی خوفناک تھی کہ انہیں قلم یا ”قالین چوز“

کہا جاتا تھا جو افغانیوں کی بہت بڑی توہین تھی۔ کمیونسٹوں کو شکست ہو جانے کے بعد وہ کبھی ایک گروہ کے ساتھ جا ملتا اور کبھی دوسرے کے ساتھ گٹھ جوڑ کر لیتا، جس میں دھوکہ دہی اور فریب کاری کا عنصر نمایاں طور پر شامل ہوتا تھا اور جب طالبان کا ظہور ہوا تو وہ ربانی کے ساتھ وفاداریاں ختم کر کے حکمت یار کے ساتھ جا ملا۔ وسطی افغانستان کا پہاڑی صوبہ بامیان ہزارہ قبائل کے زیر قبضہ تھا۔ پاکستان کے ساتھ ملنے والے تین مشرقی صوبے جلال آباد میں قائم شورئی کے کمانڈروں کے کنٹرول میں تھے، ان کمانڈروں کی آپس میں خوب دشمنی رہتی تھی، اس پر قابو پانے کیلئے انہوں نے شورئی کا سہارا لیا ہوا تھا۔

ہندوکش کے جنوب میں آباد پشتون بدترین صورتحال سے دوچار تھے، یہ افغانستان کا سب سے بڑا نسلی گروہ ہے، قندھار کے ارد گرد کے حالات خاص طور پر خرابی کا شکار تھے۔ یہاں کا گورنر گل آغا تھا..... اس کے پاس اپنے دفتر کے ارد گرد اور سڑک کے پار کے تھوڑے سے علاقے کے سوا کسی چیز کا کنٹرول نہیں تھا۔ چھوٹے چھوٹے جنگجو گروہوں اور کمانڈروں نے لوٹ مار کیلئے علاقے تقسیم کر رکھے تھے۔ ان کے جگہ جگہ چیک پوائنٹس تھے، جو چیز بھی ان کے ہتھے چڑھتی، اسے اسکرپ بنا کر فروخت کر دیتے تھے۔

ہر کوئی سڑکوں کے آر پار لگی ہوئی زنجیروں کے بارے میں گفتگو کر رہا تھا۔ پانچ زنجیریں تو قندھار کی مین اسٹریٹ پر لگی ہوئی تھیں، چین بولڈک اور قندھار تک ۶۵ میل کا فاصلہ ہے جو دو گھنٹے میں طے ہوتا ہے۔ اس پر پچاس زنجیریں لگائی گئی ہیں، ہر زنجیر کا انتظام کسی خاص جنگجو سردار کے پاس ہے۔ جس کے کارندے گزرنے والوں کو روک کر ان سے رقم بٹورتے ہیں۔ تاجر اور ٹرکوں والے جتنا سامان لاتے انہیں اس کی مالیت سے کہیں زیادہ رقم زنجیر والوں کو بطور رشوت دینا پڑتی ہے۔ نور زئی قبیلے کے سردار ولی جان نے جو ایک پٹرول اسٹیشن اور قندھار کے ایک بڑے بازار کا مالک ہے، اپنے کونینے کے سنگ مرمر سے بنے ہوئے مکان میں مجھ سے ملاقات کے دوران بتایا کہ اس نے ملاعمر کو

بڑی خوشی سے رقم دے دی تھی۔ اس نے بتایا ”سڑکوں پر ڈاکو دندناتے پھرتے ہیں، ہمیں ان سے اپنا سامان بچانے کیلئے بہت رقم خرچ کرنا پڑ جاتی ہے۔ دوسری طرف ہماری مارکیٹیں بھی چوروں سے بھری ہوئی ہیں۔“

اس سے بھی بڑی مصیبت جبری عصمت دری کے واقعات تھے۔ کوئی بھی اپنے گھر میں سکون کی نیند نہیں سو سکتا تھا۔ نوجوان لڑکیوں اور لڑکوں کو جبراً اٹھایا جاتا تھا اور ان سے انسانیت سوز سلوک کیا جاتا تھا۔ بہت سے لوگوں نے خوفزدہ ہو کر بچوں کو اسکول بھیجنا بند کر دیا تھا۔“

لیک اور مغرب نواز، طالبان مخالف صحافی احمد رشید اپنی کتاب ”طالبان“ میں طالبان سے قبل افغان بحران کی منظر کشی کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

”۱۹۹۳ء میں طالبان کے منظر پر آنے سے پہلے افغانستان کے حصے بخرے ہونے کی صورت پیدا ہو چکی تھی۔ ایک طرف قبائلی سردار تھے جو اتحاد بناتے، بگاڑتے، وفاداری بدلتے اور باہم لڑتے جھگڑتے رہتے تھے۔ کابل کے نواح اور شمال مشرقی علاقے پر صدر برہان الدین ربانی کی تاجک حکومت کی عمل داری تھی۔ مغرب کی طرف کے تین صوبوں پر (ہرات جن کے وسط میں تھا) اسماعیل خان کا کنٹرول تھا۔ مشرق میں پاکستان کی سرحد کے پاس کے تین پشتون صوبے مجاہدین کی شورئی کے پاس تھے۔ شورئی کا مرکز جلال آباد تھا۔ کابل کے شمال اور مشرق کا ایک چھوٹا سا علاقہ گلبدین حکمت یار کے زیر اثر تھا۔ شمال میں ازبک جنرل رشید دوستم چھ صوبوں پر حاوی تھا۔ جنوری ۱۹۹۴ء میں اس نے صدر برہان الدین ربانی کی حکومت سے اتحاد ختم کر دیا اور کابل پر حملہ کرنے کی غرض سے گلبدین حکمت یار سے اتحاد قائم کر لیا۔ وسطی افغانستان کے صوبہ بامیان پر ہزارہ قبیلے کا غلبہ تھا۔ جنوبی افغانستان اور قندھار درجنوں سرداروں میں بٹا ہوا تھا۔ جنہوں نے مقامی آبادی میں لوٹ مار شروع کر رکھی تھی۔ پشتونوں کا ڈھانچہ بکھرا ہوا اور معیشت انتشار کا شکار تھی، مرکزی قیادت پر کوئی اتفاق

نہیں تھا۔ پاکستان جس طرح گلبدین حکمت یار کی مدد کرتا آیا تھا، اس طرح دزانتوں کی فوجی امداد کرنے پر تیار نہیں تھا۔ جنوب کی جانب کے پشتونوں میں باہم لڑائی چھڑی ہوئی تھی۔

قدحار حمارب گروہوں میں بنا ہوا تھا۔ اسی لیے بین الاقوامی امدادی ادارے کسی قسم کی امداد فراہم کرنے سے جھکتے تھے۔ قدحاریوں کے لیڈروں نے ہر چیز پاکستانی تاجروں کے ہاتھ فروخت کر دی تھی۔ حتیٰ کہ ٹیلی فون کے تار کھیموں سے اتار کر بیچ ڈالے تھے۔ درخت کاٹ دیئے، فیکٹریاں، مشینری اور روڈ رولر تک بیچ کھائے۔ جنگی سرداروں نے لوگوں کو ان کے گھروں اور کھیتوں سے نکال دیا اور یہ گھر اور کھیت اپنے حامیوں میں تقسیم کر دیئے۔ جنگی سردار من مانی کرتے، اپنی جنسی اور نفسیاتی تسکین کیلئے نوجوان لڑکیاں اور لڑکے اغواء کر لیتے، بازاروں میں سوداگروں کو لوٹ لیتے اور گلی کوچوں میں لڑنے بھگڑنے اور خون بہانے میں لگ جاتے۔ پاکستان سے مہاجرین کی آمد شروع ہوئی تو نئے مہاجر قدحار سے کوئٹہ جانے لگے۔ یہ صورتحال کوئٹہ اور قدحار کے بااثر ٹرانسپورٹروں کیلئے ناقابل برداشت تھی۔ وہ اس کے باعث کاروبار میں خسارے سے دوچار تھے۔ میں نے ۱۹۹۳ء میں کوئٹہ سے قدحار کی طرف ۱۳۰ میل کا سفر کیا تو کم وبیش ۲۰ مختلف گروپوں نے ہمیں روکا۔ انہوں نے زنجیریں ڈال کر راستہ بند کر رکھا تھا۔ وہ گزرنے کیلئے ٹول ٹیکس مانگتے تھے۔ ٹرانسپورٹ مافیا کے لئے راستے کی یہ بندشیں بے حد ناگوار تھیں۔ وہ کوئٹہ، ایران اور ترکمانستان کے درمیان آزادانہ نقل و حمل اور بلا روک ٹوک اسمگلنگ کیلئے چاہتے تھے کہ راستے کھلے رہیں۔ لیکن اب انہیں دشواری پیش آرہی تھی۔“

طالبان سے پہلے ہرات کے حکمران اسماعیل خان کا تذکرہ کرتے ہوئے احمد رشید رقم کرتے ہیں:

”اس نے آبادی سے ہتھیار رکھوا لیے اور جبری بھرتی کے ذریعے فوج

بنائی، جو مقبول نہ تھی۔ بدعنوانی، پست حوصلے اور وسائل کی کمی نے اسے بے

معنی بنا دیا تھا۔ اسماعیل خان کو طالبان کا مقابلہ کرنے کیلئے لوگوں کو پھر سے مسلح کرنا پڑا۔ سرکاری اہل کاروں میں کریشن انہما کو پہنچی ہوئی تھی۔ عام لوگوں سے ان کی بدسلوکی کی شکایات عام تھیں، ہرات سے گزرنے والے ہر ٹرک سے کسٹمر والے ۱۰ ہزار پاکستانی روپے لیتے، اس طرح ٹرانسپورٹ مافیا انتظامیہ کے خلاف ہو گیا۔“

مزار شریف کا ایک منظر احمد رشید کے الفاظ میں ملاحظہ کیجئے:

”مزار شریف کے بازار میں روسی شراب اور فرانسسی پرفیومز عام میسر

تھیں جو شراب اور عورتوں کے رسیا ازبک سپاہیوں کے تصرف میں آتیں۔“

افغانستان کے مشہور مصنف اور مورخ عبدالحمید مبارز اپنی کتاب ”حقائق و تحلیل و دقائق سیاسی

افغانستان“ میں طالبان کی آمد کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

”جہادی کمانڈروں کی زیادتیاں، جہادی منشور سے انحراف اور

افغان جہاد کے متوقع نتائج کے کھودینے سے طالبان کو شہہ ملی۔ اسی طرح

ان کمانڈروں کا اخلاقی حدود سے تجاوز، عوام الناس کی خاموشی، پورے

ملک اور صوبوں کی کمانڈروں کے قبضہ و تسلط کے اعتبار سے تقسیم، سرعام ہم

جنس پرستی اور قتل و غارتگری طالبان کے منظر عام پر آنے کے بڑے عوامل

میں سے تھے۔“

اقوام متحدہ کی ۱۹۹۵-۹۶ء کی ایک رپورٹ کے مطابق صرف کابل شہر میں حکمت یار، مسعود،

دوہم، سیاف اور خلیلی و مزار کی کے مابین ہونے والی لڑائیوں میں روزانہ ۷۳ ماہانہ ۱۱۳۲ اور سالانہ ۱۳۵۸۴

افراد ہلاک ہوتے رہے۔ اس طرح آپس میں ۵۳ ماہ کی لڑائیوں میں کابل شہر اور اطراف کے ۶۰ ہزار

بے گناہ افراد ہلاک ہوئے۔

روزنامہ دی نیوز کی ایک رپورٹ کے مطابق جلال آباد سے کابل تک ۸۰ غیر قانونی پھانک


تھے جن میں زیادہ تر حزب اسلامی حکمت یار کے تھے۔ اسی طرح افغانستان میں گھومنے پھرنے


والے عام لوگ اور ٹرک، ڈاٹسن، فلائنگ کوچ کے ڈرائیور اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ تگاب

سے جلال آباد تک بائیس پھانک تھے اور کنڑ سے جلال آباد تک بائیس پھانک تھے۔ طارق میمر

نمائندہ این این آئی کے مطابق اسپین بولدک سے قدحار شہر تک تقریباً ۶۰ پھاٹک تھے۔ جن میں سب سے خطرناک تختہ پل کا پھاٹک تھا، جس کا سرغنہ عصمت خان نامی کمانڈر تھا۔ یہ شخص حسین عورتوں کا رسیا اور عصمتوں کا سوداگر تھا اور اس نے تقریباً چالیس عورتوں سے شادیاں رچائی تھیں۔ عورتوں کو مسافر گاڑیوں سے اتارنا، اغوا کرنا اور عصمت درنی کر کے نکاح کرنا اس کا معمول بن چکا تھا۔ پھاٹکوں اور شادیوں کی یہ تعداد زبان زد عام تھی۔

ان سنگین حالات میں افغانستان کی افق پر تحریک طالبان کا ظہور ایک غیر متوقع نعمت ثابت ہوا۔





طالبان کون تھے؟

طالبان کون تھے؟ کہاں سے آئے؟ اور ان کی تحریک کے مقاصد کیا تھے؟ ان سوالات کے جوابات کیلئے ہمیں آج سے کچھ عرصہ قبل کے ماضی کی جانب دیکھنا ہوگا۔

یہ بیسویں صدی کی آخری دہائی کی بات ہے جب افغانستان پر روسی تسلط کے خاتمے کے بعد یہ ملک ایک مرتبہ پھر خانہ جنگی کا شکار ہو کر تباہی و بربادی کے دہانے پر پہنچ گیا۔ ۱۹۹۱ء میں افغان مجاہدین کے دارالحکومت کابل میں فاتحانہ داخلے کے بعد اگرچہ اس طویل جنگ کا اختتام ہو گیا جسے دنیا جہاد افغانستان کے نام سے یاد کرتی ہے، مگر بد قسمتی سے اس کے بعد اس جنگ کا آغاز ہوا جس میں دشمن کا تو کچھ نقصان نہ تھا البتہ افغان قوم اس جنگ کا شکار ہو کر اپنی باقی ماندہ ہنسی خوشی بھی کھو بیٹھی۔ کابل میں داخلے کے بعد اگرچہ چاہئے تو یہ تھا جہاد افغانستان کے اہم راہنما ل کر بیٹھے اور باہمی اتفاق رائے سے ایک ایسی حکومت تشکیل دیتے جو نہ صرف یہ کہ تباہ شدہ افغانستان کی تعمیر نو کرتی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ حکومت جہاد افغانستان کے ثمرات کو بھی سامنے لانے کی کوشش کرتی۔ مگر افسوس کہ ایسا نہ ہو سکا کیونکہ انا پرستی، قوم پرستی، حب جاہ اور حب مال کے ساتھ غیروں کی ریشہ دوانیوں نے جہادی راہنماؤں کو اقتدار کی رسہ کشی میں ایسا الجھایا کہ وہ خود ہی آپس میں دست بگر بیان ہو گئے اور پھر انہوں نے اس راہ پر چلتے ہوئے ایسی ایسی شرمناک اور افسوسناک مثالیں قائم کیں جنہیں دیکھ کر انسانیت بھی کانپ اٹھی۔

ناتواقت اندیش افغان راہنماؤں نے کابل کا اقتدار حاصل کرنے کیلئے باہمی طور پر جس کشت و خون کا آغاز کیا اس کے شعلوں نے بہت جلد ہی پورے ملک کو اپنی لپیٹ میں لے لیا اور پھر دیکھتے ہی

دیکھتے اس سرزمین کے گلی کو پے ویران ہونے لگے، قبرستان بھرنے لگے، بستیاں اجڑ گئیں، آبادیاں برباد ہو گئیں، پورے ملک میں بد امنی و بے چینی پھیل گئی، ہر طرف بدانتظامی نے بسیرا کر لیا، جگہ جگہ پر جنگی کمانڈروں کی شخصی حکومتیں قائم ہو گئیں، عوامی راستوں پر پھاٹک لگا کر غریب عوام سے غنڈہ ٹیکس وصول کیا جانے لگا، عورتوں کی عصمتیں پامال ہوئیں، نوجوانوں کو بلا جواز قتل کیا گیا، اور نہ جانے کتنے ہی ایسے واقعات رونما ہوئے جو افغانستان کی تاریخ پر سیاہ دھبے بن کر لگے۔ اور پھر یہ دھبے اس قدر پھیلتے چلے گئے کہ یوں لگا جیسے اب اس ملک کی ساری تاریخ ہی ظلمتوں سے عبارت ہو جائے گی اور وہ سحر جس کے انتظار میں سولہ لاکھ افغان مسلمانوں نے اپنا لہو پیش کیا تھا اب کبھی نہیں آئے گی۔

مگر کب تک..... بلا آخر رحمت حق کو جوش آیا، شہداء کا مقدس ابو مہک اٹھا، کوساروں کی پیشانی چمکنے لگی اور ویران بستیوں کی قسمت جاگ اٹھی..... ۱۹۹۳ء کے وسط میں جنوبی شہر قندھار کے قریب مٹی سے بنے کچے مکانوں والی ایک بستی میں ایک عظیم الشان تحریک نے جنم لیا جسے دنیا ”تحریک اسلامی طالبان“ کے نام سے جانتی ہے۔

”طالبان“ پشتو زبان میں طلبہ کو کہتے ہیں اور یہ گروہ قدسیاں بھی چونکہ اکثریت کے اعتبار سے طلبہ پر ہی مشتمل تھا لہذا انہیں ”طالبان“ کے نام سے پکارا جانے لگا۔

تحریک طالبان کا علاقائی طور پر پہلی مرتبہ ظہور جون ۱۹۹۳ء میں اس وقت ہوا جب قندھار شہر کے قریب واقع ”سنگ حصار“ کے علاقے میں ”ملا محمد عمر“ نامی ایک طالب علم کی دعوت پر لیبیک کہتے ہوئے تقریباً ۵۳ طالب علم ایک جگہ جمع ہو گئے اور انہوں نے اپنے ملک میں جاری بد امنی اور بدانتظامی کو ختم کر کے امن و امان قائم کرنے کے عزم کا اظہار کیا۔

یہ سب کے سب طلباء قندھار ہی کے مختلف مدارس میں تعلیم حاصل کر رہے تھے مگر جب انہیں ملا محمد عمر نے اس جانب متوجہ کیا کہ افغانستان کی دن بدن بگڑتی ہوئی اس صورتحال میں تعلیم حاصل کرنے سے زیادہ ضروری ہے کہ جو کچھ پڑھ لیا گیا ہے اس پر عمل کیا جائے تو وہ ان کا ساتھ دینے کیلئے تیار ہو گئے اور پھر انہوں نے اپنی تحریک کو منظم کرنے کیلئے ملا محمد عمر ہی کو اپنا امیر مقرر کر لیا۔

تحریک طالبان چونکہ ابتدائی طور پر قندھار کے علاقے سے شروع ہوئی جہاں کی تقریباً سو فیصد آبادی پشتونوں پر مشتمل ہے لہذا اس میں شامل طلبہ کا پشتون ہونا ایک فطرتی بات تھی مگر پھر بہت جلد ہی طالبان نے یہ ثابت کر دیا کہ ان کی تحریک کی بنیاد پشتونوں پر نہیں رکھی گئی کیونکہ کچھ عرصہ بعد ہی اس

تحریک میں نمایاں طور پر ایسے بہت سے افراد شامل ہوئے جو افغانستان میں بسنے والی دوسری قوموں سے تعلق رکھتے تھے۔

تحریک طالبان کا فکری طور پر تعلق اہلسنت والجماعت سے تھا اور چونکہ ان کی ایک بڑی اکثریت نے پاکستان کے ایسے مختلف دینی مدارس سے تعلیم حاصل کی تھی جو مسلک دیوبند سے تعلق رکھتے تھے لہذا طالبان کی علماء دیوبند اور ان کے نظریات سے ہم آہنگی اور دلچسپی ایک قدرتی بات تھی۔ یہی وہ رشتہ تھا جس نے ملکی سرحدوں سے صرف نظر کر کے دونوں ملکوں کے رہنے والے مسلمانوں کو انتہائی قریب کر دیا اور یوں محسوس ہونے لگا جیسے پاکستان کے دینی مدارس میں پڑھنے والے طلباء سے لیکر افغانستان کے کوساڑوں میں مورچہ زن سب طلبہ ایک ہی تسبیح کے موتی ہیں۔

محبت و نظریے کے اس رشتے میں اگرچہ کئی بار دونوں ہی طرف کے لوگوں کو کڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، چنانچہ طالبان کا نام لیکر پاکستان کے دینی مدارس پر ”دہشتگردوں“ کی کہیپ تیار کرنے کا الزام لگایا گیا جبکہ پاکستان میں رونما ہونے والے مختلف فسادات کو فرقہ واریت کا نام دیکر طالبان پر مذہبی انتہا پسندی کی حمایت کا الزام عائد کیا گیا..... مگر اس سب کچھ کے باوجود مزار شریف سے لیکر کراچی تک اور پشاور سے لیکر قندھار تک طالبان ایک ہی رہے اور آج بھی ایک ہی ہیں۔ جس طرح پاکستان کے مدارس میں پڑھنے والے طلبہ نے اپنے افغان طلبہ بھائیوں کا ساتھ دیا بالکل ایسے ہی افغان طلبہ نے بھی ان کے ساتھ وفا کی اور ہر اس مرحلے پر ان کے کام آئے جب انہیں ضرورت پڑی۔

یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ ”دیوبندیت“ ہی کے اس رشتے نے طالبان کو خواہ مخواہ پاکستان کے ان کم نظر لوگوں کی نگاہوں میں مجرم بنا دیا جو مسلک دیوبند سے اختلاف رائے رکھتے تھے اور پھر اس جرم کی پاداش میں طالبان کو ان لوگوں کی جانب سے افسوسناک حد تک ایسی مخالفت کا سامنا کرنا پڑا جو شاید غیر مسلموں نے بھی نہ کی تھی۔ تاہم مخالفت کا یہ سلسلہ زیادہ نہ چل سکا کیونکہ طالبان نے اپنی بے لچک اور مضبوط پالیسیوں سے ثابت کر دیا کہ وہ حق کی آواز لیکر اٹھے ہیں، حق بات کہتے ہیں، حق بات سنتے ہیں اور حق پر ہی مرثانان کا شیوہ ہے۔

تحریک طالبان کے ظہور اور دیکھتے ہی دیکھتے پورے افغانستان میں ان کے پھیل جانے کے حقیقی اسباب کو ہم کچھ اس طرح تعبیر کر سکتے ہیں:

تحریک طالبان کی کامیابی کا پہلا سبب اس تحریک سے پہلے افغانستان کے طول و عرض میں پھیلی

ہوئی خانہ جنگی تھی جو سابق جہادی راہنماؤں نے اپنے اپنے مفادات کی خاطر چھوڑ رکھی تھی اور اس میں مرنے والے بے گناہ افغان عوام تھے۔ جہاد افغانستان کے بعد شروع ہونے والی اس خانہ جنگی میں انتہائی محتاط اندازے کے مطابق کم از کم چالیس ہزار افغانوں کو اپنی جانوں سے ہاتھ دھونے پڑے جبکہ زخمی ہونے والوں کی تعداد اس کے علاوہ ہے۔ خانہ جنگی کے بھیاں تک نتائج نے افغان عوام کو طالبان کا بہت جلد ہی گرویدہ بنا دیا جنہوں نے قدرت حاصل کرتے ہی جنگی کمانڈروں کو غیر مسلح کر کے انہیں خانہ جنگی سے دستبردار ہونے پر مجبور کر دیا۔

تحریک طالبان کی کامیابی کا دوسرا اہم سبب افغانستان میں ایک منظم حکومت کا قیام تھا۔ طالبان سے پہلے چونکہ ملک میں ایک حکومت قائم نہیں تھی اور طوائف الملوکی کا دور دورہ تھا لہذا ایک مشترکہ نظام حکومت بھی قائم نہ تھا۔ طالبان نے اپنے زیر قبضہ علاقوں میں منظم اور مضبوط حکومت قائم کر کے اس افغان قوم کے دلوں میں اپنے لیے مقام پیدا کر لیا جو ایک عرصہ سے اپنی دھرتی پر بد نظمی اور لوٹ مار دیکھتے دیکھتے دلبرداشتہ ہو چکی تھی۔

طالبان کی کامیابی کا تیسرا سبب انصاف کی فراہمی تھا، کیونکہ طالبان نے ایسے وقت میں جب افغانستان میں طاقت والا ظالم تھا اور کمزور مظلوم، آگے بڑھ کر ظالم کا ہاتھ روکا اور کمزور کو انصاف دلایا۔ ایک عرصہ بعد افغانستان کی عدالتوں نے کام شروع کیا اور حیرت انگیز طور پر انتہائی کم مدت میں ایک ایسے ملک میں ظلم و زیادتی کا سدباب کیا جہاں طرح طرح کے جرائم کا سلسلہ خوفناک حد تک پھیل گیا تھا۔ طالبان نے اقتدار ہاتھ میں لیتے ہی عدالتوں کو فعال کیا اور ان میں اسلامی نظام عدالت کو رائج کیا۔ مسلمانان افغانستان نے شریعت کے مطابق بننے والی عدالتوں کو تہہ دل سے بخوشی تسلیم کیا اور ان کے فیصلوں کو قبول کرتے ہوئے طالبان کے عدل و انصاف کا کھلے دل سے اعتراف کیا۔

طالبان کی کامیابی کی چوتھی وجہ ان کا یہ کارنامہ تھا کہ انہوں نے افغانستان میں رونما ہونے والے اخلاقی فساد کا بھرپور طریقے سے سدباب کیا۔ چنانچہ خواتین سے زیادتی، ہم جنس پرستی اور بعض دیگر اخلاقی جرائم ایسے تھے جنہیں نہ صرف یہ کہ مختلف جنگی کمانڈروں کی بھرپور حمایت حاصل تھی بلکہ وہ خود بھی ان میں ملوث تھے۔ طالبان نے آتے ہی ان جرائم کے خاتمے کا آغاز کیا تو غیر متندا افغان قوم نے انہیں برسرِ چشم قبول کیا۔

ملک بھر میں امن و امان کا قیام بھی تحریک طالبان کے تیزی سے پھیل جانے کا ایک اہم سبب تھا۔ کیونکہ خانہ جنگی اور بدانتظامی کی وجہ سے ہر طرف بد امنی و بے چینی پھیلی ہوئی تھی، کہیں بھی کسی شخص کو کسی

بھی قدم پر تحفظ کا احساس نہ تھا، لوٹ مار کرنے والوں نے اپنی ہوس اور شر کے آگے دنیا کے ہر قانون کو مات دے رکھی تھی، حتیٰ کہ بین الاقوامی امدادی اداروں کو بھی افغانستان میں تحفظ فراہم نہ تھا، اس صورتحال میں طالبان کی جانب سے قیام امن کے اقدامات نے افغان قوم کے دل موہ لیے تھے اور امن بھی ایسا کہ کئی طالبان راہنماؤں نے کھلے عام دعویٰ کیا کہ زیورات سے لدی ہوئی ایک عورت کا بل سے لیکر قذحارت تک چلی جائے۔ راہ بھر میں کوئی اس پر نگاہ فلط بھی نہ ڈال سکے گا۔

تحریک طالبان کی کامیابی کے یہ وہ اسباب تھے جن کی وجہ سے طالبان کو بہت جلد ہی مقبولیت ملی اور ملک کے ۹۵ فیصد علاقے پر انہوں نے اپنی حکومت مستحکم کر لی۔ مگر اس کے ساتھ ساتھ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ طالبان کو منظم کرنے اور اس قدر جلد پورے افغانستان پر قابض ہونے میں طالبان کو بیرونی امداد حاصل تھی، اس سلسلہ میں خاص طور پر پاکستان اور امریکہ کا نام لیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ مذکورہ بالا دونوں ملکوں نے طالبان کو ایک عرصہ تک مدد اور تعاون فراہم کیا جس کی وجہ سے طالبان انتہائی سرعت کے ساتھ افغانستان پر قابض ہو گئے۔ کیا یہ بات واقعی سچ ہے؟..... اور کیا طالبان کے ظہور اور ان کے نشوونما میں واقعی بیرونی دنیا کا کردار رہا ہے؟.....

☆.....☆.....

ہمارے ہاں یہ ایک عام رواج بن گیا ہے کہ جس تحریک کو بدنام کرنا ہو اس پر پھبتی کس دی جائے کہ جی اس کے پیچھے فلاں استعماری طاقت کارفرما ہے اور اسے فلاں ملک نے اپنے مفادات کیلئے بنایا ہے اور اس کی پشت پناہی کی ہے۔

کچھ ایسا ہی معاملہ طالبان کے ساتھ بھی پیش آیا۔ طالبان کے مخالفین کی ایک بڑی تعداد بلا جھجک یہ بات کہہ دیتی ہے کہ تحریک طالبان کو بنانے اور بڑھانے میں پاکستان کی حکومت اور اس کی خفیہ ایجنسی آئی ایس آئی کا بھرپور کردار رہا ہے۔ اور پھر چونکہ پاکستان کی امریکہ نوازی زبان زد عام ہے، اس لیے اس صغریٰ کے ساتھ یہ کبریٰ ملایا جاتا ہے کہ درحقیقت طالبان کو منظر عام پر لانے میں اور ان کو آگے بڑھانے میں امریکی سازش کارفرما رہی ہے۔ امریکہ چونکہ افغان جہاد کے تجربے کے بعد خود کھل کر میدان میں نہیں آ سکتا تھا، اس لیے وہ پاکستان کو استعمال کر کے طالبان کو سامنے لایا۔ مقام افسوس یہ ہے کہ امریکہ کی طرف طالبان کی پشت پناہی کی یہ بے سروپا باتیں جس قدر بعض مغربی حلقوں کی طرف سے سامنے آئیں اس سے کہیں زیادہ ایسے الزامات ان لوگوں کی طرف سے عائد کیے گئے جو اپنے آپ

کو استعمار دشمن اور مغرب مخالف گردانتے ہیں۔

ہم ایسے حلقوں کی نام لیکر نشانہ بنی نہیں کریں گے، لیکن یقین ہے کہ قارئین ان چہروں سے بخوبی واقف ہوں گے، جو برہسہا برس سے پاکستان سمیت کئی ملکوں میں ایک صحیح، مخلص اور مستحکم اسلامی حکومت قائم کرنے کی کادشوں میں مگن نظر آتے ہیں، ان لوگوں کے دعوے اور باتیں، نعرے اور تقریریں ہمیشہ اسی موضوع کو محور بنائے رکھتی ہیں کہ ان کی تمام تر جدوجہد کا مقصد محض احیائے دین اور نفاذ اسلام ہے، لیکن مقام حیرت ہے کہ جب ان سے بالکل قریب ایک خالص اسلامی حکومت قائم ہوئی اور اس نے گفتار کی بجائے کردار سے اسلام اور شریعت کو نافذ کیا تو ان لوگوں نے اول روز سے اس حکومت کی محض یہ کہہ کر مخالفت کی کہ ”طالبان کی پشت پناہی امریکہ کر رہا ہے اور انہیں پاکستان نے بنایا ہے“..... اس بے بنیاد الزام کے سہارے اس طبقے نے ہمیشہ طالبان کے مخالفین کی حمایت کی اور ان کے سرکردہ راہنماؤں نے افغان بحران کو سلجھانے کی بجائے وقتاً فوقتاً ان کے دشمنوں کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کر ان کی کمر تھپتھپانے، انہیں شہہ دینے اور صرف طالبان کی مخالفت کے یک نواکی فارمولے پر جمع کرنے کی انتھک کوشش اور جدوجہد کی..... اور یہ افسوسناک صورت حال اس وقت تک برقرار رہی جب تک امریکہ نے طالبان کے خلاف باقاعدہ جنگ کا آغاز نہیں کر دیا۔ طالبان کی اسلامی حکومت پر صلیبی یلغار کے بعد بھی اگر ان کی مخالفت جاری رہتی تو کچھ بعید نہ تھا، لیکن اس مرحلہ پر مشکل یہ آن پڑی کہ طالبان کے خلاف اعلان جنگ کرنے والا امریکہ تھا، جسے طالبان کا یہ مخالف طبقہ ہمیشہ سے اپنا ازلی دشمن قرار دیتا آیا تھا۔ چنانچہ اب ”حب علی“ سے بڑھ کر ”بغض معاویہ“ کا جذبہ کارفرما تھا جس نے اس طبقہ کو امریکی جارحیت کیخلاف باثر جلا کر احتجاج کرنے اور نعرے لگا کر نفرت کا اظہار کرنے پر مجبور کر دیا۔

ایسے طبقے کی طرف سے طالبان کیلئے غایب عنایت کے اس اظہار کے باوجود بھی اگر طالبان کی اسلامی حکومت کا خاتمہ ہو گیا تو یہ کہنا بے جا نہ ہوگا کہ ”اسلامی“ لیبیل لگا کر اسلام پسندی کا دعویٰ کرنے والے اس طبقے کا ایک صحیح اور مخلص اسلامی حکومت کے خاتمے میں نمایاں کردار تھا۔

ممکن ہے ہماری ان باتوں کو تنقید سے پڑھا جائے اور محسوس کیا جائے لیکن سچائی وہ حقیقت ہے جو سو پردوں میں چھپائے نہیں چھپتی چر جائے کہ اسے ”مصلحت“ کی خاطر ماضی کا افسانہ سمجھ کر بھلا دیا جائے اور مستقبل کیلئے اس سے کوئی سبق حاصل کرنے کی کوشش نہ کی جائے۔

اس تلخ نوائی کے بعد ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ طالبان کے پس پردہ آئی ایس آئی اور

امریکہ کی پشت کے اس الزام میں کتنی حقیقت ہے اور کتنا افسانہ؟

طالبان اور آئی ایس آئی کے باہمی تعلق کو ثابت کرنے اور یہ باور کرانے کیلئے کہ طالبان کی ابتدائی نشوونما میں پاکستان ملوث رہا ہے ایک واقعہ عام طور پر بیان کیا جاتا ہے کہ ۲۹ اکتوبر ۱۹۹۳ء کو کوئٹہ سے پاکستان کے سرکاری ادارے این ایل سی کے تیس ٹرکوں پر مشتمل ایک تجارتی قافلہ دو انیس لے کر اسپین بولدک کے راستے افغانستان میں داخل ہوا۔ قافلے کی نگرانی آئی ایس آئی کے کرنل امام کر رہے تھے اور ان کی منزل ترکمانستان کا دارالحکومت اشک آباد تھا، جہاں اس قافلے نے قندھار سے ہوتے ہوئے پہنچنا تھا۔ لیکن قندھار پہنچنے سے پہلے ہی تختہ پل کے مقام پر افغان جنگجوؤں نے اسے روک لیا اور پھر اس قافلے کی بازیابی کیلئے پاکستان نے طالبان کی فوجی مدد کر کے انہیں آگے بڑھایا اور ان کے ذریعے اس تجارتی قافلے کو رہائی دلائی۔ برطانوی مصنف پیٹر مارٹن اسی مرحلے کو طالبان کا تھلہ آغاز قرار دیتے ہیں، جبکہ طالبان مخالف مصنف احمد رشید اس واقعہ کو بیان کرتے ہوئے ساتھ یہ کہانی بھی سناتے ہیں کہ پاکستان کے اس تجارتی قافلے کی آمد سے چند دن قبل ۱۲ اکتوبر ۱۹۹۳ء کو قندھار اور پاکستان سے آنے والے دو سو طلبہ نے اچانک ہی اسپین بولدک کی فوجی چھاؤنی پر حملہ آور ہو کر موجود حکمت یار کے جنگجوؤں کو مار بھگایا اور خود اسپین بولدک پر قبضہ کر لیا۔ احمد رشید اپنی تحریر کے سیاق و سباق سے یہ تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ طالبان کا اولین ظہور پاکستان کے تجارتی قافلے کی راہگزر کو محفوظ بنانے کیلئے ہوا لہذا یہ کہنا صحیح ہے کہ طالبان کو منظر عام پر لانے میں پاکستانی حکومت اور اس کے خفیہ ادارے آئی ایس آئی کا ہاتھ ملوث تھا۔

پیٹر مارٹن اور احمد رشید کی یہ باتیں اس حد تک تو صحیح ہیں کہ بین الاقوامی میڈیا اور براہوری کے سامنے طالبان انہیں فوں آئے تھے جب پاکستان کا تجارتی قافلہ افغانستان آیا تھا اور اسے ریخمال بتایا گیا تھا، پھر طالبان نے اس قافلے کو رہائی دلائی تھی؟؟ لیکن یہاں اس قسم کے تاثر کی تردید کیلئے اتنی بات ہی کافی ہے کہ یہ تمام حالات ۱۹۹۳ء کے آخر میں پیش آئے تھے جب کہ تحریک طالبان کی ابتداء اس سے کئی ماہ قبل

ہو چکی تھی۔ تحریک کا یہ آغاز کب، کیوں اور کیسے ہوا؟ آئیے یہ کہانی احمد رشید ہی کی زبانی سنتے ہیں:

”ملا عمر نے طالبان کے چھوٹے سے گروہوں کو کس طرح قندھار کے جنگلی

سرداروں کے خلاف صف بستہ کیا، اس کے بارے میں اب طرح طرح کی کہانیاں مشہور ہیں۔ سب سے قابل اعتبار کہانی جو اکثر دہرائی جاتی ہے کہ ۱۹۹۳ء کے موسم بہار میں سنگسیر میں چند بڑی انہیں یہ بتانے آئے کہ ایک کمانڈر نے دو

نوعمر لڑکیوں کو اغواء کر لیا ہے، ان کے سر موٹہ دیئے ہیں اور ایک فوجی کیمپ میں لے جا کر ان سے کئی بار بد اخلاقی کی ہے۔ ملا عمر نے ۳۰ طلباء کو ساتھ لیا اور اسی حالت میں کہ ان کے پاس صرف سولہ رائفلیں تھیں، فوجی کیمپ پر حملہ کر دیا، لڑکیوں کو چھڑا لیا اور کمانڈر کو جس نے انہیں اغواء کیا تھا اور ان کے ساتھ زیادتی کی تھی، توپ کی نالی کے ساتھ لٹکا کر پھانسی دے دی۔ یہاں سے انہیں خاصی بڑی مقدار اور تعداد میں گولہ بارود اور ہتھیار ہاتھ لگے، بعد میں ملا عمر نے کہا کہ ہم اپنے نام نہاد مسلمانوں کے خلاف لڑ رہے ہیں جو غلط راہ پر چلنے لگے ہیں۔ ہم عورتوں اور غریبوں کے خلاف جرائم ہوتے دیکھ کر خاموش نہیں رہ سکتے۔ چند ماہ بعد قذافی میں دو کمانڈروں میں ایک لڑکے کے سلسلے میں باہم چپقلش اور تصادم کی نوبت آ گئی، دونوں اس سے بد اخلاقی کرنا چاہتے تھے۔ اس لڑائی میں کئی شہری ہلاک ہو گئے۔ ملا عمر کے گروپ نے لڑکے کو رہائی دلا دی، اس کے بعد طالبان کو عوام کی طرف سے درخواستیں موصول ہونے لگیں کہ وہ مقامی جھگڑوں سے ان کی جان چھڑائیں۔ ملا عمر ظالم کمانڈروں کے مقابلے میں مظلوم عوام کی حمایت اور مدد کرنے میں ویسا ہی کردار ادا کرنے لگے جس طرز کا کردار ”راہن ہڈ“ سے منسوب ہے۔ ملا عمر جس کسی کی مدد کرتے، اس سے کسی صلے اور ستائش کا تقاضہ نہ کرتے، صرف اتنا کہتے ہیں کہ وہ اسلامی نظام کے قیام میں ان کا ساتھ دیں۔ بے لوثی اور بے ریاپی کے سبب سے ان کی شہرت دور دور تک پھیلنے لگی۔ اسی اثناء میں ملا عمر کے معاون اہل کار فوجی کمانڈروں کے اطوار اور محتانات کا

جائزہ لیتے رہے، ان کے بعض رفقاء اسماعیل خان سے ملنے ہرات گئے۔“

مندرجہ بالا اقتباس یہ بات سمجھنے کیلئے کافی ہے کہ طالبان تحریک کا تھلہ آغاز پاکستانی تجارت کے راستے کی ہمواری اور پاکستانی قافلے کی رہائی سے نہیں ہوا، بلکہ ان واقعات سے کافی عرصہ قبل ہی تحریک شروع ہو چکی تھی۔

طالبان کو منظر عام پر لانے اور انہیں فوجی امداد فراہم کرنے میں پاکستانی حکومت یا آئی ایس آئی کا کوئی کردار نہیں رہا۔ یہ حقیقت احمد رشید کی کتاب ”طالبان“ کے مندرجہ ذیل اقتباس سے بھی

واضح طور پر سامنے آتی ہے:

”نصیر اللہ بابر نے طالبان کو آمادہ کرنے کیلئے ۳۳ ملین ڈالر کے خرچ سے شمالی افغانستان میں چمن سے ترکمانستان کی سرحد پر قدر گنڈی تک سڑک بنانے کی پیش کش کی۔ طالبان نے اسے قبول نہیں کیا۔ وہ وزیر داخلہ نصیر اللہ بابر، جمعیت علمائے اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمن اور آئی ایس آئی کی ذاتی ایپلوں کو بھی خاطر میں نہ لائے۔ طالبان ان سرداروں سے کسی قسم کا علاقہ رکھنے پر تیار نہ ہوئے، جنہیں وہ کیونٹ اور بے دین کہتے ہیں اور ان کی مذمت کرتے رہے تھے۔“

احمد رشید کا ایک اور اقتباس ملاحظہ فرمائیے:

”علاوہ بریں آئی ایس آئی کو طالبان کی صلاحیت کے بارے میں یہی شک تھا، وہ ابھی تک گلبدین حکمت یار کا ساتھ دے رہی تھی۔ اس کے پاس اتنے وسائل بھی نہیں تھے کہ وہ افغان طلباء کی تحریک کی مالی مدد کر سکتی۔“

جنرل رحمت اللہ صافی افغان بجران کے اہم کردار، احمد شاہ مسعود کے خاص مصاحب اور افغانستان کے چیف آف آرمی اسٹاف رہے ہیں۔ وہ اپنی کتاب ”افغانستان سنگہ تباہ شو؟“ (افغانستان کیسے تباہ ہوا؟) میں طالبان اور آئی ایس آئی کے باہمی تعلق کے الزام پر زبردست برہمی کا اظہار کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

”میں ان لوگوں سے کہتا ہوں کہ اپنی ناکامیوں اور بے حیائیوں کو چھپانے کیلئے کوئی ایسا بہانہ اور تہمت تلاش کریں جس کا الزام خود ان پر آئے۔ ان لوگوں کا یہ الزام تمام افغان قوم کی تحقیر و تذلیل ہے۔ روس کی ایک لاکھ فوج اپنے جرنیلوں سمیت، کابل کی کیونٹ حکومت کی فوج، ہندوستان اور مشرقی یورپی ممالک کے بھرپور تعاون کے باوجود افغان مجاہد قوم کے مقابلے میں شکست کھا گئی۔ ایک کرنل امام کیسے کر سکتا ہے کہ ایران کی مغربی سرحد سے جنوبی افغانستان اور پھر وہاں سے لوگر تک کو برقی رفتار سے فتح کرتا رہے اور افغان قوم کوئی مقابلہ نہ کر سکے۔“

جنرل صافی مزید لکھتے ہیں:

”اگر طالبان خداخواستہ پاکستان کے کٹھ پتلی ہیں تو پھر میں کہتا ہوں وہ تو

دو سالوں سے، ہم خود پانچ سال سے اور پروفیسر ربانی اپنے ساتھیوں سمیت

پچیس سالوں سے پاکستانی کٹھ پتلی ہیں۔“

تو پھر طالبان کون تھے؟ اور افغانستان کے ۹۵ فیصد علاقے پر انہیں کیونکر حیرت انگیز فتوحات

حاصل ہوئیں؟..... آئیے ان سوالوں کے جواب تلاش کرتے ہیں!

پیٹر مارٹن لکھتے ہیں:

”طالبان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ دینی مدارس کے طالب علم

ہیں۔ وہ ۱۹۹۳ء میں اچانک ایک چھوٹے سے گروپ کی شکل میں قندھار میں

نمودار ہوئے۔ انہیں مجاہدین کی باہمی لڑائیاں انتہائی ناپسند تھیں۔“

یہ برطانوی مصنف ایک اور جگہ رقمطراز ہیں:

”زیادہ تر شہری اور دیہی آبادی کے جوان اور بزرگ ان پر بھرپور اعتماد

کر رہے تھے اور ان کی صفوں میں جوق در جوق شامل ہو رہے تھے۔“

انجینئر گلبدین حکمت یار نامور افغان راہنما ہیں جو تحریک طالبان کی ابتداء سے لیکران کی حکومت

کے خاتمے تک ان کے مخالف رہے۔ انہوں نے افغان بحران پر ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام ”پٹی

توطنی، برہنڈی حیری“ ہے، اس کتاب میں حکمت یار نے طالبان پر خاص برہمی کا اظہار کیا ہے، تاہم

اس کے باوجود وہ لکھتے ہیں:

”افغانستان میں تباہی و بربادی اور ظلم و ستم انتہاء کو پہنچ چکا تھا، عوام تنگ

آ چکے تھے، طالبان قندھاری اور بعض جہادی تنظیموں کے لوگ تھے۔ عوام نے

طالبان کا ساتھ دیا اگر کوئی بھی ایسا کرتا تو عوام ان کا ساتھ دیتے۔“

پیٹر مارٹن تحریک طالبان کے مقاصد پر روشنی ڈالتے ہوئے لکھتے ہیں:

”طالبان کا تعلق اسلامی ثقافتی دھنک کے کٹھ پتلیوں سے ہے جو

افغانستان اور دوسرے ممالک میں اسلامی تحریکوں میں نظر آتا رہا ہے۔ طالبان

کی تحریک کے مقاصد پر ملاویس احمد نے جوں کے تو جمان ہیں اپنے ایک

انٹرویو میں روشنی ڈالی ہے۔ جو عربی رسالے الجملہ کی ۲۳/ اکتوبر ۱۹۹۶ء کی

اشاعت میں شائع ہوا ہے۔ ان سے سوال کیا گیا تھا کہ تحریک طالبان کیوں اور کیسے شروع ہوئی۔ انہوں نے جواب دیا: ”جب مجاہدین کی جماعتیں ۱۹۹۲ء میں اقتدار میں آئیں تو افغان عوام سمجھے کہ امن بحال ہو جائے گا لیکن انہوں نے آپس میں لڑنا شروع کر دیا۔ بعض علاقائی لیڈروں نے سارے ملک بالخصوص قندھار میں مسلح جتھے بنا کر قتل و غارتگری شروع کر دی۔ چوری اور بدعنوانی عام ہو گئی۔ سڑکیں بند کر دی گئیں۔ خواتین کو بے آبرو کر کے ہلاک کیا گیا۔ اس صورت حال میں دینی مدارس کے بعض طلبہ نے فیصلہ کیا کہ اگر کا مقابلہ کیا جائے اور صوبہ قندھار کے عوام کی مشکلات کم کی جائیں۔ چنانچہ ہم نے اپنی ہم کام آغاز کیا اور کئی مراکز فتح کرتے ہوئے قندھار میں داخل ہو گئے۔ علاقائی لیڈروہاں سے فرار ہو گئے۔“


واقعہ یہ ہے کہ اپریل ۱۹۹۲ء میں سوویت یونین کی حمایت سے قائم شدہ حکومت ختم ہونے کے بعد افغان عوام کو یہ امید ہو گئی تھی کہ ان کے ۱۴ سالہ مصائب ختم ہو جائیں گے اور ایک وسیع البیاد اسلامی حکومت قائم ہو جائے گی جو امن و انصاف کا پیغام لائے گی۔ مگر ہوا اس کے برعکس۔ مختلف جماعتیں اپنی برتری قائم کرنے کے لئے آپس میں لڑ پڑیں۔ دارالحکومت کابل چار سال تک محاصرے کی حالت میں رہا۔ بموں اور راکٹوں سے سارے شہر کو تھس تھس کیا گیا۔ جنوبی افغانستان میں بھی افراتفری کا عالم تھا۔ راستوں کو بند کر دیا گیا۔ تاجروں کو قدم قدم پر بھتہ اور جنگی ادا کرنی پڑتی تھی..... طالبان کے پیش نظر صرف افغانستان کی اصلاح تھی وہ اپنے نظریات کو دوسروں پر تھوپنا نہیں چاہتے تھے جیسا کہ ملا محمد عمر کے اس بیان سے واضح ہوتا ہے کہ ان کا مقصد محض یہ ہے کہ افغانستان کو بدعنوان مغرب زدہ موقیع پرست لیڈروں سے نجات دلائی جائے۔ جب ہمارے داخلی معاملات ٹھیک ہو جائیں گے پھر ہم خارجہ تعلقات پر نظر ڈالیں گے۔“

تحریک طالبان کے آغاز کی کہانی، طالبان راہنماؤں کی زبانی احمد رشید ہمیں ان الفاظ میں سناتے ہیں:

”جن مجاہدین نے نجیب اللہ کی حکومت کے خلاف جنگ کی تھی وہ بعد میں

اپنے گھروں میں واپس چلے گئے یا کونینہ اور قدھار کے دینی مدرسوں میں تعلیم مکمل کرنے لگے تھے، ان کیلئے بھی یہ صورتحال بڑی ناگوار اور پریشان کن تھی۔ ملا حسن نے بتایا کہ ہم ایک دوسرے کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ ملا عمر، ملا غوث، ملا محمد ربانی اور میں باہم واقف ہیں۔ ہم سب کا تعلق ارزگان صوبے سے ہے اور ہم نے مل کر لڑائی میں حصہ لیا ہے۔ میں کونینہ آتا جاتا رہا اور وہاں کے مدرسوں میں پڑھتا رہا۔ ہم جب باہم ملتے تو ڈاکوؤں کے زیر تسلط رہنے والے لوگوں کے مصائب و آلام کے بارے میں بات چیت کرتے، ہم سب ہم خیال تھے۔ ایک دوسرے سے رفاقت کرنے پر آمادہ تھے۔ چنانچہ فیصلہ کیا گیا کہ ہمیں کچھ نہ کچھ ضرور کرنا چاہئے۔ طالبان کے ایک چشم و زریہ خارجہ ملا غلام غوث نے بھی کم و بیش یہی کہا کہ ہم دیر تک بیٹھے غور کرتے رہے کہ اس افسوسناک صورتحال کو کس طرح تبدیل کیا جاسکتا ہے؟ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کریں؟ کبھی سوچتے کہ ہم ناکام رہیں گے لیکن ہم اتنا جانتے تھے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی تائید حاصل ہے۔ ہم یہاں تک اس لیے پہنچ پائے ہیں کہ اللہ نے ہماری مدد کی ہے۔ جنوب کے سبھی مجاہدین انہی مسائل پر غور و فکر کر رہے تھے، سب کسی نہ کسی حل کی تلاش میں تھے۔ وزیر صحت ملا محمد عباس بولے کہ میرا تعلق قدھار سے ۸۵ میل شمال میں صوبہ زابل کے قصبے قلات سے ہے۔ میں نے ایک مدرسے میں داخلہ لے لیا لیکن صورتحال اس درجہ خراب اور افسوسناک تھی کہ ہماری توجہ پڑھنے سے ہٹ گئی۔ دوستوں نے اس پر غور کرنا شروع کیا کہ ہمیں کیا کرنا چاہئے۔ پہلے مجاہدین امن قائم کرنے میں ناکام رہے ہیں، چند دوستوں کے ساتھ شوریٰ کے اجلاس میں شرکت کیلئے ہرات گیا۔ یہ اجلاس اسماعیل خان نے بلایا تھا۔ اس میں بھی اصلاح احوال کیلئے کوئی حل تجویز نہ کیا جاسکا۔ حالات بدتر ہو رہے تھے۔ ہم ملا عمر سے ملنے قدھار آئے اور ان کا ساتھ دینے کا فیصلہ کر لیا۔ مختلف الخیال لیکن یکساں طور پر تشویش میں مبتلا افراد نے اپنے لیے ایک لائحہ عمل طے کر لیا۔ طالبان آج بھی اسی پر کاربند ہیں، ان کے اہم مقاصد میں امن کا قیام لوگوں کو غیر مسلح کرنا، شرعی قوانین نافذ کرنا،

افغانستان کی سالمیت اور اسلامی کردار اور تشخص کا دفاع کرنا شامل ہے۔ مدرسوں کے کل وقتی یا جزو وقتی طلباء ہونے کے ناتے انہوں نے اپنی تنظیم کو طالبان کا نام دیا۔ یہ نام رکھ لینے کے بعد وہ جماعتی سیاست سے کنارہ کش ہو گئے اور اعلان کیا کہ اقتدار حاصل کرنا نہیں بلکہ معاشرے کی اصلاح اور تطہیر کرنا ان کا مقصود ہے۔ ملا محمد عمر کے گرد جمع ہونے والے نوعمر طلباء مجاہدین کے قائدین کی گروہ بندیوں اور مجرمانہ سرگرمیوں سے بیزار تھے۔ یہ مجاہد کبھی واجب الاحترام اور لائق تقلید گردانے جاتے تھے، لیکن اپنی خفیف حرکات کے سبب طالبان کی نظر سے گر گئے۔ طالبان نے چھاپہ مار جنگ کو صحیح رخ پر رکھنے، معاشرتی نظام کی خرابیوں کو دور کرنے اور اسلامی طرز زندگی کو بدعنوانی اور زیادتیوں کے اثرات سے پاک کرنے کا بیڑہ اٹھایا۔“



طالبان کے بارے میں عام طور پر یہ تاثرات پیش کیے جاتے ہیں کہ ان کی تحریک محض پشتونوں پر مشتمل تھی اور ان کا افغانستان کی دیگر اقوام سے کوئی رشتہ نہ تھا اور نہ ہی اس تحریک میں دیگر اقوام کے افراد کا کوئی خلاص کردار تھا۔ اس قسم کی باتیں کر کے یہ باور کرانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ تحریک طالبان محض ایک قوم پرست تحریک تھی، جو قوم کی بنیاد پر کھڑی ہوئی اور اس نے پشتون افغانوں کی فلاح و بہبود کیلئے کام کیا۔ جو لوگ طالبان پر قومیت پرستی کا الزام مائد کرتے ہیں وہ درحقیقت طالبان کی اسلام پسندی اور شریعت کے نفاذ کے حوالے سے ان کی خدمات کو ثانوی حیثیت دے کر یہ جتلا نا چاہتے ہیں کہ قوم پرست پشتون طالبان نے اسلام کا نام محض اپنے غلبے کیلئے استعمال کیا۔

طالبان پر اس الزام کے جواب میں یوں تو بہت سے حقائق پیش کیے جاسکتے ہیں، مثلاً یہ کہ طالبان کی تحریک میں بڑے بڑے عہدوں پر غیر پشتون افراد بھی فائز رہے ہیں، اور یہ کہ طالبان کی مخالفت کرنے والوں میں تقریباً سبھی معروف و مشہور قوم پرست پشتون جماعتیں اور سرکردہ راہنما شامل رہے ہیں، صرف اتنی ہی حقیقت اس الزام کی تردید کیلئے کافی ہے، تاہم ہم بعض ایسے حوالے پیش کر رہے ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ طالبان محض پشتونوں کی قوم پرست جماعت کا نام نہیں تھا، بلکہ اس تحریک میں ابتداء سے ہی غیر پشتون افغانوں کا عنصر اس حد تک نمایاں رہا کہ اس کی موجودگی سے کسی صورت

انکار نہیں کیا جاسکتا۔ ملاحظہ فرمائیے چند اہم ثبوت!

پیٹر مارٹن لکھتے ہیں:

”نسلی اعتبار سے طالبان کی اکثریت پشتون ہے، لیکن ان کا کہنا ہے کہ ہماری تحریک کے دروازے ہر گروہ، نسل اور قوم کیلئے کھلے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ طالبان میں کچھ تعداد غیر پشتونوں کی ہے، البتہ مذہبی اعتبار سے یہ سب سنی مسلمان ہیں۔“

افغان مؤرخ عبدالحمید مبارز کا کہنا ہے:

”ابتدائی طور پر یہ تحریک درانی اقوام کی معرفت سے مشہور ہوئی، مگر پھر اس نے اپنے آپ کو غلجائی، دیگر پشتون قبائل، پاکستان کے پشتون قبائل، تاجک، ازبک، بلوچ، ہزارہ جات، بدخشانی اور نورستانی اقوام میں پھیلا لیا اور یوں یہ ایک قومی و ملی تحریک بن گئی۔“

عبدالحمید مبارز ایک اور مقام پر لکھتے ہیں:

”اب تک جو کچھ دیکھا گیا ہے، وہ یہی ہے کہ طالبان اپنے بیانات اور پیغامات میں اس موضوع (قوم پرستی) سے بہت زیادہ حتراز کرتے ہیں اور طالبان کی صفوں میں ہزارہ، ازبک، بدخشانی اور شیعوں کی موجودگی اس بات کی دلیل ہے کہ ان کی تحریک ایک نومی اور ملی تحریک ہے۔“


واضح رہے کہ طالبان کی شمالی افغانستان میں پیش قدمی کے بعد شیعہ ہزارہ جات نے بڑے پیمانے پر طالبان حکومت کو قبول کر لیا تھا اور ان کے کئی سرکردہ رہنماؤں نے قندھار آکر باقاعدہ امارت اسلامیہ سے وفاداری کا اعلان کیا تھا۔

طالبان کے قوم پرست نہ ہونے کی ایک بڑی دلیل یہ بھی ہے کہ ان کی حکومت میں کئی اہم عہدیدار غیر قندھاری اور غیر پشتون بھی رہے۔ طالبان مخالف مصنف احمد رشید کی کتاب ”طالبان“ کا ایک اقتباس ملاحظہ فرمائیے:

”اس شوروی کے دس ارکان میں سے چھ درانی پشتون اور بدخشاں سے

ایک تاجک مولوی سید غیاث الدین تھے، وہ طویل عرصے سے پشتون پٹی میں

رہتے چلے آ رہے تھے۔ ۱۹۹۸ء میں کابل کی شورئہ ۱۷ ارکان میں سے آٹھ
 درانی تھے، پشتونوں کی تعداد دس تھی۔ تین غلجی اور دو غیر پٹھان ہیں۔ البتہ
 طالبان نے صوبائی گورنروں کے تقرر میں قدرے چکدار رویہ اپنایا ہے۔
 ۱۹۹۸ء میں گیارہ گورنروں میں سے صرف ۴ قندھاری تھے۔ ماضی میں گورنراور
 سینٹرافسربالعموم مقامی معززین میں سے لیے جاتے تھے اور یوں مختلف نسلوں کی
 نمائندگی کی صورت بیدار ہو جایا کرتی تھی۔ طالبان نے یہ روایت ختم کر دی اور
 تمام اہم عہدوں پر باہر کے لوگ متعین کرنے شروع کر دیئے۔ ۲۸ فروری
 ۱۹۹۵ء کو تحریک طالبان کے امیر نے قندھار سے ایک بیان جاری کرتے ہوئے
 واضح کیا کہ ”تحریک طالبان اگرچہ پشتون علاقے قندھار سے ابھری ہے لیکن
 ہمارے ساتھ ترکمن، ازبک، تاجک، فارسی خواں اور پشتو بولنے والے
 افغانستان کے سب علماء و طلبہ شامل ہیں۔ ہم سب مسلمان اور افغان ہیں۔ ہمارا
 مقصد امن کا قیام اور شریعت کا نفاذ ہے جس میں تاجک، ازبک اور پشتون کی
 کوئی تفریق نہیں نہ بیرونی طاقتیں ہماری مدد کر رہی ہیں اور نہ ہمیں اس کی
 ضرورت ہے کیونکہ ہماری قوم ہمارے ساتھ ہے۔“



کسی بھی تحریک کی حقیقت و اصلیت جاننے کیلئے اس کی قیادت سے شناسائی ضروری ہے، خاص
 طور پر ان لوگوں کا تعارف اہم ہے، جنہوں نے اس تحریک کی تاسیس اور بنیاد میں نمایاں کردار ادا کیا ہو۔
 تحریک اسلامی طالبان کے امیر ملامحمد عمر مجاہد صاحب کے مفصل حالات و سوانح آپ اس کتاب کے
 ابتدائی اوراق میں ملاحظہ کر چکے ہیں، یہاں ہم بعض ایسی شہادتیں پیش کر رہے ہیں جو ملامحمد عمر اور ان
 کے رفقاءے کار کے تعارف کیلئے خاصی اہمیت کی حامل ہیں۔

تحریک طالبان کے اولین راہنماؤں میں ملامحمد عمر مجاہد، مولانا محمد ربانی مرحوم، مولانا عبدالجلیل،
 مولانا محمد حسن رحمانی، ملا داد اللہ اخوند، مولوی محمد غوث، ملا عبدالرزاق اخوند، مولوی احسان اللہ احسان
 شہید، ملا برادر اخوند، ملا خیر اللہ خیر خواہ، مولوی وکیل احمد متوکل، مامشر شہید، ملا حاجی محمد شہید، مفتی معصوم
 افغانی، ملا یار محمد شہید، ملا امیر خان تفتی، ملا یورجان شہید، مولانا جلال الدین حقانی، ملا قدرت اللہ جمال،

موادى عبدالحى مطمئن، ملاغنى الياس اور ملا نجم الدين شامل تھے۔

پيٹر مارسڈن ملا محمد عمر مجاہد کا تعارف ان الفاظ میں کراتے ہیں:

”طالبان کے سب سے بڑے قائد ملا محمد عمر ہیں جنہیں امير المؤمنين کا لقب دیا گیا ہے۔ سب سے زیادہ بااختیار ادارہ شورئى جو قندھار میں ہے۔ اس کی صدارت ملا عمر کرتے ہیں۔ کابل میں ایک چھ رکنی شورئى حکومت کرتی ہے۔ تمام فیصلے اتفاق رائے سے کیے جاتے ہیں۔ ملا عمر نہایت پرہیزگار اور سادگی پسند انسان بتائے جاتے ہیں۔ وہ نسلاً پشتون ہیں اور تحریک مجاہدین کے زمانے میں یونس خالص کی حزب اسلامی میں شامل تھے۔ ان کی عمر ۳۵ سال کے لگ بھگ ہوگی۔ نہایت اعلیٰ درجے کے فوجی کمانڈر ہیں۔ سوویت افواج سے مقابلوں میں ان کی ایک آنکھ ضائع ہو گئی تھی۔ ان کی شخصیت پر اسراریت کے پردے میں لپٹی ہوئی ہے۔ وہ نہ تو کسی سرکاری تقریب میں نظر آتے ہیں اور نہ کسی بیرونی مہمان سے ملنا پسند کرتے ہیں۔ سربراہان مملکت یا اقوام متحدہ کے نمائندوں سے ان کے نائین ملاقات کرتے ہیں۔ ان کا وقت صرف تنظیمی سرگرمیوں اور فوجی حکمت عملیوں میں صرف ہوتا ہے۔“

احمد رشید ملا محمد عمر مجاہد کا تفصیلی تعارف اس طرح کراتے ہیں:

”آج دنیا میں ملا عمر کے سوا شاید ہی کوئی فرد ایسا ہو جس پر رازداری اور اخفاء کا ایسا دبیز پردہ پڑا ہو۔ ان کی عمر ۳۹ برس ہے۔ ان کی کبھی فونو نہیں اتری، وہ کبھی کسی مغربی سفارت کار یا صحافی سے نہیں ملے۔ اقوام متحدہ کے کسی نمائندے سے ان کی ملاقات اکتوبر ۱۹۹۸ء میں ہوئی تھی۔ اس وقت تک طالبان کو سامنے آئے صرف چار برس ہوئے تھے۔ یہ افغانستان سے متعلق اقوام متحدہ کے خصوصی نمائندے الاخضر برائیمی تھے۔ ان سے ملاقات کی وجہ شاید یہ تھی کہ افغانستان کو ایران کی طرف سے تباہ کن حملے کا خدشہ پیدا ہو گیا تھا۔ ملا عمر قندھار میں رہتے ہیں، وہ صرف دوبار کابل گئے، وہ بھی بہت مختصر سے وقفے کیلئے۔ ان کے بارے میں معلومات حاصل کرنا، افغانوں اور غیر ملکی سفارت کاروں کیلئے ہمہ وقتی مصروفیت

بن گیا ہے۔ ملا عمر ۱۹۵۹ء کے آس پاس قندھار کے قریب کے ایک گاؤں نودہ کے ایک غریب اور بے زمین خاندان میں پیدا ہوئے۔ وہ پشتونوں کی غلزئی شاخ کے ”ہوتک“ قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں۔ ہوتک قبیلے کے سردار میر ولس نے ۱۷۲۱ء میں ایران کے شہر اصفہان پر قبضہ کیا تھا اور ایران میں پہلی غلزئی افغان سلطنت کی بنیاد رکھی۔ جلد ہی احمد شاہ ابدالی نے اس کی جگہ لے لی..... ۱۹۸۰ء کے عشرے میں ملا عمر کا خاندان نقل مکانی کر کے صوبہ ارزگان کے علاقہ نارن کوٹ چلا گیا۔ یہ بے حد پسماندہ اور دور افتادہ علاقہ ہے، سوویت فوج شاید ہی کبھی یہاں پہنچ پائی ہو۔ ملا عمر نے ابھی نوجوانی میں قدم رکھا تھا کہ ان کے والد وفات پا گئے۔ اب ماں اور دوسرے اہل خانہ کے لئے نان نفقہ کا بندوبست کرنا ان کی ذمہ داری ٹھہری۔ وہ روزگار کی تلاش میں صوبہ قندھار کے ضلع میوند کے گاؤں چلے گئے، جہاں انہوں نے مسجد کی امامت سنبھال لی اور ایک چھوٹا سا مدرسہ کھول لیا۔ ان کی اپنی تعلیم میں دو مرتبہ رخنہ پڑا۔ ایک سوویت فوج کے حملے کے باعث اور دوسرا طالبان کے قیام کے سبب۔ ملا عمر، خالص کی حزب اسلامی میں شامل ہو گئے اور ۱۹۸۹ء سے ۱۹۹۲ء کے درمیانی عرصے میں کمانڈر نیک محمد کی کمان میں نجیب اللہ کی حکومت کے خلاف مصروف پیکار رہے، وہ چار مرتبہ زخمی ہوئے۔ ایک زخم ان کی دائیں آنکھ میں لگا، جس سے ان کی یہ آنکھ مستقل طور پر ضائع ہو گئی۔ طالبان کی کامیابی کے باوجود سنکسیر کے دوسرے پشتون علاقے آج بھی پسماندہ ہیں۔ یہاں کے گھر مٹی کے بنے ہیں، انہیں مٹی اور بھوسے کے آمیزے سے لپ کیا جاتا ہے۔ گرد آلود مٹی کی اونچی فصیل کھڑی کر لی جاتی ہے۔ یہ دفاع اور حفاظت کا روایتی پشتون انتظام ہے۔ گاؤں کی گلیاں تنگ اور گرد آلود ہیں، بارش ہو جائے تو کچھڑے سے بھر جاتی ہیں۔ ملا عمر کا مدرسہ آج بھی موجود ہے۔ مٹی کا چھوٹا سا گھر وندہ جس کے کپے فرش پر بیٹھے اور آرام کرنے کیلئے چٹائیاں ڈال دی گئی ہیں۔“

طالبان مخالف مصنف احمد رشید، ملا صاحب موصوف کے بارے میں مزید لکھتے ہیں:

”ملا عمر جس کسی کی مدد کرتے، اس سے کسی صلے اور ستائش کا تقاضا نہ

کرتے، صرف اتنا کہتے کہ وہ اسلامی نظام کے قیام میں ان کا ساتھ دیں۔
 بے لوثی اور بے ریائی کے سبب سے ان کی شہرت دور دور تک پھیلنے لگی۔“
 ملا صاحب کے بارے میں احمد رشید ایک اور جگہ لکھتے ہیں:

”ملا عمر گھنٹوں جائے نماز پر بیٹھے عبادت میں مصروف رہتے ہیں۔ وہ نماز
 کے بعد ہی طالبان کی جنگی چالوں کے بارے میں سوچتے اور فیصلے کرتے ہیں۔“
 ملا محمد عمر مجاہد کے عزم و استقلال کا اعتراف احمد رشید ان الفاظ میں کرتے ہیں:
 ”ملا عمر اپوزیشن یا اقوام متحدہ سے مصالحت کرنے پر تیار نہیں ہوئے۔
 ان کا پختہ یقین اور غیر متزلزل عزم کا آخر کار ان کی فوجی فتح کا سبب بنا۔“
 طالبان کی قیادت کا اجتماعی نقشہ احمد رشید یوں کھینچتے ہیں:

”طالبان کے قائدین پوری دنیا میں جسمانی طور پر سب سے زیادہ
 معذور ہیں۔ اس پر انہیں ایک طرح سے فخر بھی ہے۔ دیکھنے والوں کیلئے یہ فیصلہ
 کرنا مشکل ہوتا ہے کہ وہ ان کی جسمانی معذوری پر افسوس کا اظہار کریں یا ہنس
 دیں۔ ۱۹۸۹ء میں ملا عمر کی ایک آنکھ ضائع ہو گئی تھی، یہ ان کے قریب ایک
 راکٹ پھینکنے سے ہوا۔ وزیر انصاف نور الدین ترابی اور سابق وزیر خارجہ محمد غوث
 کی بھی ایک ایک آنکھ ہے، یعنی یک چشم ہیں۔ کابل کے میسر عبدالمجید کی ایک
 ٹانگ اور ہاتھ کی دو انگلیاں نہیں ہیں۔ دوسرے لیڈروں کا بھی کچھ یہی حال
 ہے۔ ان میں بعض فوجی کمانڈر بھی شامل ہیں۔ طالبان کا اصل زخم گزشتہ بیس
 برس میں پندرہ لاکھ افغان باشندوں کی ہلاکت اور ملک کی ہمہ گیر تباہی ہے۔“

تحریک طالبان کے قائدین اور سرکردہ افراد کے پرانے مخلص اور تجربہ کار مجاہدین ہونے کا ایک
 بڑا ثبوت یہ بھی ہے کہ ۱۹۹۸-۹۹ء تک حکومت کے بیس مرکزی وزراء میں سے چودہ وزراء وہ تھے جو
 روس کے خلاف جہاد میں جسم کے کسی نہ کسی حصے سے معذور ہو چکے تھے۔





طالبان اور اسلام

مغربی اقوام کا یہ دطریرہ رہا ہے کہ وہ اہل اسلام کو ہمیشہ دقیانوسیت، قدامت پرستی اور انتہاء پسندی کے طعنہ دہتی چلی آئی ہیں اور بد قسمتی سے مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ ان مغربی طعنوں کے ازالہ اور سدباب کیلئے ایسے طریقے اور راستے اختیار کرتا رہا ہے جو اسے اپنے مذہب کے بنیادی اصولوں سے دور لے جاتے چلے گئے۔ آپ عالم اسلام پر بیٹنے والی گزشتہ تین چار صدیوں کا جائزہ لیں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ اہل مغرب کے ان نظریاتی حملوں کی زد میں آ کر مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد اسلام کی حقیقی تعلیمات کو کھو بیٹھی اور پھر اس نے ایسی ایسی راہیں تراشیں شروع کیں جنہیں وہ اپنی خفت مٹانے کیلئے اور دشمنوں کی زبانیں بند کرنے کیلئے اسلام کا نام دیتی رہی۔ یہ وہ راہیں تھیں جو مشرق و مغرب، اسلام و کفر، نور و ظلمت، علم و جہالت، رحمت و وحشت اور کعبہ و کلیسا کو برابر رکھ کر تلاش کی گئیں اور ان راہوں کو دریافت کرتے ہوئے قرآن و سنت کی پیروی سے زیادہ اہل مغرب کے طعنوں سے بچاؤ اور ”جدید دور کے تقاضوں“ کو مد نظر رکھا گیا۔ یوں کائنات کے سب سے مستند اور باوقار مذہب ”اسلام“ کے مختلف احکام کی ایسی ایسی من گھڑت اور خود ساختہ تشریحات سامنے آئیں کہ اگر ایسا بھونڈا مذاق کسی اور مذہب کے ساتھ کیا جاتا تو اس کی چولیس ہل کر رہ جاتیں۔ لیکن اسلام چونکہ ایک ایسا دین ہے جس کی حفاظت خود قدرت نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے، اور اس دین نے قیامت تک باقی رہنا ہے، اس لیے تجدد و تشدد کے جس قدر بھی جھگڑ چلے وہ اسلام کے اصولوں کو ذرہ برابر بھی نہیں ہلا سکے۔ چنانچہ گزشتہ چند صدیوں میں عالم اسلام کے جس جس خطے

میں آپ کو ایسے لوگ نظر آئیں گے جو مسلمان کہلاتے ہوئے اصول اسلام سے کھیلتے رہے اور انہیں اپنی من مانی تشریحات کے ذریعے داغدار کرنے کی کوشش کرتے رہے، وہیں آپ کو کچھ ایسے نفوس بھی ملیں گے جنہوں نے اغیار کے ستم سہے، اپنوں کے طعنے سنے مگر اس کے باوجود اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کر کے اسلام کی ان حسین و تابندہ روایات و احکام کو زندہ رکھا جو انہیں قرآن و سنت اور اسلاف امت سے ورثے میں ملے تھے۔

مسلمانوں کی اسی نظریاتی تقسیم نے اہل مغرب کو یہ کہنے کا موقع دیا کہ ”بہت سی اسلامی تعلیمات اور احکام ایسے ہیں جن کی مختلف مسلمان مختلف تشریحات کرتے ہیں“۔ یہ بات اس حد تک تو سمجھ میں آتی ہے کہ کئی فردی مسائل ایسے ہیں جن میں اسلام نے مختلف آراء پیش کی ہیں لیکن چونکہ ان فردی کے اصول ایک ہی ہیں اور ان میں کسی کو اختلاف نہیں تو پھر اسلام کی نظر میں یہ اختلاف بھی زحمت کی بجائے رحمت بن جاتا ہے، مگر جب اختلاف کا دائرہ فروغ سے بڑھ کر اصول تک پہنچ جاتا ہے اور مسلمانوں کے بیچ ایسے خطرناک لوگ جنم لینے لگتے ہیں جو مغربی طعنوں سے مغلوب فکر و نظر کے تحت اصول اسلام پہ انگشت نمائی، رائے زنی کرتے ہیں اور انہیں مٹھوک بنا نے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کا اپنی حرکتوں سے بذات خود مسلمان ہونا ہی مٹھوک ہو جاتا ہے، چر جائے کہ انہیں مسلم اسکا اور دانشور قرار دے کر ان کے ہر دیدہ و شنیدہ عمل اور قول کو سند تسلیم کیا جائے اور اہل مغرب کو یہ کہنے کا موقع دیا جائے کہ اسلامی احکام متفقہ نہیں۔

ہمارے گرد و پیش میں ایسے افراد، جماعتیں اور حکومتیں بکثرت موجود ہیں جو اپنے آپ کو نہ صرف مسلمان کہتے ہیں بلکہ اس پر اصرار بھی کرتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ دانستہ یا نادانستہ طور پر واضح اسلامی احکام کی ایسی ایسی غریب و نادار تشریحات کرتے ہیں جو غیر مسلموں کیلئے تو قابل قبول ہو سکتی ہیں، لیکن اصول اسلام سے نہ صرف یہ کہ میل نہیں کھاتیں، بلکہ متصادم نظر آتی ہیں اور پھر اس سونے پہ سہا کہ یہ ہے کہ ایسے افراد، جماعتیں اور حکومتیں اپنی تشریحات اور ان تشریحات کے مطابق بنائی گئی پالیسیوں کو اس قدر شد و مد کے ساتھ ”اسلامی“ قرار دیتے ہیں کہ اس مرحلے پر عرف عام میں انتہا پسند کہلانے والے لوگ بھی ان سے کوسوں پیچھے رہ جاتے ہیں۔ بلاشبہ ایسے ہی لوگ مسلمانوں میں تفرقہ پیدا کرنے، انہیں آپس میں لڑانے اور دشمنان اسلام کو طعنہ زنی کا موقع فراہم کرنے کا باعث بنتے ہیں۔

اس تاریکی میں حقیقت اور سچائی تک پہنچنے کیلئے راہ راست کا یہی اصول ہے کہ ہر اس شخص کے قول و فعل کو اسلام نہیں کہا جاسکتا کہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہلاتا ہو اور نہ ہی ہر ایسی حکومت کی پالیسیوں کو اسلامی تعلیمات کا حصہ قرار دیا جاسکتا ہے جس پر اسلام کا لیبل چسپاں ہو، بلکہ اسلام صرف وہی ہے جو قرآن و سنت میں وارد ہوا ہے اور اسلاف امت سے ثابت ہوا ہے۔ لہذا ہر وہ قول و فعل اور پالیسی جو ان اسلامی اصولوں کے مطابق ہوگی وہ اسلامی تشریحات کا مظہر کہلانے گی اور ہر وہ قول و فعل اور پالیسی جو ان اصولوں سے متفق نہیں ہوگی وہ اسلامی احکام کی تشریح یا اسلامی حکم نہیں کہلائی جاسکتی۔ خواہ ظاہری طور پر اسے اپنانے میں اسلام اور مسلمانوں سے ہمدردی، غلبہ اسلام، تحفظ مسلمین، مسلمانوں کے سیاسی و مادی فوائد کتنے ہی نظر کیوں نہ آ رہے ہوں اور اس دونوں موقف کی وجہ یہ ہے کہ جیسا کہ ہم پہلے عرض کر چکے ہیں کہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس نے ہمیشہ قائم و دائم رہتا ہے، اور اس کے قیام و دوام کیلئے ضروری ہے کہ یہ مقررہ و متعینہ اصولوں پر باقی رہے، کیونکہ ہر وہ چیز جسے ٹھوس اصولوں سے ہٹ کر انسانوں کی عقلموں کے حوالے کر دیا جاتا ہے وہ باز سچے اطفال بن جاتی ہے اور اسے ہر شخص اپنی اپنی عقل کے مطابق اور اپنی خواہشات کے موافق چلانا شروع کر دیتا ہے اور یہ صورت حال یقیناً کسی بھی مذہب کا حلیہ بگاڑنے کیلئے کافی ہے، جیسا کہ ہمیں یہودیت اور عیسائیت میں اس کی کئی مثالیں نظر آتی ہیں۔

ان معروضات کے بعد اب ہم ہر سری جائزہ لیتے ہیں کہ طالبان کا اسلام سے تعلق کس نوعیت کا تھا؟ وہ ایک اسلامی حکومت قائم کرنے کے دعوؤں میں کس قدر سچے تھے اور صحیح اسلامی نقطہ نگاہ سے ان کی پالیسیوں کو کس حد تک ”اسلامی“ قرار دیا جاسکتا ہے؟

جب ہم یہ کہتے ہیں کہ طالبان نے اسلامی حکومت قائم کی اور اس میں اسلامی احکام و قوانین نافذ کیے تو اس کا مطلب صرف اور صرف یہ ہوتا ہے کہ طالبان نے ہر قسم کے نفع و نقصان، سود و زیاں اور ظاہری مفادات سے بالاتر اور یکسو ہو کر ایک ایسی حکومت قائم کی جس کی بنیادیں اصول اسلام پر قائم تھیں اور انہوں نے اپنی امارت میں جو قوانین نافذ کیے وہ وہی قوانین تھے جنہیں ہر دور میں علماء اسلام نے شرعی احکام سے تعبیر کیا ہے۔ طالبان اور اسلام کے اس باہمی تعلق کے بارے میں ایک غیر مسلم مصنف پیٹر مارٹن کی آراء ہمارے لیے خاصی اہمیت کی حامل ہیں، لہذا ہم انہیں درج ذیل طور میں من و عن نقل کر رہے ہیں:

”طالبان دوسرے اسلام پسندوں سے اس لحاظ سے مختلف ہیں کہ وہ کسی سیاسی نظریے کو تخلیق نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ وہ صرف شریعت کے تابع ہیں اور رہنمائی کیلئے علماء کی طرف دیکھتے ہیں۔“

”طالبان کے نظریات پر مزید روشنی اس بیان سے پڑتی ہے جو آواز شریعت ریڈیو سے ۵ نومبر ۱۹۹۶ء کو نشر ہوا۔ ”طالبان جو عوام میں سے ابھر کر سامنے آئے ہیں ایک ایسی جدوجہد میں مصروف ہیں جس کے ذریعے وہ اپنے ہم وطنوں کو مشکلات اور مصائب سے نجات دلوا سکیں، ملک میں پھیلا ہوا اسلحہ اکٹھا کر کے امن و سلامتی کو یقینی بنا سکیں، جاگیردارانہ نظام کا خاتمہ کر سکیں اور افغانستان میں ایک طاقتور اسلامی حکومت قائم کر سکیں“

”افغانستان کے وزیر اطلاعات ملا امیر خان متقی نے ۱۵ نومبر ۱۹۹۶ء کو جمعہ کے خطبہ میں مندرجہ بالا بیان کی یوں توضیح کی کہ ”اسلامی حکومت کے بنیادی ڈھانچے میں کسی قسم کے ظلم، زیادتی، جنگلی پن یا خود غرضی کا کوئی شائبہ نہیں ہے۔ اس کے برخلاف ہمارے قول اور عمل کا مقصد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ کو عملی اور قانونی شکل دینا ہے۔ طالبان کی اسلامی تحریک نے افغانستان میں ایک ایسی اسلامی ریاست قائم کی جہاں قرآن کریم کی تعلیمات کے مطابق اللہ تعالیٰ کی حکمرانی ہو، جس کی طالبان نے ہمیشہ تبلیغ کی ہے۔ طالبان کا ہر قدم شریعت کے عین مطابق ہے اور جو کچھ کہا ہے اس کو کر کے دکھایا ہے“

غرض طالبان کے نظریات کا بنیادی عنصر یہ ہے کہ افغانستان میں شرعی قوانین کی بنیاد پر اسلامی حکومت قائم کی جائے۔ ان کے خیال میں سابقہ حکومت اسلامی ریاست قائم کرنے میں ناکام رہی تھی حالانکہ اپنی تحریکوں کے دوران اس کے لیڈروں نے یہی وعدہ کیا تھا۔ اس لیے سابقہ حکومت کی جگہ ایک پاک صاف اسلامی حکومت قائم کرنا ناگزیر تھا۔“

اسلامی حدود قائم کرنے کے حوالے سے پیٹر مارسڈن لکھتے ہیں:

”طالبان نے ان سزاؤں پر محدود پیمانے پر عملدرآمد کیا۔ ان کی توجیہ کرتے ہوئے قائم مقام وزیر خارجہ شیر محمد سنگزئی نے آواز شریعت ریڈیو سے ۵ نومبر ۱۹۹۶ء کو اعلان کیا کہ ”ہم نے شرعی حدود نافذ کر کے ہرات سے جلال آباد اور کابل تک بسنے والے لاکھوں لوگوں کی جانوں کو محفوظ بنا دیا ہے۔ اب کسی کی مجال نہیں ہے کہ وہ چوری یا دوسرے جرائم کا ارتکاب کرے۔ ان قوانین کو ہم نے خود ایجاد نہیں کیا ہے بلکہ یہ سزائیں وہ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی تعلیم فرمایا۔ جو لوگ ان سزاؤں کو انسانی حقوق کے خلاف سمجھتے ہیں وہ تمام عالم اسلام اور ان کے عقائد کی توہین کرتے ہیں۔“

۵ دسمبر ۱۹۹۶ء کو ریڈیو صدائے شریعت کابل سے ایک اعلامیہ جاری ہوا، جس کا متن یہ تھا:

”امیر المؤمنین ملا محمد عمر کا پیغام کابل میں مقیم طالبان کے تمام عہدیداران اور کارکنان کے نام۔ کابل کے شہری سالہا سال سے مصائب میں گرفتار ہیں ان کیلئے امن و سلامتی کی فضا پیدا کی جائے۔ قانون کی خلاف ورزی سے ہر حال میں گریز کیا جائے۔ آپ کا ہر عمل شریعت کے مطابق ہونا چاہئے کیونکہ اسی صورت میں اللہ تعالیٰ کی نصرت اور مسلمان قوم کی اعانت حاصل ہو سکتی ہے۔“

پیشتر مارٹن طالبان اور مصرکی اسلام پسند تحریک اخوان المسلمون کا موازنہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ:

” (ان دونوں تنظیموں کے افراد) اسلام کو محض ذاتی معاملہ نہیں سمجھتے بلکہ اسے ایک ایسا نظام سمجھتے ہیں جسے پورے معاشرے پر نافذ کیا جائے اور جو معاشرے کے تمام پہلوؤں کا احاطہ کرے۔ یہ مذہب فرد کے ذاتی رویوں اور فرد اور معاشرے کے درمیان تعلقات کو متعین کرتا ہے۔ اس لیے ریاست کے سیکور ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اسی طرح مذہب کوئی ذاتی یا نجی چیز نہیں ہے۔ ریاست کو معاشرے کی اجتماعی اسلامی قدروں کی عکاس ہونا چاہئے۔“

”انخوان المسلمون اور طالبان کا موازنہ کیا جائے تو یہ بات سامنے آتی

ہے کہ دونوں تنظیمیں شریعت کو اعلیٰ ترین ریاستی قانون سمجھتی ہیں۔“

لیبیا اور تحریک طالبان کا تقابل کرتے ہوئے وہ لکھتے ہیں:

”طالبان کی سوچ اس حد تک تو لیبیا سے مطابقت رکھتی ہے کہ افغانستان

کو بیرونی اثرات سے پاک رکھا جائے۔ لیکن ان کے خیالات میں سوشلزم کا

کوئی شائبہ نہیں ہے۔ وہ سماجی انصاف کے تصور کو زکوٰۃ کے نظام سے ہٹ کر

نہیں دیکھتے۔“

طالبان نے اپنا نظام حکومت اسلامی طرز پر قائم کیا، اس حوالے سے طالبان کے ایک ترجمار

کا وہ بیان اہم ہے جو انہوں نے عربی رسالے الجبلہ کو دیا تھا، پیٹر مارٹن نے وہ بیان ان الفاظ میں

نقل کیا ہے:

”ہمارے تمام فیصلے امیر المؤمنین کی ہدایت کے مطابق ہوتے ہیں۔

ہمارے لیے مشورہ لازمی نہیں ہے۔ ہمارا خیال ہے کہ یہ سنت نبوی کے عین

مطابق ہے۔ ہم امیر کے فیصلے کے پابند ہیں خواہ یہ فیصلہ انہوں نے تجا کیا ہو۔

ہمارے یہاں سربراہ مملکت کوئی نہیں ہے۔ صرف امیر المؤمنین ہوتے ہیں۔

ملا محمد عمر مقتدر اعلیٰ ہیں۔ اگر وہ کسی فیصلے پر راضی نہیں ہیں تو پھر حکومت اس کو

نافذ نہیں کر سکتی۔ عام انتخابات شریعت سے مطابقت نہیں رکھتے اس لیے ہم اس

کو مسترد کرتے ہیں۔ اس کے بجائے ہم ممتاز علمائے کرام سے جو چند شرائط پر

پورے اترتے ہوں صلاح مشورہ کرتے ہیں۔“

طالبان نے افغانستان میں ایک خالص اسلامی حکومت کی داغ بیل ڈالتے ہوئے صرف قرآن

و حدیث کو پیش نظر رکھا، انہوں نے اس موقع پر کسی بھی دوسرے ”اسلامی“ ملک یا اس کے رائج کردہ نظام

کو آئیڈیل بنانے کی کوشش نہیں کی۔ ایک موقع پر جب امیر المؤمنین ملا محمد عمر مجاہد سے پوچھا گیا کہ آپ

افغانستان اور ایران و سوڈان وغیرہ کے نظاموں میں کیا فرق پاتے ہیں تو انہوں نے بڑے نپے تلے

الفاظ میں جواب دیا کہ:

”ہم دوسری حکومتوں کی طرف نہیں دیکھتے اور نہ ہمیں ان کے بارے

میں زیادہ علم ہے۔“

افغانستان میں اسلامی مقاصد کی ترویج کیلئے طالبان کی کوششوں کے حوالے سے احمد رشید لکھتے ہیں:

”بہر حال طالبان نے اس خطے میں اسلامی مقاصد کی ترویج و تکمیل کی کوششوں کا آغاز کیا ہے۔ شاید یہ اسی کار و عمل ہے کہ ایران، ترکی، بھارت، روس، وسطی ایشیا کی چار جمہوریتوں ازبکستان، قازقستان، کرغستان اور تاجکستان نے طالبان کے مخالف شمالی اتحاد کو اسلحے اور مالی امداد دینا شروع کر دی ہے۔“

احمد رشید ایک اور جگہ لکھتے ہیں:

”ملا عمر نے پاکستانی صحافی رحیم اللہ یوسف زئی سے کہا کہ ہم نے افغان جہاد کے مقاصد پورے کرنے اور عوام کو نام نہاد مجاہدین کے ہاتھوں ظلم و زیادتی کا شکار ہونے سے بچانے کیلئے ہتھیار اٹھائے ہیں۔ ہمارا اللہ پر مکمل ایمان ہے۔ یہ ہم ایک لمحے کیلئے بھی نہیں بھولتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں فتح سے ہمکنار یا شکست سے دوچار کر سکتا ہے۔“

تحریک طالبان کے اہداف و مقاصد بھی اس تحریک کی اسلام پسندی اور شریعت اسلامیہ سے وابستگی کی بھرپور نشاندہی کرتے ہیں۔ طالبان کے یہ اہداف و مقاصد افغان مورخ عبد الحمید مبارز نے مندرجہ ذیل بیان کیے ہیں:

- ۱۔ ایک خالص اسلامی حکومت کا قیام۔
- ۲۔ اسلام کو حکومتی و مملکتی مذہب کے طور پر رائج کرنا۔
- ۳۔ نفاذ شریعت۔
- ۴۔ مساجد کو اس طرح آباد کرنا کہ ملت اسلامیہ ان میں اطمینان و سکون کے ساتھ عبادات ادا کر سکے اور زندگی گزار سکے۔
- ۵۔ سرکاری تنگنوں میں مخلص مسلمان ملازمین کی تعیناتی۔
- ۶۔ لسانی، قومی اور علاقائی تعصبات و تفرقات کا خاتمہ کر کے ملک کے تمام مسلمانوں میں اسلامی اخوت و برادری قائم کرنا۔

- ۷۔ اسلامی تنظیموں اور خارجی ممالک سے دوستانہ مراسم قائم کرنا۔
- ۸۔ افغانستان میں رہنے والے غیر مسلموں کی حفاظت کا بندوبست۔
- ۹۔ اسلامی شریعت کی حدود میں رہتے ہوئے غیر مسلم ممالک کے ساتھ روابط قائم کرنا۔
- ۱۰۔ خواتین کو سرتاپا حجاب پہنا کر مستور کرنا۔
- ۱۱۔ امارت اسلامیہ افغانستان کے تمام علاقوں میں مذہبی پولیس (امر بالمعروف ونہی عن المنکر) کی خدمات جاری کرنا۔
- ۱۲۔ اسلامی عدالتوں کے توسط سے شرعی احکام و قوانین کا اجراء۔
- ۱۳۔ اسلامی امارت افغانستان کو بیرونی جارحیت سے بچانے کیلئے اور اس کے دفاع و حفاظت کیلئے اسلامی فوج کا قیام۔
- ۱۴۔ دینی مدارس قائم کرنا، تاکہ وہاں تعلیم حاصل کرنے والے طلبہ بیرونی کلمچہ و ثقافت کے اثرات سے محفوظ رہیں، ان کے دل قرآن و سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق سے لبریز ہو جائیں اور وہ اللہ کے راستے کے مجاہد بن جائیں۔
- ۱۵۔ بین الاقوامی سیاست کے پیش آمدہ تمام مسائل کو قرآن و سنت کے مطابق حل کرنا۔
- ۱۶۔ عالم و فاضل، قابل و باصلاحیت افراد میں سے قاضیوں کا تقرر۔
- ۱۷۔ حکومت کے اقتصادی نظام کو اسلامی سانچے میں ڈھالنا اور زراعت و صنعت اور معدنیات کے خزانے حاصل کرنے کیلئے کوشش کرنا۔
- ۱۸۔ افغانستان کی خوشحالی کیلئے اسلامی ممالک سے تعاون حاصل کرنا۔ کارخانے اور فیکٹریاں قائم کرنا اور اسلامی مملکت میں اقتصادی بحران کے خاتمے کیلئے زراعت کو فروغ دینا۔
- ۱۹۔ اسلامی محصولات زکوٰۃ، خراج اور جزیہ کا نظام قائم کرنا۔

☆.....☆.....

امر بالمعروف ونہی عن المنکر (نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا) اسلام کی نظر میں انتہائی اہم اور ضروری ہے۔ قرآن شریف میں مسلمانوں کو باقاعدہ حکم دیا گیا ہے کہ ان میں ایک جماعت ایسی ہونی چاہئے جو لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائے، انہیں نیکی کا حکم دے اور برائیوں سے روکے۔ اسلام نے اس شعبے کے قیام پر بہت زیادہ زور دیا ہے اور اس کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے، کیونکہ یہ ایک ایسا دین ہے جو

برائی کو اس کی جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کی کوشش دہی کرتا ہے۔ چنانچہ اسلامی تعلیمات کا مطالعہ کرنے سے آپ کو معلوم ہوگا کہ اسلام نہ صرف برائیوں کا خاتمہ چاہتا ہے بلکہ اس بڑے ماحول کے بھی انسداد کا حکم دیتا ہے جو برائیوں کو جنم دیتا ہے۔ معاشرے کی اخلاقی حالت استوار کرنے اور اصلاح کا دائرہ افراد سے لیکر اجتماع تک پھیلانے کیلئے اسلامی شریعت نے جو قوانین وضع کیے ہیں، انہیں رائج کرنے سے مسلمان ایک ایسا نظام تشکیل دے سکتے ہیں جو دنیا میں بھی ان کے فلاح و بہبود اور ترقی کا باعث ہوگا اور آخرت میں بھی کامیابی کا ذریعہ۔ جو لوگ اسلامی احکام کی اس روح سے واقف نہیں ہیں یا وہ اہل مغرب کے پروپیگنڈے کا شکار ہو چلے ہیں، انہیں عام طور پر یہ کہتے ہوئے سنا گیا ہے کہ ”عورت کو پردہ کروانا کیا ضروری ہے؟ حیا تو مردوں کی نگاہوں میں ہونی چاہئے“..... ”واضحیٰ مسلمان ہونے کی نشانی نہیں، دل میں ایمان اور اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہونی چاہئے“..... ”اسلامی احکام و تعلیمات پر عمل کرنا چاہئے، لیکن اسلامی حکومت کو زبردستی ان پر عملدرآمد نہیں کروانا چاہئے“

ہم ایسا کہنے والوں سے صرف اتنی بات عرض کریں گے کہ اگر دنیا کے کسی ملک کی حکومت یہ قانون بناتی ہے کہ سڑک پر کچرا پھینکنے والے کو پچاس ڈالر جرمانہ کیا جائے گا، کیونکہ وہ ماحول کو گندہ کر رہا ہے، تو ہم اس قانون کو قابل ستائش قرار دیتے ہیں، اگر کوئی حکومت یہ قانون رائج کرتی ہے کہ ٹریفک سکنل کی خلاف ورزی کرنے والا مستوجب سزا ہوگا کیونکہ وہ نظام درہم برہم کر رہا ہے، تو ہم اس قانون کی پابندی کو بطور مثال بیان کرتے ہیں۔ ہم اس ملک اور اس قانون کی تعریف اس لیے کرتے ہیں، کیونکہ یہ نظام سلطنت میں بڑا بگاڑ پیدا کرنے والی چھوٹی چھوٹی خرابیوں کی روک تھام کیلئے اپنایا گیا ہے، لیکن کیا وجہ ہے کہ انسانوں کے بنائے ہوئے ان قوانین سے بڑھ کر بہت سے قوانین ایسے ہیں جو انسانوں کے خالق اور محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائے ہیں اور ان پر عملدرآمد کا ہمیں حکم دیا ہے، اب اگر کوئی مسلمان حکومت ان قوانین کو نافذ کرتی ہے جبکہ وہ قوانین اس کی معاشرتی ضرورتوں، اقتصادی تقاضوں اور قومی امنگوں سے بھی مکمل ہم آہنگی رکھتے ہیں، تو پھر وہ قابل ملامت کیوں ہے؟ اور اگر اس حکومت کے نافذ کردہ ان قوانین کی کچھ لوگ خلاف ورزی کرتے ہیں اور معاشرے میں بگاڑ اور فساد پھیلانے کا باعث بنتے ہیں اور حکومت انہیں اس جرم کی پاداش میں مناسب سزا دیتی ہے، تو حکومت کے اس اقدام کو ظلم و زیادتی کیونکر گردانا جاسکتا ہے؟

جدید مغربی دنیا نے، جس میں بسنے والوں نے آزادی، آزادی کے نعرے لگا کر اپنے آپ کو

انسانیت، اخلاقیات، معاشرت اور شرم و حیا کی حدود و قیود سے بھی آزاد کر دیا ہے، ایک ایسا معاشرہ تشکیل دیا ہے جس کی بہترین مثال شاخ نازک پر بنے آشیاں جیسی ہے، یہ ناپائیدار آشیاں جس طرح ہر وقت اپنا وجود خطرے میں محسوس کرتا ہے، بالکل اسی طرح جدید مغربی تہذیب بھی ہمہ وقت خطرات سے دوچار رہتی ہے۔ اس مغربی تہذیب کے ناخداؤں نے آزادی کی منزل حاصل کرنے کیلئے دوڑتے دوڑتے شرافت کی تمام حدود تو پھلانگ ڈالیں، لیکن اب انہیں شدید احساس ہو رہا ہے کہ وہ آزادی کی بجائے دلدل میں دھنستے چلے جا رہے ہیں۔ ایسی دلدل جو ان کی نسلوں کو بھی جکڑ کر رکھ دے گی۔ چنانچہ اب کوششیں ہو رہی ہیں کہ ایسے قوانین بنائے جائیں جو شراب نوشی کے برے اثرات کی روک تھام کر سکیں، بدکاریوں کے نتیجے میں بڑھنے والی حرام اولاد میں کمی کر سکیں، مرد و زن کے آزادانہ میل جول سے ہونے والی عورتوں کے ساتھ زیادتیوں کا سدباب کر سکیں..... وغیرہ وغیرہ..... لیکن اب کیا ہو سکتا ہے جب چڑیا چک گئی کھیت۔ برائی کو اس کے تمام تر اسباب و ذرائع سمیت ختم کرنے کے اسلامی فارمولے پر اہل مغرب جس قدر تنقید کرتے آئے ہیں، اب ان کی اپنے ہاتھوں خود ہی خود کشی کرنے والی تہذیب ان کی بے جا تنقید کا جواب بن کر سامنے آ رہی ہے..... بشرطیکہ کوئی تعصب کی عینک اتار کر دیکھے اور ہوش و خرد کی ناخن سے کام لے۔

طالبان نے اپنی حکومت میں جو قوانین نافذ کیے وہ اسلام کی عطاء کردہ اسی حکمت عملی کے مطابق تھے، اور اس طرز کار کے جو نتائج و ثمرات سامنے آئے وہ بھی دنیا نے کھلی آنکھوں سے دیکھے۔ ہم ذیل میں طالبان حکومت کے قائم کردہ شعبہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا ایک اعلامیہ پیش کر رہے ہیں، جو سولہ شعبوں پر مشتمل ہے۔ یہ اعلامیہ شعبہ امر بالمعروف کی طرف سے حکومت کے مختلف شعبوں کے ذمہ داروں اور عوامی طبقہ سے تعلق رکھنے والے مختلف حلقوں کے نام لکھا گیا تھا۔

طالبان کے شعبہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا جاری کردہ اعلامیہ یہ ہے:

۱۔ عورتوں کی بے پردگی کے فتنے کے خاتمے کیلئے.....

اگر کوئی عورت ایرانی چادر میں (جس سے حجاب کے تقاضے پورے نہیں ہوتے) گھر سے نکلی تو کسی بھی رکشہ یا ٹیکسی والے یا کسی بھی ڈرائیور کو اجازت نہیں ہوگی کہ وہ اسے اپنے ساتھ سوار کر لے، بصورت دیگر اس ڈرائیور کو گرفتار کر لیا جائے گا اور اگر کوئی عورت ایسی حالت میں کہیں سر راہ چلتی پھرتی نظر آئی تو اس کا گھر تلاش کر کے اس کے شوہر کو سزا دی جائے گی اور اگر کوئی عورت

شہوت انگیز لباس پہنے ہوئے ہوگی اور اس کے ساتھ کوئی محرم مرد نہیں ہوگا تو اسے کوئی ڈرائیور اپنے ہمراہ سوار نہیں کر سکے گا۔

۲۔ ساز، باجے کی ممانعت کے سلسلہ میں.....

تمام ذرائع ابلاغ سے یہ بات نشر کی جائے کہ دکانوں، ہوٹلوں، گاڑیوں اور رکشوں میں گانے بجانے کی کیٹشیں رکھنا ممنوع ہیں۔ پانچ دن تک ادارہ تفتیش اس پابندی کا جائزہ لے گا، اس کے بعد اگر کیٹش کی کسی دکان سے گانے بجانے کی کیٹش برآمد ہوئی تو دکاندار کو گرفتار کر لیا جائے گا اور دکان کو تالا لگا دیا جائے گا۔ پھر پانچ افراد کی ضمانت پر دوکاندار کو رہا کر دیا جائے گا اور دکان کھول دی جائے گی۔ اگر کسی گاڑی سے گانے بجانے کی کیٹش برآمد ہوئی تو گاڑی کا مالک گاڑی سمیت گرفتار کر لیا جائے گا اور پھر پانچ افراد کی ضمانت پر مالک رہا کیا جائے گا اور گاڑی چھوڑ دی جائے گی۔

۳۔ ڈاڑھی کٹوانے اور منڈوانے کے سلسلہ میں.....

پورے ملک میں یہ اطلاع پہنچادی جائے کہ آج سے ڈیڑھ ماہ بعد جہاں بھی کوئی شخص ڈاڑھی منڈا یا ریش تراش نظر آیا، اسے گرفتار کر لیا جائے گا اور اس وقت تک گرفتار رکھا جائے گا، جب تک کہ اس کی مکمل ڈاڑھی نہیں نکل آتی۔

۴۔ ترک نماز کے خاتمے اور بازاروں میں نماز باجماعت کے سلسلہ میں.....

ذرائع ابلاغ کے ذریعے ہر جگہ اطلاع پہنچادی جائے کہ نمازیں ہر علاقے میں بروقت ادا کی جائیں، نماز باجماعت کے اوقات شعبہ امر بالمعروف ونہی عن المنکر مقرر کرے گا۔ اس مقررہ وقت سے پانچ منٹ قبل ٹریفک اور دیگر کاروبار روک دیا جائے گا اور سب لوگ نماز کی تیاری میں مشغول ہو جائیں گے اور تمام افراد کو مساجد میں پہنچنا ضروری ہوگا۔ اوقات مقررہ کے دوران شعبہ امر بالمعروف کے افراد گاڑی میں اس صورتحال کی نگرانی کریں گے۔ اگر کسی دکان میں کوئی بالغ فرد نظر آیا تو اسے گرفتار کر لیا جائے گا اور پانچ افراد کی طرف سے ضمانت ملنے پر رہا کیا جائے گا اور اگر پانچ افراد کی ضمانت نہ ملی تو دس دن بعد رہا کیا جائے گا۔

۵۔ کیوٹر بازی اور بیئر بازی کی روک تھام کے سلسلہ میں.....

تمام ذرائع ابلاغ سے یہ اعلان کر دیا جائے کہ کیوٹر باز اور بیئر باز دس دن کے اندر اندر اپنے ان مشغلوں سے باز آجائیں۔ دس دن بعد تفتیشی ادارہ نگرانی کرے گا اور مناسب اقدام کرے گا۔ ایسی

صورت میں کبوتر اور بیڑ حلال طریقے سے ذبح کر دیئے جائیں گے۔

۶۔ نشیات کے خاتمے اور ان کو استعمال کرنے والوں کے بارے میں.....

نشہ کرنے والوں کو گرفتار کیا جائے گا، اور تفتیش کر کے نشیات کے مرکز کا پتہ لگایا جائے گا اور نشیات فروش کی دکان بند کر دی جائے گی۔ دکان میں تخریبی مواد اور نشیات کو قبضہ میں لے لیا جائے گا اور مالک اور نشہ کرنے والے، دونوں کو گرفتار کر کے سزا دی جائے گی۔

۷۔ پینگ کی ممانعت کے سلسلہ میں.....

پہلے اس حکم کی بھرپور اشاعت کی جائے گی، پھر اس کی قباحت مثلاً جوا، بچوں کی ناگہانی اموات اور بچوں کی تعلیم و تربیت سے محرومی جیسی برائیاں بیان کی جائیں گی، پھر شہر میں جہاں کہیں بھی پینگ فروشوں کی یا اس کے لوازمات کی دکانیں ملیں گی ان کا سامان ضبط کر لیا جائے گا۔

۸۔ بت پرستی کے خاتمے کے سلسلہ میں.....

پہلے تمام ذرائع ابلاغ کے ذریعے عام اعلان کر دیا جائے کہ تمام گاڑیوں، دکانوں، حجروں اور ہوٹلوں وغیرہ سے جانداروں کی ہر قسم کی تصاویر ختم کر دی جائیں۔ اس کے بعد شعبہ امر بالمعروف کے کارکنان مختلف جگہوں پر گھومیں گے اور انہیں جہاں بھی اس قسم کی کوئی ممنوعہ تصویر نظر آئی اسے پھاڑ ڈالیں گے اور اس مکان یا گاڑی کے مالک کو طلب کر کے تنبیہ کی جائے گی تاکہ آئندہ وہ ایسا نہ کرے۔

۹۔ جوے کے خاتمے کے سلسلہ میں.....

تفتیشی طریق کار سے جوے کے ٹھکانوں کا پتہ لگایا جائے گا، پھر جوے بازوں کو گرفتار کر کے ایک ماہ تک تحویل میں رکھا جائے گا۔

۱۰۔ انگریزی، امریکی اور غیر اسلامی بال رکھنے کی ممانعت کے سلسلہ میں.....

اس بارے میں تمام ذرائع ابلاغ کے توسط سے یہ اعلان نشر کیا جائے کہ ایسے بال رکھنے کی ممانعت ہے، پھر اس کے بعد بھی اگر ایسے بالوں والے افراد نظر آئیں تو انہیں حراست میں لے کر محکمہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے دفاتر میں لایا جائے گا، وہاں حجام ان کے بال تراش دے گا اور حجام کا معاوضہ بطور جرمانہ اس شخص سے وصول کیا جائے گا۔

۱۱۔ سودی لین دین کی ممانعت کے سلسلہ میں.....

بڑے نوٹوں کے عوض چھوٹے نوٹ لینے (سود) پر اور ہنڈی کے کاروبار کی روک تھام کیلئے تمام

منی چیخروں کو مطلع کیا جائے گا کہ رقوم کے ان تینوں قسم کے تبادلوں پر عائد پابندی کی خلاف ورزی پر مناسب عرصے تک قید کی سزا دی جائے گی۔

۱۲۔ نوجوان لڑکیوں کے سرعام کپڑے دھونے کی ممانعت کے سلسلہ میں.....

تمام مساجد میں اس بارے میں اعلان نصب کر دیا جائے گا، اور پھر شعبہ امر بالمعروف اس سلسلہ میں کڑی نگرانی کرے گا اور جہاں کہیں نوجوان لڑکیاں سرعام کپڑے دھوتی نظر آئیں انہیں پورے اسلامی آداب و احترام کے ساتھ وہاں سے اٹھا کر ان کے گھروں میں بھیج دیا جائے گا اور ان کے خاندان کے سربراہوں کو سزا دی جائے گی۔

۱۳۔ شادی بیاہ کے مواقع پر ناچ و رقص کی ممانعت کے بارے میں.....

تمام ذرائع سے یہ منادی کرا دی جائے کہ ان منکرات کو ترک کر دیا جائے، اگر کسی گھر کے اندر اس قسم کے کاموں کی خبر ملی تو خاندان کے سربراہ کو حراست میں لے کر سزا دی جائے گی۔

۱۴۔ ڈھول بجانے کی ممانعت کے سلسلہ میں.....

اولیٰ علماء کرام کے توسط سے عوام الناس کے سامنے اس کی حرمت بیان کی جائے گی، پھر اس کے مرتکب افراد سے علماء کرام ہی کی رائے کے مطابق باز پرس کی جائے گی۔

۱۵۔ عورتوں کے لباس سینے اور ناپ لینے کی ممانعت کے بارے میں.....

غیر محرم عورتوں کا لباس سینے اور درزیوں کو ان کا ناپ لینے کی ممانعت ہوگی، دکانوں میں اگر فیشن میگزین پائے گئے تو درزی کو حراست میں لے لیا جائے گا۔

۱۶۔ جادو ڈونے کی ممانعت کے سلسلہ میں.....

جادو ڈونے کی کتابیں جلادی جائیں گی اور ان پر عمل کرنے والوں کو اس وقت تک حراست میں رکھا جائے گا جب تک وہ توبہ نہ کر لیں۔

طالبان کا ایک اور حکم نامہ ملاحظہ کیجیے جو سرکاری ونچی ہسپتالوں اور کلینکوں کیلئے اسلامی شریعت کی روشنی میں شعبہ امر بالمعروف نے امیر المؤمنین کے حکم سے نومبر ۱۹۹۶ء میں جاری کیا:

۱۔ عورتیں علاج کیلئے خواتین معالجوں کے پاس جائیں۔ اگر کسی مرد معالج کی ضرورت پڑ جائے تو بیمار خاتون اپنے کسی قریبی رشتہ دار کے ساتھ اس کے پاس جائے۔

۲۔ مریضہ کے طبی معائنے کے وقت مریضہ اور معالج دونوں شرعی حجاب پہن رہیں۔

۳۔ بیمار خواتین کی انتظار گاہیں محفوظ طور پر باپردہ ہونی چاہئیں۔

۴۔ بیمار عورتوں کی باری لگانے والی بھی عورت ہونی چاہئے۔

۵۔ رات کو ہسپتال کے جن کمروں میں بیمار عورتیں ہوں، ان میں کوئی مرد ڈاکٹر بلائے بغیر داخل نہیں ہو سکتا۔

۶۔ مرد ڈاکٹروں اور خاتون ڈاکٹروں کے مل بیٹھنے اور باہم گفتگو کرنے کی اجازت نہیں۔ اگر کسی مسئلے پر تبادلہ خیال ضروری ہو تو حجاب کے ساتھ کیا جائے۔

۷۔ خاتون ڈاکٹر سادہ لباس پہنیں، انہیں بھڑکیلے انداز کے کپڑے پہننے، سرخی پاؤ ڈر لگانے اور زیب و زیبائش کی اجازت نہیں۔

۸۔ خاتون ڈاکٹر اور نرسوں کو ان کمروں میں داخل ہونے کی اجازت نہیں جہاں بیمار مرد ہوں گے۔

۹۔ ہسپتال کا عملہ مقررہ اوقات میں مساجد میں نماز ادا کرے گا۔

۱۰۔ شعبہ امر بالمعروف کے افراد کسی وقت بھی معائنے یا کنٹرول کیلئے آ سکتے ہیں۔

جو ان احکام کی خلاف ورزی کرے گا اسے اسلامی قوانین کے مطابق سزا دی جائے گی۔

طالبان کے ان حکم ناموں اور ہدایات سے بخوبی اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ وہ افغانستان میں ایک خالص اسلامی معاشرہ تشکیل دے رہے تھے۔ ایسا معاشرہ جس میں اللہ تعالیٰ کے حقوق کا بھی پورا پورا لحاظ رکھا گیا تھا اور خلق خدا کے حقوق کا بھی۔ اس موقع پر کہا جاسکتا ہے کہ طالبان کے یہ حکم نامے شرعی احکام سے متعلق ہیں، جبکہ تمدنی معاملات کا ان میں کوئی خاص ذکر نہیں۔ اس سلسلہ میں عرض ہے کہ طالبان نے تقریباً تمام تمدنی و معاشرتی معاملات پر بھی وقتاً فوقتاً احکام جاری کیے اور قوانین نافذ کیے۔ جن کی تفصیلات آپ جا بجا اس کتاب میں ملاحظہ کر سکتے ہیں، دوسری بات یہ ہے کہ طالبان نے تباہ حال افغانستان کو بنانے سنوارنے میں جو عملی کردار ادا کیا، وہ اس امر پر ناقابل تردید دلیل ہے کہ انہیں ناصرف مذہبی اقدار کا پورا پورا لحاظ تھا بلکہ معاشرے کو سنوارنے اور اسے صحیح خطوط پر استوار کرنے کا بھی انہیں پورا پورا اہتمام تھا۔



طالبان کی اسلام کے ساتھ وابستگی کے اس تذکرے کے آخر میں ہم طالبان مخالف مصنف احمد رشید کا ایک اقتباس نقل کرنا چاہتے ہیں جو ایک طرف ان کی طالبان پر برہمی کا

بھرپور اظہار کرتا ہے، جب کہ دوسری طرف طالبان کی اصل کیفیت بھی اس سے واضح ہوتی ہے، بالفاظ دیگر آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہی وہ ”خامیاں“ ہیں، جن کی موجودگی نے طالبان کو مغرب اور مغرب نواز طبقے کی نظر میں قدامت پرست، اگتھاپنڈ اور مذہبی جنونی قرار دیا اور یہی وہ ”خوبیاں“ ہیں جنہوں نے طالبان کو اہل اسلام کی آنکھوں کا تار بنا دیا۔ احمد رشید اپنی کتاب میں رقمطراز ہیں:

”ان کی دلچسپی اور وابستگی اسلام سے ہے۔ وہ اپنے ہر دکھ کا مداد اور ہر مشکل کا حل اسی میں دیکھتے ہیں۔ اس ضمن سے انہیں گاؤں کے مدرسے اور اس کے استادوں کی باتیں یاد کرتے اور دہراتے رہنے میں سکون ملتا ہے۔ وہ کچھ بھی کرنا نہیں جانتے، وہ اپنے آباء و اجداد کے روایتی پیشوں سے بھی نا بلد ہیں۔ کاشتکاری کس طرح کی جاتی ہے؟ مویشی کیسے پالے جاتے ہیں؟ دستکاریاں کیسے ہوتی ہیں؟ انہیں کارل مارکس کے بقول، افغانستان کے افکار رفتہ پر ولتاری کہا جاسکتا ہے، وہ طالبان کے لیڈروں کی برادری میں خوش دلی سے شامل ہو گئے کیونکہ وہ اور کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔ ان میں اکثریت یتیموں کی تھی۔ جنہوں نے ماؤں اور بہنوں اور خالہ زاد اور چچا زاد بہنوں کی صورت میں کوئی عورت دیکھی ہی نہیں تھی۔ کچھ نے زندگی مدرسوں میں تعلیم پاتے یا مہاجر کیمپوں میں پرورش پاتے گزارا تھی۔ وہ بھی اس حالت میں کہ وہاں مرد اور عورتوں الگ الگ خانوں میں بیٹھی ہوئی تھیں۔ کیمپوں میں خواتین رشتہ داروں کے آنے جانے کو بہت محدود کر دیا گیا تھا۔ قدامت پسند پشتون قبائلی معاشرے میں دیہات یا خانہ بدوشی کی صورت میں ایک ہی خاندان سے تعلق رکھنے والے قریبی رشتہ دار مرد اور عورتیں آپس میں ملتے جلتے تھے۔ لیکن ان لڑکوں نے بڑی کٹھن زندگی گزارا۔ انہیں عورتوں کی رفاقت کا کچھ پتہ نہیں تھا۔“

ہمیں حیرت ہے کہ ”پڑھے لکھے لوگ“ ان ”گمنوار“ لوگوں کو داد و تحسین دینے کیلئے کیوں تیار نہیں جنہوں نے قومیت و تعصب کی آگ میں جلتے ہوئے افغانستان کو امن کا گہوارہ بنا دیا، افغان قوم کو سکون

وسلامتی کا پیغام سنایا اور ان کیلئے خوشحالی کے دروازے کھول دیے۔

احمد رشید کا لکھا ہوا یہ پیرایہ پڑھ کر مجھے بار بار کسی بزرگ کا یہ مقولہ یاد آتا ہے کہ ”اگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ہمارے زمانے میں ہوتے تو ہم انہیں دیوانے اور مجنون کہتے اور اگر ہم ان کے دور میں ہوتے تو وہ ہمیں دیکھ کر منافق سمجھتے۔“





طالبان اور حقوق نسواں

جن انسانی حقوق کی خلاف ورزی اور تظنی کے حوالے سے طالبان مورد الزام ٹھہرائے جاتے رہے ہیں، ان میں سب سے اہم اور نمایاں ”حقوق نسواں“ ہیں۔ طالبان کے منظر پر آنے سے لے کر ان کے پس منظر میں جانے تک مغربی ممالک اور ان کے ترجمان ذرائع ابلاغ پوری شدت، تسلسل اور مبالغے کے ساتھ یہ پروپیگنڈہ کرتے رہے ہیں کہ طالبان نے عورتوں پر ظلم و ستم کیا ہے، انہیں گھروں میں قید کر دیا ہے، انہیں برقعہ اوڑھنے پر مجبور کیا ہے، ان سے تعلیم اور ملازمت کا حق چھین لیا ہے..... وغیرہ وغیرہ۔

طالبان کے خلاف ان مغربی الزامات کی حقیقت کیا ہے، یہ الزامات کس حد تک درست ہیں اور کتنے غلط؟ ان سوالات کے جوابات جاننے کیلئے ہمیں کسی قدر تفصیل کے ساتھ ماضی کے واقعات، حال کے تقاضوں اور مستقبل کے خدشات کا جائزہ لینا ہوگا۔ اور یہ جائزہ لینا اس لئے بھی ضروری ہے، کیونکہ حقوق نسواں کی تظنی کے حوالے سے مغربی دنیا طالبان پر جو الزامات عائد کرتی رہی ہے، درحقیقت یہ الزامات صرف طالبان کی پالیسیوں ہی سے متعلق نہیں، بلکہ ان کا تعلق براہ راست اسلامی تعلیمات اور عورتوں کے حوالے سے اسلامی شریعت کے احکام سے ہے، اس لئے کہ طالبان نے خواتین کے حوالے سے اپنے دور اقتدار میں جو پالیسیاں اور قوانین نافذ کئے، انہوں نے ان کے بارے میں بجا طور پر یہ دعویٰ کیا کہ یہ سب اسلام کے مطابق ہیں اور شریعت ہمیں عورتوں کے حوالے سے ایسے اقدامات کرنے کا ہی حکم دیتی ہے اور پھر طالبان اپنے موقف کی حمایت میں افغان معاشرے کی قدیم روایات اور

ثقافتوں کو بھی پیش کرتے ہیں، جن کی رو سے طالبان کی صنفی پالیسی کو مزید تقویت ملتی ہے۔

اب ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ اسلامی شریعت میں عورت کے حقوق و اختیارات کیا ہیں؟ افغان معاشرے میں خواتین کی روایتی حیثیت کیا رہی ہے اور افغان خواتین نے ہمیشہ کیسا رہن سہن اپنایا ہے؟ عورت کے بارے میں مغربی ممالک کی پالیسی کیا ہے اور اس پالیسی کے نتائج کیا برآمد ہو رہے ہیں؟ ان تمام امور کی وضاحت کے بعد ہم یہ بتائیں گے کہ طالبان نے افغانی خواتین کیلئے کیا روش اختیار کی اور ان کی صنفی پالیسیوں کے کیا نتائج برآمد ہوئے؟

یہ بات واضح ذہنی چاہئے کہ اسلام ایک ایسے دین کا نام ہے، جو مکمل ضابطہ حیات پیش کرتا ہے۔ یہ دین فرد کی اصلاح بھی کرتا ہے اور معاشرے کی بھی، عبادت کا طریقہ بھی سکھاتا ہے اور حکومت کا طریقہ بھی، یہ حکمرانی کی حدود بھی بتاتا ہے اور رعایا کے حقوق بھی، یہ مردوں کو ان کے اختیارات سے آگاہ کرتا ہے اور عورتوں کو بھی سر بلندی اور عزت عطاء کرتا ہے، یہ بچوں کے حقوق کا محافظ بھی ہے اور غلاموں کے حقوق کا علمبردار بھی، یہ مذہب ہے جو گھر سے لے کر مسجد تک اور بازار سے لے کر دربار تک زندگی کے ہر قدم، ہر مرحلے پر انسان کی راہنمائی کرتا ہے اور اسے عمل کیلئے صحیح اور سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ اب ایسے مذہب سے یہ توقع کیسے کی جاسکتی ہے کہ اس نے عورتوں کے حقوق کے سلسلہ میں کسی بھی طور پر تنگ نظری یا کوتاہ بینی سے کام لیا ہوگا۔ چنانچہ تاریخی حقائق ہمیں بتاتے ہیں کہ اسلام نے دنیا میں آنے کے بعد عورت کو جو تحفظ، عزت اور مقام دیا ہے وہ دنیا کی کسی دوسری تہذیب یا قوم نے عورت کو نہیں دیا۔

اگر ہم تاریخ کے اس دور میں چلے جائیں، جب دنیا میں یونانی تہذیب کا راج تھا (وہی یونانی تہذیب جو مغربی تہذیب کی ماں سمجھی جاتی ہے) تو اس وقت بھی عورت ایک مظلوم جنس کی حیثیت ہی رکھتی تھی، اور اسے معاشرے کا عضو زائد، ناکارہ پرزہ اور ناقابل توجہ حصہ ہی سمجھا جاتا تھا۔ یونانیوں نے عورت کو برائی کی جز قرار دیا تھا۔ ان کے ہاں عورت اپنے باپ کی وارث نہیں بن سکتی تھی۔ اسے خرید و فروخت کا کوئی اختیار نہیں تھا۔ تعلیم سے اسے کوسوں دور رکھا جاتا تھا۔ شوہر اپنی بیوی کو طلاق دیتا یا اس پر کوئی ظلم ڈھاتا، اس تہذیب کی رو سے عورت کو اس کے سامنے لب احتجاج کھولنے کی اجازت نہ تھی۔ یونانی لوگ اپنی بیوی کو بیوی نہیں، گھر کی رکھوالہ اور کنیزوں کی نگران سمجھتے تھے۔ یونان کی قدیم تہذیب میں باپ کو یہ حق حاصل تھا کہ وہ اپنی بیٹیوں کو فروخت کر دے، ایک یونانی شاعر کہتا ہے کہ ”زیوس (دیوتا) نے عورت ایک برائی کی صورت میں انسان کو دی۔“ رومی مفکرین تو سالہا سال تک اسی اختلاف میں پڑے رہے کہ

عورت انسان بھی ہے یا نہیں؟ پھر ایک مجلس میں یہ طے پایا کہ عورت حیوانی نفس (نا پاک جانور) ہے، جو روح سے خالی ہے، اس کیلئے ہنسنا اور بات کرنا جائز نہیں، اسے چاہئے کہ اپنا منہ بند رکھے۔

اور اگر ہم ماضی کے اس حصے کا جائزہ لیتے ہیں جب جزیرۃ العرب میں اسلام ابھی طلوع نہیں ہوا تھا، تو اس دور میں بھی عورت کی حالت زار انتہائی بدتر نظر آتی ہے۔ اسلام سے پہلے کے دور میں، جسے دور جاہلیت بھی کہا جاتا ہے، عورت معاشرے میں انتہائی مظلومیت اور کسمپرسی کی زندگی بسر کر رہی تھی۔ اس دور میں ہر اچھی چیز پر مردوں کا حق اور ہر بری چیز عورتوں کا حصہ سمجھی جاتی تھی۔ عورتوں کو دودھ پینے کی اجازت نہیں تھی۔ اگر کسی کے ہاں بچی پیدا ہوتی تو وہ اسے زندہ ہی زمین میں گاڑ دیتا تھا۔ ایک عورت کی اجتماعی طور پر بیک وقت کئی مردوں سے شادی کر دی جاتی۔ عورت کو باقاعدہ زنا پر مجبور کیا جاتا۔ عورت کو طلاق دینے کا رواج اس قدر کثرت سے تھا کہ سنگدل مردوں نے اسے ایک کھیل بنا لیا تھا۔ اس دور میں عورت کو یہ حق حاصل نہیں تھا کہ وہ کسی چیز کی مالک بنے اور اس پر ملکیت کا دعویٰ کرے۔ ان حالات میں دین اسلام عورت کیلئے امن و سکون اور محبت و آشتی کا پیغام بن کر طلوع ہوا۔ اسلام نے عورت پر جو احسانات کئے، اسے جو اعزازات عطا کئے اور جن انعامات سے نوازا، ان کا شمار چند سطوریاصفحات میں ممکن نہیں، لیکن ان میں سے چند ایک امور کا ذکر یہاں ضروری ہے۔

اسلام نے عورت کو مرد کے مقابلے میں مساوات عطا کی اور اچھے اور برے ہونے کے لحاظ سے دونوں کو برابر قرار دیا۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے:

(ترجمہ) ”پس ان کے رب نے ان کی اس درخواست کو منظور کر لیا کہ تم میں سے کسی کے

عمل کو ضائع نہیں کروں گا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت“ (آل عمران: ۱۹۰)

اس فرمان سے اور اسلام کی دیگر بہت سی تعلیمات سے اندازہ ہوتا ہے کہ عورت درجے اور مقام کے لحاظ سے مرد کے برابر ہے۔ چنانچہ جس طرح مرد کے اچھے یا برے اعمال کا بدلہ اسے ملے گا، بالکل اسی طرح کا معاملہ عورت کے ساتھ بھی ہوگا۔

اسلام نے نوزائیدہ بچیوں کو زندہ درگور کرنے سے سختی سے منع کیا، یوں طبقہ نسواں کو ایک نئی زندگی عطا ہوئی، اسلام نے بچی کو رحمت قرار دیا۔ اسلام نے عورت کو بفقہ کا مستحق ٹھہرایا، اور اسے فکر محاش سے آزاد کر کے مرد کو حکم دیا کہ وہ اس کی بود و باش کا بندوبست کرے۔ اسلام نے نکاح کا حکم دے کر اور زنا سے منع کر کے عورت کی عزت و آبرو کو تحفظ فراہم کیا۔ اسلامی شریعت کے مطابق عورت نہ صرف اپنے مال کی

مالک ہو سکتی ہے بلکہ اسے اس میں تصرف اور خرچ کا بھی پورا پورا حق حاصل ہے۔ اسلام نے عورت کو شرف عطاء کرتے ہوئے اس کی گواہی کو بھی قابل اعتبار قرار دیا۔ بلکہ بعض مواقع پر تو صرف عورت ہی کی گواہی معتبر سمجھی گئی۔ اسلام نے عورت کو میراث کا مستحق ٹھہرایا، جبکہ اس سے پہلے وہ اس حق سے محروم رکھی گئی تھی۔ اسلام نے عورت کو تحفظ اور بڑا اعتماد زندگی فراہم کرنے کیلئے طلاق کے معاملہ میں مردوں کو کڑی تنبیہ کی، چنانچہ طلاق کو انتہائی ناپسندیدہ کام قرار دیا گیا۔ پھر اسلام نے عورت کو بحالت مجبوری اپنے شوہر سے خلاصی کیلئے طلع کا حق بھی دیا، کہ وہ چاہے تو اپنے شوہر سے طلعہ بھی لے سکتی ہے۔ اسلام نے عورت کی حفاظت کیلئے اور اس کی عزت و آبرو کو لٹنے سے بچانے کیلئے اسے پردہ کرنے کا حکم دیا، یہ ایک ایسا حکم ہے جس نے عورت کی شخصیت کو محفوظ کر دیا اور اس کی عزت کو بلند کر دیا۔ غرضیکہ اسلام نے عورت کو اپنی حسین تعلیمات کے ذریعہ ایک قابل صدا احترام ماں کا درجہ عطاء کیا، جس کے بیٹے اس کے پیروں تلے جنت کے مٹلاشی رہتے ہیں۔ اس دین نے عورت کو ایک مقدس بہن کا درجہ بخشا، جس کے تقدس کے پیش نظر اس کے بھائیوں کی نظریں اس کے سامنے شرم و حیا کی وجہ سے جھکی رہتی ہیں۔ اسلام نے عورت کو ایک محبوب بیوی کا درجہ عطاء کیا، جسے ایک مسلمان شوہر زندگی بھر پیار بھی دیتا ہے، اس کے ناز و نخرے بھی سہتا ہے، نان و نفقہ بھی برداشت کرتا ہے اور گھر کی ملکہ بھی قرار دیتا ہے۔ اسلام عورت کو ایک ایسی بیٹی کا درجہ بھی دیتا ہے، جو پیدائش سے لے کر جوانی تک مسلمان ماں باپ کی نو نظر بن کر رہتی ہے، اسے پروردگار کی رحمت قرار دیا جاتا ہے، اور جب وہ جوانی کی دہلیز پر پہنچتی ہے تو اس کے والدین اس کیلئے بہترین رشتہ تلاش کر کے، اسے اپنے خرچے پر، حسب استطاعت جھینر دے کر، عزت و توقیر کے ساتھ آنسوؤں کی لڑیاں نچھاور کرتے ہوئے سسرال کی طرف رخصت کرتے ہیں۔

آپ عورت پر دین اسلام کے ان احسانات کو سامنے رکھیں اور پھر اپنے ارد گرد کے معاشرے پر نظر دوڑائیں تو یقیناً آپ کو احساس ہوگا کہ اسلام نے عورت کو کس قدر پاکیزگی، تقدس اور مقام و مرتبہ عطاء کیا ہے۔ لیکن قابل افسوس امر یہ ہے کہ آج مغرب تو دور رہا، خود مسلمانوں کے اندر بہت بڑی تعداد میں ایسے لوگ پیدا ہو گئے ہیں، جو عورت کیلئے نازل شدہ اسلامی احکامات کو حقارت کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں اور انہیں انسانی حقوق اور آزادی نسواں سے متصادم قرار دیتے ہیں۔ خواتین کے حوالے سے جو اسلامی تعلیمات ان لوگوں کی طعن و تعذیب کی زد میں آتی ہیں، ان میں سب سے سرفہرست پردہ کا حکم ہے۔ حالانکہ اسلامی شریعت میں عورت کیلئے پردہ کا حکم انتہائی دو ٹوک اور واضح انداز میں دیا گیا ہے اور اسلامی شریعت

کے تمام مستند وقابل اتباع مجتہدین کا اس کی نوعیت و اہمیت پر اتفاق رہا ہے۔ لیکن اس کے باوجود مغرب سے متاثرہ ذہن رکھنے والے ان لوگوں کے خیال میں پردہ عورت کی غلامی، پسماندگی اور قید کی علامت ہے۔ قابل افسوس یہ ہے کہ ان لوگوں نے کبھی ٹھنڈے دل و دماغ سے یہ نہیں سوچا کہ جس تہذیب سے متاثر ہو کر پردے کو برا بھلا کہتے ہیں، خود اس تہذیب نے بے پردگی کے ہاتھوں کیا کیا رنگ دیکھے ہیں؟ ہم آئندہ سطور میں انہی حقائق کا جائزہ لیں گے۔ لیکن اس سے پہلے یہ وضاحت بھی ضروری ہے کہ اس وقت ہمارے درمیان ایک طبقہ ایسا ہے، جو بظاہر اپنے آپ کو اسلام پسند کہلاتا ہے، لیکن پردے کے حوالے سے اس طبقے کے افراد نے بھی اپنی خود ساختہ تشریحات اپنا کر اسلام کی حقیقی تعلیمات اور ان پر عمل پیرا ہونے والے طالبان کو نشانہ تنقید بنانے کی کوشش کی ہے۔ مثال کے طور پر جماعت اسلامی پاکستان کے ایک نمائندے نے ایک موقع پر طالبان پر تنقید کرتے ہوئے کہا تھا کہ عورتوں کیلئے برقع کو لازمی قرار دینا اسلام کو منفی انداز میں پیش کرنے کے مترادف ہے۔ جماعت اسلامی کے اس ترجمان کا یہ بیان بظاہر طالبان پر چوٹ کرتا ہے، لیکن حقیقت میں یہ براہ راست اسلام پر زد ہے، کیونکہ جو حکم اسلام نے عورت کو دیا ہے، اگر طالبان نے عورت کو اس پر عمل کرنے کیلئے کہا ہے تو طالبان کا یہ حکم واضح طور پر اسلامی تعلیمات کے مطابق ہے اور اس پر تنقید کرنا گویا کہ اسلام کی تعلیمات ہی کو ہدف بنانے کے مترادف ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ایسے ہی لوگوں کی طرف سے پیش کردہ اسلامی احکامات کی من مانی تشریحات نے مغربی طبقوں کو اسلامی تعلیمات کے خلاف آواز اٹھانے کا موقع فراہم کیا ہے اور پھر جماعت اسلامی کے ایک نمائندے کی طرف سے ایسا بیان اس لئے بھی معجزہ خیز ہے، کیونکہ ہانی جماعت سید ابوالاعلیٰ مودودی خود پردہ کے موضوع پر ایک وسیع کتاب تصنیف کر چکے ہیں۔ ہماری معلومات کے مطابق جماعت اسلامی پاکستان خود بھی خواتین کے پردے کی حامی ہے، اور اس سے تعلق رکھنے والی بیشتر خواتین نقاب کی حد تک پردہ کرتی ہیں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر پردہ کرنا واقعی ایک مستحسن قدم ہے تو پھر اگر کوئی حکومت سرکاری طور پر اپنے ملک کے معاشرے سے بے پردگی سے پیدا ہونے والے فتنوں کو روکنے کیلئے خواتین کو اس کا حکم دیتی ہے تو اس میں کیا حرج ہے؟ اور پھر اگر کوئی اس حکم کو پامال کر کے معاشرہ میں فساد پھیلانے کی کوشش کرے تو اسے مناسب طور پر سنبھالنے میں کیا مضائقہ ہے؟ یہی وہ سوالات ہیں جو جماعت اسلامی کی

اسلام پسندی اور نفاذ اسلام کے حوالے سے اس کے دعوؤں کو منطقی قرار دیتے ہیں۔

خواتین کے حوالے سے اسلامی تعلیمات کے بعد ہم اس بات کا جائزہ لیں گے کہ افغان معاشرہ اور

افغانستان کی قومی روایات کے مطابق خواتین کا بود و باش کیسا رہا ہے اور یہ ملک اور اس کی تہذیب و ثقافت خواتین سے کن امور کا تقاضہ کرتے ہیں۔ برطانوی مصنف پیٹر مارٹن افغان معاشرے میں عورت کی حیثیت اور ذمہ داریوں کا ذکر ان الفاظ میں کرتے ہیں:

”یہاں کی قبائلی روایات میں عورتوں کی ذمہ داریوں میں ان کے بحیثیت ماں اور بیوی کے فرائض کے علاوہ کاشت کاری کے بعض کام، مویشیوں کی دیکھ بھال اور دستکاری شامل ہیں۔ مردوں کے ذمہ کھیتی باڑی کے دیگر کام، بچوں کی نگہداشت اور بازار سے سودا سلف لانا ہوتا ہے۔ عورتوں کی ایک ذمہ داری یہ بھی ہے کہ وہ مذہب اسلام کو اگلی نسل تک پہنچائیں۔ پشتونوں میں عورتوں کا تحفظ معاشرے کے تحفظ سے جڑا ہوا ہے۔ پشتون ولی کے تحت عورت کی عزت معاشرے کی عزت سمجھی جاتی ہے۔ اگر ایک قبیلے کی عورت کی بے حرمتی دوسرے قبیلے والا کر دے تو انتقام ناگزیر ہو جاتا ہے۔ افغانستان کے وسطی اور شمالی علاقوں پر وسطی ایشیا کے ملکوں کے کافی اثرات ہیں کیونکہ وہاں کے خاصے باشندے ان علاقوں میں آباد ہیں۔ ترکمان عورتیں بہت کم باہر نکلتی ہیں۔ اسی طرح ہزارہ، ازبک اور تاجک عورتیں بھی ذرا کم ہی نقل و حرکت کرتی ہیں البتہ خانہ بدوش عورتیں آزادانہ گھومتی پھرتی ہیں۔ ان پر کسی پابندی کا اطلاق نہیں ہوتا۔ جہاں تک لباس کا تعلق ہے سارے افغانستان میں خواتین شلوار قمیض پہنتی ہیں البتہ اوپر سے چادر لیتی ہیں۔ بڑھکے کاروان شہروں میں زیادہ ہے۔ دیہات کی عورتیں بھی اسے نفاست کی علامت سمجھنے لگیں اس لئے وہاں بھی بڑھکے استعمال بڑھ گیا۔ افغانستان کے جنوبی صوبوں میں بڑھکے کاروان زیادہ پایا جاتا ہے اور شمال میں کم ہے۔“

پیٹر مارٹن کی بیان کردہ ان تفصیلات سے معلوم ہوتا ہے کہ افغان معاشرے میں عورت کی تقریباً وہی حیثیت رہی ہے، جو اسلام نے اس صنف نازک کو دی ہے، تاہم کچھ ایسی باتیں اس معاشرے میں بھی بہر حال موجود تھیں، جو اسلامی تعلیمات سے تضادم تھیں، ایسی رسومات اور روایات کو طالبان نے آ کر ختم کر دیا اور معاشرے کو صحیح اسلامی رخ پر ڈال دیا۔ مثال کے طور پر طالبان سے قبل افغان معاشرے میں

عورت کو دیت، ہر جانے اور صلح وغیرہ کے عوض دینے کا رواج تھا، اسی طرح یہ بھی تھا کہ اگر عورت کا شوہر مرنے لگا تو اس عورت کو سسرال ہی میں دوسری شادی پر مجبور کیا جاتا، یہ رسم و رواج سراسر حقوق نسواں کے خلاف تھے، چنانچہ طالبان نے ان کا خاتمہ کیا اور اس بارے میں مندرجہ ذیل حکم جاری کیا:

”جیسا کہ شریعت میں عورت کی عزت و عصمت کے مستقل حقوق ہیں جن پر عمل پیرا ہونے سے عورت کی عزت و عصمت محفوظ رہتی ہے، مگر افغان معاشرے میں بے انصافی پر مبنی غیر شرعی رسم و رواج کے تحت عورت اپنے حقوق سے محروم اور مختلف مظالم کا شکار ہے۔ اس قسم کے مظالم کے سدباب کیلئے مندرجہ ذیل دفعات منظور کی جاتی ہیں:

(۱)..... ملک کا کوئی بھی شخص عورت کو دیت، ہر جانہ اور صلح وغیرہ میں ہرگز نہیں دے سکتا۔

(۲)..... (الف) کسی بھی مسلمان کو اجازت نہیں کہ بیوہ عورت کو خاندان سے گھرانے ہی میں نکاح

کرنے پر مجبور کرے۔

(ب) شرعی اصول کے مطابق بیوہ اپنی مرضی سے نکاح کر سکتی ہے۔

(۳)..... امارت اسلامیہ کے بچوں اور ذمہ داروں کو اجازت ہے کہ درج بالا دفعات کی خلاف

ورزی پر سخت سزا دیں۔

اب ہم مختصر طور پر پھر یہ ذکر کریں گے کہ وہ مغربی ممالک جن کی طرف سے طالبان ہمیشہ ہی حقوق نسواں کے حوالے سے مورد الزام ٹھہرائے جاتے رہے ہیں۔ خود ان میں ”آزادی نسواں“ کی کیفیت کیا ہے؟ ان حقائق کو پڑھ کر ایک تو آپ کے سامنے مغربی دنیا کے چہرے کی دورخی واضح ہوگی، کہ جو ممالک طالبان کو عورتوں کے حقوق کی خلاف ورزی کا طعنہ دے رہے ہیں، خود وہاں کی عورتیں کیسی زندگیاں گزار رہی ہیں ان حقائق کیلئے پڑھ کر آپ کو یہ اندازہ لگانا بھی دشوار نہیں رہے گا کہ طالبان نے خواتین کے حوالے سے جو قوانین نافذ کئے اور جو پالیسیاں اختیار کیں، وہ اس دور کے تقاضوں کے لحاظ سے درست تھیں یا غلط؟

۱۹۸۷ء میں، امریکہ میں تیار ہونے والی ایک سروے رپورٹ کے مطابق ۹۷ فیصد امریکی مرد

عورتوں کو زد و کوب کرتے ہیں، خاص کر اپنی بیویوں کو۔ اس رپورٹ کے مطابق امریکہ میں بیویوں کو

مارنے پینینے کار۔ حمان بہت زیادہ پایا جاتا ہے، خاص طور پر یونیورسٹی کے طلباء میں۔ ایک اور رپورٹ کے مطابق امریکی اسپتالوں کے ایمرجنسی وارڈ میں جو عورتیں علاج کیلئے لائی جاتی ہیں۔ ان میں سے ۱۷ فیصد ایسی ہوتی ہیں جنہیں ان کے شوہروں یا بوائے فرینڈز نے مار پیٹ کر زخمی کیا ہوتا ہے اور باقی ۸۳ فیصد عورتیں بھی کم از کم ایک مرتبہ ایسے زخموں کے علاج کیلئے ضرور اسپتال آتی ہیں۔ ”ایون اسٹاک“ نامی امریکی صحافی خاتون نے ایک رپورٹ تیار کی جس میں نفسیاتی اسپتالوں میں آنے والی مریض عورتوں کے ۱۳۶۰ ریکارڈز چیک کرنے کے بعد بتایا گیا کہ دیگر حادثات میں زخمی ہونے والی عورتوں کی نسبت ان بد قسمت عورتوں کی تعداد کہیں زیادہ ہے جو مردوں کے ہاتھوں مار کھا کھا کر نفسیاتی مریضہ بن جاتی ہیں، یا زخمی ہو جاتی ہیں۔ ایک اور امریکی محقق خاتون ”جنیس مور“ کا کہنا ہے کہ یہ ٹریجڈی امریکہ میں خطرناک حدود کو چھو رہی ہے۔ لیکن امریکہ کا کوئی بھی حصہ ان مردوں سے خالی نہیں جو اپنی عورتوں کو بری طرح مارتے ہیں جس کے نتیجے میں علاج کیلئے ہزاروں عورتوں کو اسپتال میں داخل ہونا پڑتا ہے۔ اس مار پیٹ کے نتیجے میں عورتوں کو مختلف قسم کی چوٹیں آتی ہیں۔ جیسے آنکھوں کے گرد نیل کے نشانات، ہڈی میں فریکچر، جلنے کے نشانات، خنجر زنی اور فائرنگ کے نتیجے میں آنے والے زخم اور لوہے، لکڑی کی ضرب سے وجود میں آنے والی مختلف قسم کی چوٹیں۔ جنیس مور کے مطابق امریکہ میں ہر سال تقریباً ساٹھ لاکھ عورتیں اپنے گھروں میں مار پیٹ کا شکار ہوتی ہیں۔

جرمنی کی ایک رپورٹ کے مطابق ہر سال تقریباً ایک لاکھ جرمن عورتیں اپنے شوہروں اور بوائے فرینڈز کی جسمانی اور نفسیاتی اذیت کا شکار بنتی ہیں۔ بعض محققین ایسی بد نصیب جرمن عورتوں کی تعداد دس لاکھ تک بتاتے ہیں۔

فرانس میں ہر سال بیس لاکھ عورتیں مار پیٹ اور تشدد کا نشانہ بنتی ہیں جس کے بارے میں فرانسیسی پولیس کا کہنا ہے کہ یہ واقعات فرانس کے تقریباً ۱۰ فیصد خاندانوں میں پیش آتے ہیں۔ حقوق نسواں کے تحفظ کی علم بردار فرانسیسی خاتون ”میٹیل آندرے“ کا کہنا ہے کہ یہاں پر جانوروں کے ساتھ عورتوں سے زیادہ اچھا برتاؤ ہوتا ہے کیونکہ مثال کے طور پر یہاں اگر کسی آدمی نے سڑک پر کسی کتے کی پٹائی کر دی اور اسے مارا تو کوئی نہ کوئی شخص ضرور اس معاملہ سے متعلق ذمہ دار افراد کے پاس شکایت لیکر پہنچ جاتا ہے۔ جبکہ برخلاف اس کے، اگر سڑک پر کوئی آدمی اپنی بیوی کو مارتا نظر آ جائے تو کوئی نظر اٹھا کر دیکھنے تک کی زحمت نہیں کرتا، کوئی کارروائی کرنا تو دور کی بات ہے۔ فرانس کے متعلق ایک رپورٹ میں، جو

فرانسیسی پولیس کے تعاون سے تیار کی گئی، بتایا گیا کہ فرانس میں مارپیٹ اور تشدد کے ۹۳ فیصد واقعات میاں بیوی کے درمیان پیش آتے ہیں۔

برطانیہ میں کئے گئے ایک سروے کی رپورٹ کے مطابق عورتوں کے خلاف تشدد کے واقعات ایسے ہوتے ہیں جن میں شوہر اپنی بیویوں کو بغیر کسی معقول وجہ سے مارتے ہیں۔ اسی رپورٹ کے مطابق ایک عورت نے بیان دیا کہ اس کی شادی کو ساڑھے تین سال ہو چکے ہیں اور وہ تقریباً ہر روز اپنے شوہر کے ہاتھوں بٹتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ اگر میں کسی قسم کا احتجاج کرتی ہوں تو وہ مجھے پھر مارتا ہے، لہذا مجھے خاموشی میں ہی عافیت محسوس ہوتی ہے اور وہ مجھے مارنے کیلئے مختلف طریقے آزما رہا ہے۔ کبھی طمانچہ، تو کبھی لائٹس اور گھونے اور کبھی میرا سر دیوار سے دے مارتا ہے۔ اس طرح تشدد کے نتیجے میں کئی عورتوں کی پسلیاں ٹوٹ چکی ہیں۔ بعض مرد تو اتنے جنونی ہوتے ہیں کہ وہ مارپیٹ کے دوران اپنی بیویوں کی گردن پکڑ کر اس پر اتنا دباؤ ڈالتے ہیں کہ اس کا دم گھٹ جاتا ہے اور بعض اپنی بیویوں کے جسم کو سگریٹ سے داغتے ہیں اور مزہ لیتے ہیں۔ کچھ لوگ اپنی بیویوں کو زنجیروں سے جکڑ کر کمرے میں بند کر دیتے ہیں۔

کینیڈا میں تقریباً ڈیڑھ لاکھ شوہر ایسے ہیں جو اپنی بیویوں کو مارتے ہیں اور ملک کے اجتماعی اور ثقافتی مرکز ان واقعات کو اپنے ملک کیلئے بدنام داغ گردانتے ہیں۔

یہ چند ادنیٰ سی جھلکیاں ہیں، اس مغربی دنیا میں بسنے والی خواتین کی حالتِ زار کی، جو حقوق نسواں اور آزادی نسواں کی سب سے بڑی علمبردار کہلاتی ہے۔ ان حقائق کو پڑھ کر جہاں ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ مغربی دنیا میں عورت کی آزادی کی کیفیت کیا ہے۔ وہاں ہمیں یہ احساس بھی ہوتا ہے کہ مغربی عورت کو اس قدر بدتر انجام تک پہنچانے میں سب سے اہم کردار ”تہذیب جدید“ کا ہے، جس نے عورت کو آزادی، ملازمت، تعلیم اور ترقی کے سبز باغات دکھا کر بے پردہ کیا، اور اس سے اس کی عصمت، عفت اور عزت گویا کہ سب کچھ چھین لیا۔

یہاں اس حقیقت کا ذکر بے جا نہ ہوگا کہ اسلام کی حسین تعلیمات کی بنیاد یہ ہے، کہ وہ فرد اور معاشرہ دونوں کی اصلاح چاہتا ہے، جبکہ مغربی تہذیب صرف اور صرف فرد کو آزادی فراہم کرنے کی خواہشمند ہے۔ پھر اس آزادی کے نتائج کیا نکلتے ہیں؟ مغربی تہذیب کی بنیادیں استوار کرنے میں اس امر کا کوئی لحاظ نہیں رکھا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام اپنے پیروکاروں کو ایسے ہر کام سے رکنے کا حکم دیتا ہے، جو بظاہر برے نہ ہوں، لیکن برائی کی طرف لیجاتے ہوں، جبکہ مغربی تہذیب فرد کی آزادی کے حق کے نام پر اسے

کسی بھی کام سے یہ سوچ کر نہیں روکتی کہ یہ کام بڑا ہے یا برائی کی طرف لیجاتا ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ ایک صحیح مسلم معاشرے میں برائی کا ذریعہ بننے والے کام بھی ممنوع قرار پاتے ہیں، اور مغربی دنیا میں برائیوں کے عام طور پر پھیل جانے کے بعد ان کے نتائج کی روک تھام کی بے سود کوششیں کی جاتی ہیں۔ جیسا کہ آج کئی مغربی ممالک میں حرام طور پر پیدا ہونے والے بچوں کی تعداد میں کمی کرنے اور شراب نوشی وہم جنس پرستی جیسے جرائم پر قابو پانے کیلئے سرتوڑ جدوجہد کی جا رہی ہے، مگر یہ سب محنت بے فائدہ نظر آتی ہے، کیونکہ مغربی دنیا اب بھی اسی تہذیب کی پیروکار بلکہ داعی ہے، جس نے انہیں یہ بڑے دن دکھائے ہیں۔

یہاں یہ امر بھی ضروری ہے کہ اس بات کی وضاحت کر دی جائے کہ طالبان کے ظہور سے قبل افغان عورت کیسی زندگی بسر کر رہی تھی، اور افغانستان میں خواتین کن حالات سے دوچار تھیں؟ مشہور طالبان مخالف مصنف احمد رشید اپنی کتاب ”طالبان“ میں لکھتے ہیں:

”بہر حال افغان عورتوں اور افغان معاشرے کی بد حالی، طالبان کے آنے سے پہلے شروع ہو چکی تھی۔ بیس برس کی مسلسل جنگ نے افغان معاشرے کو سچ کر کے رکھ دیا تھا۔ نسلی برادری اور خاندانی ڈھانچہ جو مصیبت اور اقتصادی شائد سے بچانے کا وسیلہ بنتا تھا، تباہ ہو گیا تھا۔ افغانستان انسانی احوال کے حوالے سے دنیا کا سب سے مفلوک الحال ملک بن گیا۔ ایک ہزار نو زائیدہ بچوں میں سے ۶۳ زائدہ نہیں بچتے، ۱۸ فیصد کی یہ شرح دنیا بھر میں سب سے زیادہ ہے۔ دوسرے ترقی پذیر ملکوں میں شرح ۱۰۰۰ میں سے ۷۰ ہے۔ ایک چوتھائی بچے پانچ برس کی عمر کو پہنچنے سے پہلے ہی مر جاتے ہیں۔ ترقی پذیر ملکوں میں یہ تناسب ایک اور دس کا ہے۔ ایک لاکھ عورتوں میں سے ۷۰۰ از چگی کے دوران ہی موت کے منہ کا نوالہ بن جاتی ہیں۔ مرد اور عورتیں بمشکل ۴۳، ۴۴ برس کی عمر کو پہنچ پاتے ہیں۔ جبکہ دوسرے ترقی پذیر ملکوں میں مردوں اور عورتوں کی اوسط عمر ۶۱ برس ہے۔ ۲۹ فیصد لوگوں کو طبی امداد، ۱۲ فیصد کو پینے کا صاف پانی میسر ہے۔ ترقی پذیر ملکوں میں یہ تناسب ۸۰ اور ۷۰ کا ہے۔ بچوں کی اموات کا سبب خسرہ اور اسہال ایسی بیماریاں ہیں، جن کا باآسانی علاج بھی ہو سکتا ہے اور جن سے مناسب پرہیز سے بچا بھی جاسکتا ہے۔ لیکن یہاں طبی امداد کا انتظام

ہے اور نہ ہی صاف پانی میسر ہے، اس لئے بچوں کی شرح اموات اتنی زیادہ ہے۔ طالبان کے آنے سے پہلے ۹۰ فیصد لڑکیوں اور ۶۰ فیصد لڑکوں کی تعلیم کا کوئی انتظام نہیں تھا۔ وہی علاقوں میں حالت اور بھی ابتر تھی۔“

احمد رشید نے اسی کتاب میں طالبان کی آمد سے پہلے افغانستان کی صورتحال بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اس دور میں افغانستان کے جنگی سردار من مائیاں کرتے تھے، وہ اپنی جنسی اور نفسیاتی تسکین کیلئے نوجوان لڑکیاں اور لڑکے اغوا کر لیتے تھے۔

ایک اور طالبان مخالف مغربی مصنفہ کرسٹینا لمب اپنی کتاب ”طالبان کا افغانستان“ میں اس صورتحال کا تجزیہ ان الفاظ میں کرتی ہے:

”اس سے بھی بڑی مصیبت جبری عصمت دری کے واقعات تھے۔ کوئی بھی اپنے گھر میں سکون کی نیند نہیں سو سکتا تھا۔ نوجوان لڑکیوں اور لڑکوں کو جبراً اٹھالیا جاتا تھا اور ان سے انسانیت سوز سلوک کیا جاتا تھا۔ بہت سے لوگوں نے خوفزدہ ہو کر بچوں کو اسکول بھیجا بند کر دیا تھا۔“

ان تفصیلات سے معلوم ہوتا ہے کہ طالبان کے ظہور سے قبل افغان عورت انتہائی کمپرسی کی زندگی گزار رہی تھی اور اس دور میں اسے جان و مال اور عزت و آبرو کا کوئی تحفظ حاصل نہیں تھا۔ لیکن حیرت انگیز بات یہ ہے کہ اس دور میں بین الاقوامی ذرائع ابلاغ، میڈیا اور مغربی ممالک نے افغان عورت کے حقوق و تحفظ کیلئے نہ کوئی آواز اٹھائی اور نہ ہی افغانستان کی تباہ حال عورت کی حالت سدھارنے کیلئے کوئی اقدامات کئے گئے، اس کے برعکس جب طالبان نے منظر عام پر آنے کے بعد عورت کو تحفظ اور عزت فراہم کی، تو افسوسناک طور پر مغربی دنیا نے طالبان کی ان پالیسیوں اور اقدامات کو سراہنے کی بجائے نشاۃ تنقید بنانا شروع کر دیا۔ مغربی ممالک کا یہ رویہ ایک درمیانی سوچ رکھنے والے ذہن میں بھی ان کے کردار کے حوالے سے بہت سے شکوک و شبہات کو جنم دیتا ہے۔

آئیے! اب ہم طالبان کے ان اقدامات کا جائزہ لیتے ہیں جو انہوں نے خواتین کے حوالے سے کئے، اور وہ پالیسیاں اور قوانین جو ان کی حکومت نے عورتوں کیلئے جاری کیں۔

یہ ایک حیرت انگیز مگر خوشگوار حقیقت ہے کہ مغربی دنیا جن طالبان کو حقوق نسواں کے عاصب اور عورتوں کے دشمن قرار دیتی رہی ہے، ان کی تحریک کے ابتدائی ظہور کی بنیاد ہی عورت کے تحفظ کیلئے جنگ

تھی۔ تحریک طالبان کے منظر عام پر آنے کے ایسے تو بہت سے عوامل بیان کئے جاسکتے ہیں، لیکن طالبان کی سب سے پہلی جنگی کارروائی کا سبب جو واقعہ بنا تھا، اسکی تفصیلات احمد رشید کے الفاظ میں یہ ہیں:

”ملا عمر نے طالبان کے چھوٹے سے گروہوں کو کس طرح قندھار کے جنگی

سرداروں کے خلاف صف بستہ کیا، اس کے بارے میں اب طرح طرح کی

کہانیاں مشہور ہیں۔ سب سے قابل اعتبار کہانی جو اکثر دہرائی جاتی ہے یہ ہے کہ

۱۹۹۳ء کے موسم بہار میں سنکسیر میں چند بڑوسی انہیں یہ بتانے آئے کہ ایک

کمانڈر نے دو نو عمر لڑکیوں کو اغوا کر لیا ہے، ان کے سر موٹہ دیئے ہیں اور ایک فوجی

کیمپ میں لے جا کر ان سے کئی بار بد اخلاقی کی ہے۔ ملا عمر نے ۳۰ طلبہ کو ساتھ لیا

اور اسی حالت میں کہ ان کے پاس صرف سولہ رائفلیں تھیں، فوجی کیمپ پر حملہ

کر دیا، لڑکیوں کو چھڑا لیا اور کمانڈر کو جس نے انہیں اغوا کیا تھا اور ان کے ساتھ

زیادتی کی تھی، توپ کی نالی کے ساتھ لٹکا کر پھانسی دے دی۔ یہاں سے انہیں

خاصی بڑی مقدار اور تعداد میں گولہ بارود اور ہتھیار ہاتھ لگے، بعد میں ملا عمر نے کہا

کہ ہم ایسے نام نہاد مسلمانوں کے خلاف لڑ رہے ہیں جو غلط راہ پر چلنے لگے ہیں۔

ہم عورتوں اور غریبوں کے خلاف جرائم ہوتے دیکھ کر خاموش نہیں رہ سکتے۔“

یہی واقعہ کرشینا لیمب نے بھی ”طالبان کے افغانستان“ میں ذکر کیا ہے۔

اسی دور کا ایک اور واقعہ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ قندھار کے نواح میں ایک شخص کی بیوی دروزہ میں

جتلا تھی، انتہائی ہنگامی صورتحال میں وہ شخص اسے رات کے وقت شہر کے کسی اسپتال میں لے جا رہا تھا کہ

راتے میں پھانک لگا کر بیٹھے ہوئے ایک جنگی سردار کے اہلکاروں نے اسے روک لیا، اور پھر جب اس

سردار کو صورتحال کا پتہ چلا تو اس نے زبردستی کر کے اس مجبور عورت کو گاڑی سے اتار کر اپنے پاس ٹھہرا لیا۔

اس سنگدل شخص کا کہنا تھا کہ اس نے کبھی بچے کی پیدائش کا منظر نہیں دیکھا، لہذا وہ آج یہ منظر دیکھنا چاہتا

ہے۔ پھر اس نے ایسا ہی کیا، لیکن صبح ہونے سے پہلے ہی وہ عورت اور اس کا نوزائیدہ بچہ دم توڑ چکے

تھے۔ مظلوم عورت کا بے بس شوہر امداد کا طالب بن کر ملا محمد عمر کے پاس آیا، اور انہوں نے اس پر ہونے

والے ظلم کے جواب میں اس جنگی سردار کے خلاف اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر کارروائی کی۔ اس جنگی

کمانڈر کا نام فتح علی تھا۔

ایسے ہی واقعات کا سدباب کرنے کیلئے طالبان نے جب قندھار شہر پر باقاعدہ قبضہ کر لیا، تو انہوں نے شہر کی عوام کیلئے جو اصلاحی اعلانات اور ہدایات جاری کیں، ان میں عورتوں سے کہا گیا کہ وہ گھروں سے برقع پہن کر نکلا کریں۔ طالبان کا موقف یہ تھا کہ عورت کے بے پردہ ہو کر گھر سے نکلنے سے نہ صرف یہ کہ اسلامی احکامات پامال ہوتے ہیں، بلکہ ان سے معاشرے میں ایسا فساد بھی جنم لیتا ہے جو مذکورہ بالا افسوسناک واقعات کے رونما ہونے کا باعث بنتا ہے۔ طالبان کی طرف سے خواتین کیلئے پردہ کرنے کا حکم چونکہ افغان روایات کے بھی عین مطابق تھا، چنانچہ عوامی سطح پر اسے قبول کیا گیا اور خواتین نے اس کا پورے طور پر اہتمام کیا۔ لیکن دوسری جانب مغربی حلقوں میں اب اس تشویش کا نظہار کیا جانے لگا کہ طالبان نے عورتوں کو گھروں میں قید کر دیا ہے، اور ان پر پردے کی پابندی عائد کر کے انہیں اجتماعی معاشرے میں شامل ہونے سے روک دیا ہے۔ مغربی حلقوں کی یہ تشویش اس وقت تو اس قدر کھل کر سامنے نہیں آئی، کیونکہ اول تو قندھار کے علاقے میں مغربی اداروں کی کوئی خاص سرگرمیاں تھیں ہی نہیں اور پھر دوسری وجہ یہ بھی تھی کہ اس وقت تک کسی کو یہ وہم و گمان بھی نہ تھا کہ قندھار کے افغانوں سے رونما ہونے والا طالبان کا یہ چھوٹا سا گروہ ان جنگی سرداروں کو شکست دے کر آگے بڑھتا چلا جائے گا، جنہوں نے برسہا برس سے افغانستان کے طول و عرض کو اپنی خوبی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔

لیکن جب ستمبر ۱۹۹۵ء میں طالبان نے ہرات کو فتح کیا تو مغربی حلقوں کی طرف سے یکدم بہت تیزی سے طالبان کے بارے میں یہ آوازیں اٹھانی جانے لگیں کہ وہ عورتوں کے ساتھ ناانسانی کر رہے ہیں، انہیں تعلیم سے محروم رکھ رہے ہیں اور گھروں میں قید کر رہے ہیں۔ حالانکہ حقیقت یہ تھی کہ طالبان نے ہرات کی فتح کے بعد عورتوں کیلئے وہی اصلاحات جاری کی تھیں، جو انہوں نے قندھار میں کی تھیں، لیکن فرق یہ تھا کہ ہرات کا نیا معاشرہ اپنے اوپر جدت پسندی کی گہری چھاپ رکھتا تھا، اور پھر یہ علاقہ ایران کے پڑوس میں تھا، جہاں شیعہ انقلاب کے بعد شیعہ مذہب کی شریعت کا اس طرح نفاذ کیا گیا تھا کہ اس سے کسی قسم کے سیاسی اور مادی مفادات پر زدنہ پڑے۔ چنانچہ ایرانی حکومت نے اپنے ہاں کی عورتوں کو پردہ کی ہدایت تو کر رکھی تھی، لیکن عورت کی حفاظت اور معاشرے کی اصلاح کیلئے پردے کی نوعیت اور صورت کیا ہونی چاہئے، ایرانی حکومت کو اس سے غرض نہیں تھی، کیونکہ ان کے خیال میں ایسا کرنے سے وہ مغربی دنیا کی نظر میں تنگ نظر ٹھہرائے جاتے، اور پھر انہیں بھی ویسی ہی مخالفت کا سامنا کرنا پڑتا، جیسی مخالفت کا سامنا طالبان کر رہے تھے۔ اسی ”مصلحت“ کے پیش نظر ایران نے اپنے ہاں

خواتین کو ایک بہت محدود قسم کے پردے کا پابند کیا، اور چونکہ نئی ایرانی حکومت کی پیشانی پر اسلامی انقلاب کا لیبل چسپاں تھا، لہذا اسی محدود پردے کو ”اسلامی پردے“ کا نام دیدیا گیا۔ ہرات پر ایران کے ان نظریات کا کافی حد تک اثر تھا، چنانچہ جب طالبان نے یہاں باقاعدہ اسلامی شریعت کی رو سے تلقین کردہ پردہ کو لازمی قرار دیا، تو مغربی حلقوں میں اسے شدت سے محسوس کیا گیا اور پھر افغانستان میں موجود غیر ملکی این جی اوز اور مغربی حکومتوں کی جانب سے باقاعدہ طور پر، طالبان پر عورتوں کے حقوق غصب کرنے کے الزامات عائد کئے جانے لگے۔

طالبان نے ہرات کی فتح کے بعد یہاں خواتین کے حوالے سے جو اصلاحات جاری کیں، وہ یہ تھیں:

۱۔ خواتین اپنے گھروں سے باہر بے پردہ حالت میں نہیں نکل سکتیں۔

۲۔ خواتین کسی اجنبی شخص کے ساتھ سفر نہیں کر سکتیں۔

۳۔ خواتین ملازمت نہیں کر سکتیں، البتہ جو خواتین ضرورت مند ہیں، انہیں حکومتی بیت المال سے

ماہانہ ادائیگی و وظائف جاری کئے جائیں گے۔

۴۔ خواتین کی تعلیم کیلئے قائم کئے جانے والے جدید مغربی طرز کے اسکول تا حکم مانی بند کر دیئے

گئے، اور طالبات سے کہا گیا کہ وہ گھروں میں رہ کر حسب ضرورت دینی تعلیم حاصل کریں اور گھریلو فنون

میں دسترس حاصل کریں۔

۵۔ خواتین کو تلقین کی گئی کہ وہ بلا ضرورت کسی اجنبی مرد ڈاکٹر سے علاج نہ کروائیں اور اگر ضرورت

پڑے تو باپردہ ہو کر علاج کروائیں۔

ان احکامات میں سے بعض ایسے تھے جو محض وقتی طور پر ضرورت کے تحت نافذ کئے گئے، جبکہ بعض

مستقل تھے۔ مثال کے طور پر عورتوں کیلئے باپردہ ہو کر گھروں سے نکلنے کا حکم مستقل تھا، اور اس سلسلہ میں

طالبان کسی بھی قسم کی رعایت دینے کیلئے تیار نہیں تھے۔ کیونکہ یہ ایک اسلامی حکم تھا اور طالبان اسلامی

شریعت سے کسی صورت بھی دستبردار ہونے کیلئے تیار نہیں تھے، لیکن دیگر احکامات ایسے تھے جو وقتی طور پر

نافذ کئے گئے۔ چنانچہ طالبان نے اس بات کی یقین دہانی کرائی تھی کہ عورتوں کے ملازمت کرنے یا تنہا

سفر کرنے پر پابندی صرف اس وقت تک ہے جب تک عورتوں اور مردوں کی ملازمت کے جداگانہ دفاتر

اور سفر کی علیحدہ سہولت مہیا نہیں ہو جاتی۔ انہوں نے انسانی فلاحی اداروں کو بھی اجازت دے دی تھی کہ وہ

اپنے یہاں افغان خواتین کو ملازم رکھ سکتے ہیں بشرطیکہ ان کے معاملات صرف خواتین کی حد تک ہوں۔

اسی طرح خواتین کی تعلیم کا معاملہ تھا، پیٹر مارسڈن لکھتے ہیں:
 ”جہاں تک خواتین کا تعلق ہے طالبان ان کو تعلیم دینے کے خلاف نہیں
 ہیں لیکن ان کا کہنا ہے کہ جب پورا افغانستان ان کے کنٹرول میں آ جائے گا
 تب وہ علماء کی ایک کمیٹی بنائیں گے جو نیا نصاب مرتب کرے گی۔ اس کے بعد
 ہی لڑکیوں کی تعلیم شروع ہو سکے گی۔“

یہاں یہ بھی واضح رہے کہ طالبان نے اپنے ابتدائی دور میں جدید تعلیم کے اسکول اس لئے بند
 کر دیئے تھے کیونکہ افغانستان میں طالبان کی آمد سے قبل مغربی امدادی ادارے جس تعلیمی نصاب کو
 جاری کئے ہوئے تھے وہ مشترکہ طور پر امریکہ کی اوماہا یونیورسٹی اور پاکستان میں قائم شدہ سابقہ مجاہدین کی
 عبوری حکومت نے مرتب کیا تھا۔ اس کے اخراجات امریکی امداد سے پورے ہوتے تھے۔ یہ امدادی
 ادارے اسکولوں کو کتابیں بھی فراہم کرتے تھے اور اسکولوں کی عمارتوں کی دیکھ بھال اور اساتذہ کی
 تنخواہیں بھی ادا کرتے تھے۔

عورتوں کی تعلیم کے سلسلہ میں طالبان کا موقف یہ بھی تھا کہ تعلیم لازمی ہے، نہ کہ اس کے حصول
 کے ذرائع، لہذا حسب ضرورت تعلیم تو بچیوں کو گھروں میں رکھ کر بھی دی جاسکتی ہے۔ مغربی اداروں کی سر
 پرستی میں قائم شدہ اسکولوں میں دی جانے والی تعلیم کے بارے میں طالبان کا موقف ان کے اٹارنی
 جنرل مولوی جلیل الدولہ مولوی زادہ نے ان الفاظ میں بیان کیا:

”ہمارا موقف یہ ہے کہ جس نوع کی تعلیم اقوام متحدہ چاہتی ہے، وہ ایک
 ملحدانہ تعلیم ہے، جو عورتوں کو بے حیائی سکھاتی ہے اور حرام کاری کی طرف لے
 جاتی ہے۔ اس سے اسلام کیلئے تباہی کی صورت پیدا ہو جاتی ہے۔ کسی بھی
 اسلامی ملک میں جہاں حرام کاری عام ہو جاتی ہے، وہ ملک تباہ ہو جاتا ہے
 اور ملحدوں کے قبضے میں چلا جاتا ہے کیونکہ وہاں کے مرد عورتوں کی طرح بن
 جاتے ہیں اور عورتیں اپنا دفاع نہیں کر سکتیں۔ جسے بھی ہم سے بات کرنی ہے،
 اسلامی حدود میں رہتے ہوئے بات کرے، قرآن مجید لوگوں کے مطابق اپنے
 آپ کو نہیں ڈھال لیتا بلکہ لوگوں کو چاہئے کہ وہ اپنے آپ کو قرآن کے مطابق
 ڈھالیں اور قرآن کے تقاضے پورے کریں۔“

عورتوں کی تعلیم کے حوالے سے وزارت امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا بل کے سربراہ مولوی کلام الدین نے ایک مرتبہ کہا کہ ”ایک مسئلہ تو حفاظت اور سلامتی کا ہے۔ عورتوں کیلئے علیحدہ ٹرانسپورٹ کا بھی بندوبست نہیں۔ اسکولوں کیلئے علیحدہ عمارتیں بھی نہیں، عورتوں کو تعلیم دینے کیلئے جن سہولتوں کی ضرورت ہے، ان کا بھی فقدان ہے، عورتیں، مردوں سے مکمل طور پر علیحدہ ہونی چاہئیں، ہم میں ایسے مرد بھی موجود ہیں، جو عورتوں سے اچھی طرح پیش نہیں آتے۔ سوویت یونین کے خلاف جنگ میں ہم نے اس لئے بیس لاکھ جانیں گنوائی ہیں کہ ہم شرع کے پابند نہیں تھے۔ طالبان نے شریعت کیلئے جنگ لڑی ہے، وہ شریعت نافذ کرنے کے پابند ہیں۔ چاہے جو کچھ ہو، ہم یہ مقصد پورا کر کے رہیں گے۔“

باقی رہا شعبہ صحت کا معاملہ، تو اس سلسلہ میں خواتین کی شرکت ایک مجبوری تھی، جسے طالبان نے خوشدلی سے قبول کیا، کیونکہ اسلامی شریعت بھی اس کی اجازت دیتی ہے۔ چنانچہ طالبان نے مناسب ہدایات کے ساتھ خواتین کو اس شعبے میں کام کرنے دیا بلکہ انہوں نے غیر سرکاری اداروں کی غیر ملکی خواتین کو بھی اس شعبے میں مصروف عمل رہنے کی اجازت دیدی۔ اس طرح سے افغانستان میں کام کرنے والے غیر ملکی فلاحی اداروں کو بھی اپنی خدمات پیش کرنے میں سہولت میسر رہی۔ احمد رشید کے بقول ”یہ طے پایا کہ میڈیکل شعبے میں کام کرنے والی عورتیں ڈرائیور کے ساتھ نشست پر نہیں بیٹھ سکتیں، وہ کسی ایسی گاڑی میں سفر نہیں کر سکتیں، جس میں کوئی مغربی باشندہ موجود ہو۔“

صحت کے شعبے میں خواتین کو کام کرنے کی اجازت دینے کے باوجود طالبان نے اس سلسلے میں اپنی نگرانی ہمیشہ کڑی رکھی۔ ان کی تشویش بجا بھی تھی۔ کیونکہ تاریخی حقائق اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ غیر ملکی این جی اوز افغانستان میں غیر اسلامی نظریات، تہذیب اور عقائد پھیلانے میں اس شعبے کو خاص طور پر استعمال کرتے رہے ہیں۔ ۱۹۶۳ء میں، جب افغانستان پر ظاہر شاہ کی حکمرانی تھی، اور اس نے ملک میں مغربی تہذیب کی درآمد کیلئے تمام دروازے کھول رکھے تھے، ٹائمز آف انڈیا کے ایک یورپین نامہ نگار RITCHIE COLDER نے افغانستان کے جشن استقلال میں شرکت کی۔ اس رپورٹر کی لکھی ہوئی رپورٹ ۲۸ جولائی ۱۹۶۳ء کے ٹائمز آف انڈیا میں شائع ہوئی۔ جس میں اس نے افغان عورت کی بے پردگی کے حوالے سے لکھا کہ:

”تین سال قبل یہاں کی عورتیں پردہ میں تھیں، اس وقت اگر ایسے مواقع پر اسے باہر نکلنے کی اجازت ملتی بھی تو اسے چادر میں ملفوف ہو کر آنا پڑتا جو اسے سر

سے بھر تک ڈھکے رہتی اور نقاب اس کے چہرہ کو ڈھانپنے ہوئی ہوتی جس میں دیکھنے کیلئے سوراخ بنے ہوتے۔ اب یہ سب نذر انقلاب ہو چکا ہے، اب بھی جشن کے مجمع میں ایسی عورتیں خاصی نظر آتی ہیں، جو اب بھی الگ تھلک رہنے والا برقع پہنے ہیں، اور وہ ابھی اس کی خوگر نہیں ہوئی ہیں کہ ان کو اپنا چہرہ کھلا رکھنے کی آزادی نصیب ہو چکی ہے، لیکن اب عورتوں کی عظیم اکثریت بے نقاب ہو چکی ہے۔“

آگے چل کر یہ نام نہ نگار لکھتا ہے کہ:

”یہ دعویٰ تقریباً صحیح ہوگا کہ افغان عورتوں کی پردہ سے ”نجات“ کا آغاز زچہ و بچہ کے طبی مراکز سے ہوا، جبکہ ڈاکٹر ایٹا میر یا گیڈ (جو اس وقت عالمی ادارہ صحت کے علاقائی ہیڈ کوارٹر دہلی کی صدر ہیں) آج سے دس سال قبل ڈنمارک سے افغانستان وارد ہوئی تھیں، اس وقت وہاں بچہ جنمانے والی لیڈی ڈاکٹر ایک بھی موجود نہ تھی، پورے افغانستان میں اس وقت ایک سو بیس ڈاکٹر تھے، اور وہ سب کے سب مرد ہی تھے، کسی مرد ڈاکٹر کو عورتوں کے معائنہ کی اجازت نہ تھی، مقامی قابلہ عورتیں جدید طریق علاج سے بالکل نا آشنا تھیں۔ ڈاکٹر گیڈ نے قابلہ (مڈوائف) عورتوں کی تربیت شروع کی اور ان میں شاہی خاندان کی عورتیں بھی شامل تھیں، زچہ و بچہ کی صحت کے مراکز قائم کئے گئے اور برقعہ پوش عورتیں وہاں بکثرت آنے لگیں، وہاں انہوں نے صرف جسمانی فائدے ہی حاصل نہیں کئے جن کے نتیجے میں ان کے نقطہ نظر میں انقلابی تبدیلی ہوئی، بلکہ لیڈی ڈاکٹروں اور نرسوں سے ملنے کے بعد انہیں یہ بھی علم ہوا کہ عورتیں بھی (اس پیشہ میں) مردوں کی طرح روزی کما سکتی ہیں، اور اس سے اہم چیز یہ کہ ان مریض عورتوں نے ان طبی مراکز میں اپنے بارے میں یہ محسوس کیا کہ ان کی حیثیت کتنی اہم ہے اور اب ان کا شمار چھپائے جانے والے خانہ داری کے سامان میں نہیں ہو سکتا۔ آج ان عورتوں کیلئے اعلیٰ قسم کے اسپتال موجود ہیں جن کی انچارج اعلیٰ ڈگری یافتہ عورتیں ہیں جو انتہائی صاف ستھری اور حفظان صحت کے اصول و ضوابط پر عامل ہیں، اور اس بارے میں ان روایات کو قائم

کئے ہوئے ہیں جو ڈاکٹر گیڈ نے قائم کی تھیں۔ افغانستان میں عورتوں نے
اگست ۵۹ء سے بے نقاب شریعت شروع کی ہے، ایک شاہی فرمان کی رو سے عورتوں کو
برقع سے باہر نکلنے کا حکم تو نہیں دیا گیا لیکن اجازت دے دی گئی تھی۔“

معلوم ہوا کہ طالبان کی یہ تشویش بجا تھی کہ غیر ملکی ادارے صحت اور فلاح و بہبود کے نام پر افغان
خواتین میں اپنے نظریات اور عقائد پھیلا سکتے ہیں۔ طالبان کی اس تشویش کو اس وقت مزید تقویت ملتی
جب میں نے یہاں پر ایسے واقعات سامنے آئے، جن میں غیر ملکی اداروں کے اہلکار افغان تہذیب و ثقافت
کے بگاڑ کیلئے خفیہ سرگرمیوں میں ملوث پائے جاتے۔ ایسے ہی کئی واقعات کے نتیجے میں طالبان نے غیر
ملکی اہلکاروں پر سخت پابندیاں بھی عائد کیں اور بعض اوقات ان کی گرفتاری کی نوبت بھی آئی۔
طالبان کی طرف سے خواتین کیلئے جاری کی گئیں پالیسیوں کے حوالے سے ہرات کے طالبان
گورنر نے ایک مرتبہ ریڈیو ایران کی پشتو سروس کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ:

”پورے افغانستان کیلئے یہ فخر کی بات ہے کہ ہم نے خواتین کو گھر میں ہی
رہنے دیا۔ شریعت نے معاشرے کے ہر فرد کیلئے اصول اور قاعدے بتائے
ہیں۔ عورت کو اس کی اجازت ہے کہ اگر وہ بیمار پڑے تو مرد ڈاکٹر سے علاج کروا
سکتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ دنیا میں کسی ملک نے عورتوں کو اتنے حقوق نہیں
دیئے جتنے ہم نے دیئے ہیں۔ ہم نے وہی حقوق انہیں دیئے جو اللہ اور اس کے
رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) کے عطا کردہ ہیں یعنی وہ اپنے گھروں میں رہیں اور
دینی تعلیم حجاب میں رہ کر حاصل کریں۔“

ہرات میں جاری شدہ طالبان کی اصلاحات پر مغربی حلقوں کی طرف سے تنقید کا سلسلہ ابھی رکا
نہیں تھا کہ اگلے سال ۱۹۹۶ء میں انہوں نے حیرت انگیز طور پر کابل بھی فتح کر لیا۔ طالبان جب کابل
میں داخل ہوئے، اس وقت تک کابل پر پورے طریقے سے مغربی حلقوں کے نیچے گڑھے ہوئے تھے اور
اس شہر میں، جہاں بچہ چوروی کے لقمے کو ترس رہا تھا، غیر ملکی اداروں نے اپنی تہذیب و ثقافت کو حتیٰ الوسع
پھیلا دیا تھا۔ اپنی آب و ہوا اور مناسب ترین موسم کی وجہ سے یہ شہر ہمیشہ ہی سے غیر ملکیوں کیلئے بہترین
تفریح گاہ رہا ہے، اور پھر جب سے یہاں کی غربت و افلاس نے غیر ملکیوں کو یہاں کا مسیحا بن کر رہنے کا
بہانہ فراہم کر دیا، اس وقت سے بیرونی امداد سے بڑھ کر یہاں بیرونی تہذیب آنے لگی اور شہر اس حد تک

جا پہنچا کہ اسے لعل ماسکو کہا جانے لگا۔ وہ ظاہر شاہ کا دور ہو، روس کا تسلط ہو، نجیب کی حکومت ہو یا احمد شاہ مسعود کی حکمرانی، ان تمام زمانوں میں مغربی تہذیب، کو اس شہر میں داخل ہونے سے کسی نے نہیں روکا، اور نہ ہی خود اس نے کوئی رکاوٹ محسوس کی۔ یہی وجہ ہے کہ طالبان کے داخلے تک اس شہر میں ہر طرح کی مادی پداری آزادی قائم رہی، اور اس قدر مضبوط قدموں کے ساتھ قائم رہی کہ شہر میں بہتی لہو کی ندیاں بھی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں۔

یہ ساری صورت حال طالبان کیلئے ناقابل عمل تھی، کیونکہ قدم ہمارے کا بل تک وہ جو معقول اصلاحات نافذ کرتے آئے تھے، انہیں محض شہر کے بگڑے ہوئے ماحول کی وجہ سے ترک نہیں کیا جاسکتا تھا، طالبان اس حقیقت سے بخوبی واقف تھے کہ قابل افغانستان کا دل ہے اس کے ماحول کے اچھے یا برے اثرات پورے افغانستان پر مرتب ہوں گے، لہذا ضروری تھا کہ یہاں کا ماحول درست رکھا جائے اور کسی بھی قیمت پر اس سے صرف نظر نہ کیا جائے۔

ادھر طالبان ان اقدامات میں معروف تھے اور دوسری جانب افغانستان میں موجود غیر ملکی ادارے اور مغربی حکومتیں اس بات پر بیچ و تاب کھا رہی تھیں کہ طالبان اپنے اصولوں کے معاملے میں ان کے ساتھ کسی قسم کا کوئی سمجھوتہ کرنے پر تیار نظر نہیں آ رہے تھے۔ طالبان اور ان کی پالیسیوں کے بارے میں ان سے اختلاف رکھنے والے ان حلقوں کے مابین فاصلوں کو مزید وسعت دینے میں اہم کردار مغربی میڈیا بھی ادا کر رہا تھا، جو شب و روز طالبان کے حوالے سے انتہائی پر تعصب پروپیگنڈے میں مصروف تھا اور دنیا بھر کے سامنے طالبان کی حد درجہ خوفناک اور بھیانک تصویر پیش کر رہا تھا۔ مغربی میڈیا کے اس کردار نے نہ صرف اس کی غیر جانبداری کو واضح کیا بلکہ افغانستان کے بارے میں اس کی ہمدردی کو بھی مشکوک بنا دیا۔

۱۸ اکتوبر ۱۹۹۶ء کو اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل اور امریکی حکومت نے طالبان کو متنبہ کیا کہ اگر عورتوں کے بارے میں ان کی پالیسی تبدیل نہ ہوئی تو افغانستان کی نہ صرف امداد روک لی جائے گی بلکہ ان کی حکومت کو بھی تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ اگلے ہی دن یوسیسیف نے اعلان کر دیا کہ افغانستان کی تعلیمی امداد اس وقت تک بند رہے گی جب تک حکومت خواتین کی تعلیم تسلیم نہیں کرے گی۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے بھی اپنی ایک قرارداد میں طالبان کو متنبہ کیا کہ وہ عورتوں کے ساتھ امتیازی سلوک سے باز رہیں۔

اقوام متحدہ اور امریکہ کی جانب سے اس مشترکہ دھمکی کے بعد، افغانستان میں کام کرنے والے غیر ملکی

اداروں نے ایک مرتبہ پھر کوشش کی کہ وہ طالبان کو ان کی پالیسیوں میں نرمی اختیار کرنے پر آمادہ کریں۔ چنانچہ ۱۵ اکتوبر ۱۹۹۶ء کو یہ سب ادارے سر جوڑ کر بیٹھے اور انہوں نے اپنے اپنے فلاحی منشور کے مطابق ایک متفقہ لائحہ عمل تیار کیا۔ تاہم اس لائحہ عمل میں اس بات کا اعتراف بھی شامل تھا کہ بین الاقوامی ادارے مقامی رسم و رواج کو احترام کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ اس متفقہ لائحہ عمل کی تیاری کے بعد انہوں نے طالبان کے سامنے اپنے مطالبات پیش کئے جن میں طالبان سے کہا گیا تھا کہ وہ صحت کے علاوہ بھی تمام ایسے شعبوں میں افغان عورتوں کو غیر ملکی اداروں میں ملازمت کرنے کی اجازت دیں، جن شعبوں میں یہ ادارے بزم خود عورتوں کی ضرورت محسوس کرتے ہیں۔ ان اداروں کا کہنا تھا کہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کے عملے میں افغان خواتین شامل ہوں اور حسب ضرورت ان سے صفی امتیاز کے بغیر رابطہ بھی کیا جاسکے۔

غیر ملکی اداروں کی جانب سے یہ مطالبات طالبان کی نظر میں قطعاً غیر معقول تھے، کیونکہ افغانستان میں فلاحی سرگرمیاں جاری رکھنے کیلئے افغان خواتین کو غیر ملکیوں کی ملازمت کی کوئی ضرورت نہ تھی، خاص طور پر اس لئے بھی کہ طالبان نے ان اداروں سے وابستہ غیر ملکی خواتین کو افغانستان میں رہنے کی اجازت دیدی تھی۔ تاہم ان کیلئے بھی شہری ماحول میں پھرنے کیلئے حجاب لازمی قرار دیا گیا تھا۔ حجاب کی اس پابندی کو ان اداروں نے کئی مرتبہ نا انصافی قرار دیا، لیکن طالبان کا موقف تھا کہ ان کے ملک میں رہتے ہوئے ہر فرد کیلئے ان کے قوانین کا احترام کرنا ضروری ہے۔

بہر حال غیر ملکی اداروں کی جانب سے پیش کئے گئے مطالبات کے بارے میں طالبان نے پھر بھی سنجیدگی کا مظاہرہ کیا، چنانچہ اس سلسلہ میں فریقین کے درمیان ایک اہم میٹنگ ہوئی۔ اس میٹنگ میں طالبان کی نمائندگی قائم مقام وزیر خارجہ حاجی محمد نجوٹ اخوند نے کی، اس میٹنگ میں جب غیر ملکی اداروں نے اپنے مطالبات پیش کئے۔ تو اس کے جواب میں وزیر موصوف نے کہا کہ طالبان کے سامنے فی الوقت سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ملک میں امن و امان قائم ہو اور سارے ملک میں ایک مستحکم اسلامی حکومت قائم ہو جائے۔ امید ہے کہ اس کے نتیجے میں بین الاقوامی برادری طالبان کی حکومت کو تسلیم کرے گی۔ اس کے بعد ہی وہ دوسرے مسائل پر نظر ڈالیں گے۔ فی الحال انہیں بین الاقوامی اور قومی تقاضوں کو پورا کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے غیر ملکی نمائندوں سے واضح طور پر یہ بھی کہا کہ بہتر ہوگا کہ اقوام متحدہ اور فلاحی ادارے ہم سے وہ امیدیں نہ رکھیں جو ہماری قومی روایات کے خلاف ہیں۔ ہمارے ملک کی صرف ۲ فیصد خواتین نوکریاں کرتی ہیں آپ لوگ ساری توجہ صرف ۲ فیصد پر کیوں دے رہے ہیں؟

اکتوبر ۱۹۹۶ء کے بعد اگلے اٹھارہ ماہ تک غیر ملکی اداروں اور طالبان کے مابین اسی مسئلہ پر کئی مرتبہ مذاکرات ہوئے، لیکن ان کا منطقی طور پر کوئی نتیجہ برآمد نہ ہوا۔ اس لئے کہ طالبان اپنے اصولی موقف پر قائم تھے کہ بین الاقوامی ادارے افغانستان میں کام کرتے ہوئے یہاں کی تہذیب و ثقافت کا خیال رکھنے کے پابند ہیں اور اسلامی شریعت اور افغان ثقافت خواتین کو مردوں سے کھلے میل جول کی اجازت نہیں دیتی۔ جس شعبے میں عورتوں کی شدید ضرورت ہے، یعنی طب اور صحت، تو اس میں کام کرنے کی اجازت طالبان نے پہلے ہی دے رکھی ہے۔ اس کے برخلاف غیر ملکی ادارے اپنی ہٹ دھرمی پر قائم تھے کہ وہ اپنی امدادی سرگرمیاں اسی وقت جاری رکھیں گے، جب ان کی مرضی اور مطالبے کے مطابق افغان خواتین کو "آزادی" دی جائے گی۔

دونوں فریقوں کے مابین یہ اختلاف آخردم تک باقی رہا، بلکہ ہر آئے دن اس میں شدت پیدا ہوتی چلی گئی۔ ۷ اگست ۱۹۹۷ء کو کابل میں کام کرنے والی ایک غیر ملکی امدادی تنظیم نے افغانستان میں عورتوں کیلئے شروع کئے گئے اپنے تمام پروگرام یہ بہانہ کر کے بند کر دیئے کہ طالبان عورتوں کو کھل کر کام کرنے کی اجازت نہیں دے رہے۔ ۸ مارچ ۱۹۹۸ء کو مغربی دنیا میں یوم خواتین منایا گیا تو اس موقع پر افغان خواتین کو طالبان کے "مظالم" کا شکار قرار دے کر ان سے خصوصی ہمدردی کا اظہار کیا گیا۔ اس اقدام کے پس پردہ مبینہ طور پر افغانستان میں کام کرنے والے غیر ملکی اداروں اور مغربی ممالک کی سرکاری ایجنسیوں کا ہاتھ کار فرما تھا، جو دنیا بھر کے عوام کے سامنے یہ امر باور کروانا چاہتے تھے کہ طالبان نے عورتوں کے ساتھ نا انصافی کا رویہ اختیار کر رکھا ہے۔

۲۱ اکتوبر ۱۹۹۸ء کو امریکہ کی ماؤس لہمنو نامی ایک فاؤنڈیشن نے، طالبان کے خلاف اقتصادی اور سماجی دباؤ بڑھانے کا مطالبہ کیا۔ اس تنظیم نے طالبان کی صنفی پالیسیوں کے خلاف پروپیگنڈہ مہم چلانے کیلئے ایک لاکھ ڈالر خرچ کرنے کا اعلان کیا۔

۳ مارچ اور ۲۹ اپریل ۱۹۹۹ء کو امریکی خاتون اول ہیلری کلنٹن نے طالبان پر تنقید کی کہ وہ عورتوں پر ظلم کر رہے ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ میڈیلین البرائٹ نے بھی جون ۲۰۰۰ء میں اقوام متحدہ میں ہونے والی خواتین کی عالمی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے طالبان پر نکتہ چینی کی۔ ہیلری کلنٹن اور البرائٹ کی طالبان پر تنقید اس لحاظ سے کافی معطلہ خیز تھی کہ خود امریکہ میں خواتین کی حالیہ زار کا جائزہ لیتے ہوئے امریکی خفیہ ایجنسی سی آئی اے نے اپنی ایک رپورٹ میں بتایا کہ ہر سال امریکہ میں پچاس

ہزار خواتین، نو عمر لڑکیاں اور بچے اسمگل کئے جاتے ہیں اور انہیں جسم فروشی، بیگار خانوں یا کم اجرت پر کام کرنے کیلئے مجبور کیا جاتا ہے۔ سی آئی اے کی رپورٹ کے مطابق ان بد نصیبوں میں ۲۵ سال سے کم عمر کی لڑکیاں اور ۹ سال سے کم عمر کے بچے شامل ہوتے ہیں۔ ایک اور رپورٹ کے مطابق امریکہ میں جنسی استحصال کی مارکیٹ میں فروخت ہونے والی بے بس خواتین کی سالانہ تجارت سات بلین ڈالر سے بارہ بلین ڈالر تک ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ مغرب عورت کے حوالے سے اپنی وسعت نظری کے جس قدر بھی دعوے کرے، حقائق کے آئینہ میں وہ کچھ حیثیت نہیں رکھتے چنانچہ پیٹر مارسڈن کے بقول:

”اگر افغان خواتین میں نسل، مذہب، دولت اور دیہی و شہری زندگی کی بنیاد پر فرق پایا جاتا ہے تو مغربی معاشرے میں بھی قومیت، طبقہ، عمر، آمدنی اور ماحول کی بنیاد پر یہ فرق موجود ہے۔“

اس صورتحال میں اہل مغرب کا اپنے آپ کو طالبان کے مقابلے میں خواتین کا زیادہ بڑا ہمدرد ثابت کرنا خاصا مشکل کام ہے۔ اور پھر اس مشکل میں اس وقت مزید اضافہ ہو جاتا ہے، جب طالبان کے ناقابل تخیر چیئنج سامنے آتے ہیں۔ ایک موقع پر طالبان کے ایک وزیر نے مغربی دنیا کو چیئنج کیا تھا کہ ان کے ملک میں عورت کو جو تحفظ اور سلامتی حاصل ہے وہ کسی اور ملک میں نہیں۔ طالبان کے اس وزیر نے کہا کہ میں مغربی ممالک کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اپنی کسی بھی عورت کو افغانستان میں بھیجیں، جو زیور اور دولت سے لدی ہو، یہ عورت اپنی دولت سمیت تنہا قہدار سے چھ سو کلومیٹر کا سفر طے کر کے قابل تک جائے، اگر اسے اثنائے سفر میں کوئی شخص بری نگاہ سے بھی دیکھ لے، تو طالبان اپنی پالیسی میں ناکام ٹھہرائے جائیں۔ طالبان کی طرف سے اس قدر بھاری چیئنج واقعی بہت بڑی اہمیت رکھتا تھا، خاص طور پر اس لئے بھی کہ ہر طرح کی مخالفت کے باوجود افغانستان آنے والے تقریباً ہر مغربی شخص نے کھلے دل سے اس کا اعتراف کیا ہے کہ کچھ بھی ہو، طالبان نے بہر حال اپنے مقبوضہ علاقوں میں امن و امان نافذ کیا اور عوام کو ہر سطح پر تحفظ فراہم کیا۔

ان سب باتوں کے باوجود مغربی حلقوں کی طرف سے تنقید اور طعن و تشنیع کا سلسلہ جاری تھا اور طالبان اپنی پالیسیوں پر کاربند تھے کہ دسمبر ۲۰۰۱ء میں طالبان حکومت کا خاتمہ ہو گیا..... لیکن جاتے جاتے بھی طالبان عورتوں کیلئے، اپنے ہمدردانہ عمل کی ایک ایسی روشن مثال چھوڑ گئے، جو اہل مغرب کیلئے

ناقابل انکار حقیقت بن گئی۔

”ایون ریڈلی“ ایک برطانوی صحافی خاتون ہے، جو ۲۸ ستمبر ۲۰۰۱ء کو، امریکہ کی طرف سے افغانستان پر حملے کے امکانات بڑھنے کے بعد، افغانستان کے حالات کا مشاہدہ کرنے کیلئے غیر قانونی طور پر افغانستان میں داخل ہوئی۔ اپنے داخلے کے تھوڑی دیر بعد ہی طالبان نے اس خاتون کو جلال آباد میں حراست میں لے لیا۔ پھر یہ خاتون دس دن تک طالبان کی تحویل میں رہی۔ اس دوران اس خاتون نے اپنے ساتھ پیش آنے والے طالبان کے حسن سلوک کی جو روداد بیان کی، وہ طالبان پر عورتوں کی حق تلفی کے حوالے سے تنقید کرنے والوں کی آنکھیں کھولنے کیلئے کافی ہے۔

ایون ریڈلی اپنے ایام حراست کی کہانی سناتے ہوئے کہتی ہے:

”ایک وقت ایسا بھی آیا جب کابل کی جیل میں قید کے دوران میری قوت برداشت اس حد تک جواب دے گئی کہ میں نے اپنے قید کرنے والوں کے منہ پر تھوکا اور ان کو گالیاں دیں۔ مجھے اس کے بدلے میں ان سے بدترین جواب کی امید تھی لیکن ان لوگوں نے میرے اشتعال دلانے والے رویے کے باوجود مجھے بتایا کہ ”میں ان کی بہن اور مہمان ہوں۔“

ایک اور واقعہ کا تذکرہ وہ یوں کرتی ہے:

”میں خواتین کے درمیان بیٹھی تھی۔ اس ماحول میں ایک خاتون نے جو خود کو ایک ننھی سی مشین ہی سمجھتی ہے مجھے کھینچ کر کمرے سے باہر لے گئی تاکہ میں کچھ کھاپی سکوں۔ ان کی فیاضی تو کیا محبت اٹھی پڑتی ہے۔ اگرچہ ان کے پاس بہت کم خوراک ہے مگر وہ اسے میرے ساتھ مل کر کھانا چاہتے ہیں۔ میں چاول، شوربا، گوشت اور روٹی نہیں کھا سکتی کیونکہ اس کیلئے تو ہاتھ بلکہ انگلیاں استعمال کرنا پڑتی ہیں۔ چنانچہ وہ مجھے کئی کا ایک سنا دیتی ہے جو بڑا میٹھا ہے مگر میں گرم ہونے کے باعث اسے نیچے گرا دیتی ہوں تو وہ میری طرف غصے اور حیرت سے دیکھتی ہے۔ کچھ دوسری خواتین میری طرف دیکھ کر زیر لب مسکراتی ہیں گویا میں کوئی کمزوری مغربی عورت ہوں۔“

ریڈلی ایک دوسرا منظر یوں قلم بند کرتی ہے:

”خوب، بہت خوب! میں تو چاہتی ہوں کہ میں ہر ایک کو بتاؤں کہ میں ٹھیک ٹھاک ہوں۔ میں چاہتی ہوں کہ میری امی کو علم ہو جائے، میرا کمرہ ایئر کنڈیشنڈ ہے اور کمرے سے ملحق باتھ میں فلش بھی لگا ہوا ہے۔ مجھے ایک ریڈیو دیا گیا تاکہ میں بی بی سی کی عالمی سروس سن سکوں، مجھ سے یہ پوچھا جا رہا ہے کہ مجھے کسی اور چیز کی تو ضرورت نہیں؟ حمید کہتا ہے کہ ہر ایک کو یہی فکر ہے کہ میں کھانا نہیں لیتی اور وہ پوچھتا ہے کہ آیا خوراک میری پسند کی نہیں، کیا میں کوئی خاص کھانا لینا چاہتی ہوں یا میرے لئے ہوٹل کے کھانے کا بندوبست کیا جائے؟ وہ بار بار مجھے اپنے مہمان بتاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر میں معصوم ہوں تو وہ بھی غم زدہ ہو جاتے ہیں، میں اس پر یقین نہیں کر سکتی۔ یہ طالبان مجھے مہربانی کے ساتھ مارنا چاہتے ہیں۔ یہ لوگ کئی اعتبار سے نرم خو، خوش خصال، شریف، مہربان اور دوسروں کا خیال رکھنے والے، ہاں جب وہ لڑنے پر آتے ہیں تو وہ دنیا کے خوفناک ترین جنگجو ہیں۔ میری خواہش ہے کہ میرے گھر میں کسی کو معلوم ہو جائے کہ وہ مجھ سے کیسا سلوک روا رکھے ہوئے ہیں۔ میں شرط لگاتی ہوں کہ لوگ تو یہ سوچ رہے ہوں گے کہ مجھے اذیت دی جا رہی ہوگی، مارا پینا جا رہا ہوگا اور وہ میری عزت سے کھیل رہے ہوں گے۔ مگر..... مگر؟

طالبان کے حسن سلوک کا تذکرہ کرتے ہوئے ریڈیو کہتی ہے:

”وہ سب بڑے مہربان محسوس ہوتے ہیں۔ وہ بڑے فراخ دل ہیں مگر یہ

بات بھی بڑی تیزی کے ساتھ سمجھ میں آ جاتی ہے کہ وہ کسی سے ڈرنے والے نہیں

ہیں اور اپنی آزادی کی حفاظت کیلئے جنگ کرنے کو تیار ہیں۔“

ایون ریڈیو ابھی طالبان کی قید میں تھی کہ افغانستان پر امریکی اور اتحادی افواج کا حملہ شروع

ہو گیا، طالبان چاہتے تو اس حملے کی سزا ایون ریڈیو کو دے سکتے تھے، لیکن انہوں نے اس موقع پر اس

خاتون کو رہا کر کے ساری دنیا کو حیران کر دیا۔ اپنی رہائی کا تذکرہ کرتے ہوئے ریڈیو کہتی ہے:

”آخر کار وہ وقت بھی آ گیا جب طالبان نے مجھے رہائی کی نوید سنائی۔

انہوں نے مجھے چوڑے افغان روایتی نیکے پر بیٹھنے کو کہا اور پھر قید خانے کے

نگران نے مجھے خوبصورت دبیز مخمل کا لباس دیا اور کہا کہ یہ روایتی افغان لباس ہے باہر نکلنے سے قبل اسے پہن لو اور وہ خود سارے کمرے سے باہر نکل گئے تاکہ میں لباس تبدیل کر لوں..... آخر کار جب میں طورخم بارڈر پر پہنچی اور میں نے افغانستان سے باہر پاکستان میں قدم رکھا ہی تھا کہ میرا چہرہ ٹٹلی ویزٹن کیمروں کی روشنیوں سے چمکنے لگا۔ میں وقتی طور پر چکراسی گئی، مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ ایک آواز آئی ”طالبان نے آپ سے کیا سلوک کیا؟“ گزرے ہوئے دس دنوں کی تمام یادیں اور ذہنی کرب سب میرے لوح ذہن پر نمودار ہونے لگے۔ میں نے جواب میں کہا ”شائستگی اور احترام کا سلوک“ میں سوچتی ہوں کہ ان کے اندر ہمارے خلاف کوئی کیسہ معلوم نہیں ہو رہا۔ نامعلوم ان پر بمباری کیوں کی گئی؟“

ایون ریڈلی کی ایام اسارت کی خودنوشت یہ داستان دنیا کے مختلف مغربی و مشرقی ذرائع ابلاغ نے شائع کی۔ ریڈلی نے چونکہ اپنی قید کے دوران طالبان سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اسلام کا مطالعہ کرے گی۔ چنانچہ اس نے اپنا وعدہ پورا کیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ۳۰ جون ۲۰۰۳ء کو اس نے اپنے قبول اسلام کا اعلان کر دیا۔ جون ۲۰۰۴ء میں سعودی عرب سے شائع ہونے والے انگریزی و عربی کے ایک رسالے الحج والعرہ نے ریڈلی کا ایک انٹرویو شائع کیا۔ اس انٹرویو میں ریڈلی سے جب یہ پوچھا گیا کہ گوانتانامو بے کے ایکسرے کیسپ اور کاہل کے قیدخانے کا موازنہ آپ کس طرح کرتی ہیں، تو اس نے کہا:

”میں لوگوں کو بتاتی رہتی ہوں کہ میں اس حوالے سے بہت خوش قسمت واقع ہوئی ہوں کہ مجھے امریکہ کی بجائے ”روئے زمین کے سب سے زیادہ برے اور وحشی لوگوں“ کی قید میں رہنے کا موقع ملا۔ مجھے مسلسل چھ دن تک ایک ایئر کنڈیشنڈ کمرے میں رکھا گیا جس کی چابی تک مجھے دے دی گئی۔ میرے ساتھ ہمدردی اور احترام کا سلوک کیا گیا۔ مجھے ذہنی یا جسمانی طور پر ہراساں کرنے، کسی قسم کی تعذیب دینے یا حملہ کرنے کی کوشش نہیں ہوئی، گو کہ کچھ سوال جواب ضرور ہوئے۔ وہ مجھے مسلسل یہ بتاتے رہے کہ وہ مجھے خوش رکھنا چاہتے ہیں اور یہ کہ میں ان کی بہن اور مہمان ہوں۔“

اپنے اس انٹرویو میں ریڈلی نے کہا کہ ٹونی بلیئر اور جارج بش نے طالبان کی سب خوبیوں کے باوجود انہیں ایک بہت بڑی برائی کے طور پر پیش کیا۔ ریڈلی نے طالبان کو ”شائستہ لوگ“ کہہ کر یاد کیا۔ طالبان کی قیدی اس برطانوی خاتون کی باتوں کا موازنہ جب ہم امریکی خواتین کے بارے میں جاری ہونے والی ایک رپورٹ سے کرتے ہیں تو ہمیں حقائق بہت آشکارا نظر آتے ہیں۔ اس رپورٹ کے مطابق امریکی جیلوں میں جو خواتین قید ہیں، ان کی عزت و ناموس جیل کے مرد اہلکاروں کے ہاتھوں ہر وقت خطرے میں رہتی ہے۔ ۳۷ امریکی ریاستوں کی جیلوں میں قید خواتین کی بے حرمتی روز کا معمول ہے، اور ان خواتین پر مردوں کے مجرمانہ حملے، بے حرمتی اور گالیاں کسی قسم کے جرم کے زمرے میں نہیں آتیں امریکی فوج نے کچھ عرصہ قبل عراقی قید خانے ابوغریب میں عراق کی مسلمان قیدی خواتین کے ساتھ جو سلوک کیا، وہ بھی طالبان اور امریکہ کے درمیان فرق کو واضح کرتا ہے۔ ابوغریب جیل سے ایک مسلمان لڑکی ”نور“ کا خط حال ہی میں سامنے آیا ہے، اس خط میں نور لکھتی ہے کہ:

”ہمارے پاکیزہ دامن آلودہ اور سر ڈھانپنے والے آنچل دریدہ ہو چکے

ہیں..... امریکی درندے ہم پر ایسے ستم ڈھاتے ہیں جو جسم پر ہی نہیں، روح پر بھی

آبلے ڈال دیتے ہیں۔ ان کی ہوس اور شیطیت ہم کمزوروں پر اپنے پنجے گاڑھ

دیتی ہے تو ہم میں احتجاج کی سکت بھی نہیں ہوتی۔ ہم گوہر عصمت لٹا چکی ہیں اور

اب آنکھیں بند کئے موت کی منتظر ہیں کہ جیسے کو کچھ بچا ہی نہیں“


طالبان نے افغانستان میں عورتوں کیلئے جو قوانین اور پالیسیاں نافذ کیں، ان سے کیسے خوشگوار

اثرات مرتب ہوئے؟ اس امر کا اندازہ طالبان کے جانے کے بعد افغان خواتین کی تشویشناک صورتحال

سے بھی لگایا جاسکتا ہے۔ ”جدید افغانستان“ میں خواتین کی حالت زار کی مختصر تفصیلات آپ ”طالبان

کے بعد“ کے عنوان سے اسی کتاب میں ملاحظہ فرمائیں گے۔






میں نے کابل بستے دیکھا

افغانستان کے خلاف اقوام متحدہ کی جانب سے اقتصادی پابندیاں عائد ہونے میں صرف ایک دن باقی تھا۔ جب میں نے اپنے کچھ ساتھیوں کے ہمراہ ۱۳ نومبر ۱۹۹۹ء کی دوپہر بارہ بجے چین بلوچستان کے مقام پر پاک افغان بارڈر کراس کر کے اپنے فرائض منصبی سرانجام دینے کیلئے سرزمین افغانستان پر قدم رکھا۔ میں اس سے پہلے بارہا افغانستان کا سفر کر چکا تھا لیکن حالیہ سفر اس لحاظ سے بالکل مختلف نوعیت کا تھا کہ اس مرتبہ خصوصی طور پر افغانستان کی تازہ ترین صورتحال کا جائزہ لینے گیا تھا۔ دراصل امریکہ کے اشاروں پر اقوام متحدہ کی جانب سے افغانستان جیسے تباہ حال ملک پر اقتصادی پابندی کے اعلان نے ہر شخص کو ششدر کر کے رکھ دیا تھا۔ بیرونی دنیا کا ہر فرد یہی سوچ رہا تھا کہ اب اس ملک کو زبردست اقتصادی و معاشی بحران سے دوچار ہونا پڑے گا اور اس کے نتیجے میں طالبان حکومت کو بہر صورت اپنی پالیسیوں میں پلک پیدا کرنی ہوگی۔ یہی وہ خیالات تھے جو میرے اس سفر کا باعث بنے۔

ہماری گاڑی جس کی بنگلہ کوئٹہ تک کروائی گئی تھی جب سرحدی چوکی پر پہنچی تو معلوم ہوا کہ حکومت پاکستان نے اقوام متحدہ سے ایک روز پہلے ہی گاڑیوں کے ذریعہ افغانستان میں داخلے پر پابندی لگا دی ہے۔ یہ پابندی عالمی پابندیوں کی ابتداء تھی یا ایک روز قبل اسلام آباد میں امریکی اور سعودی سفارت خانوں کے قریب ہونے والے دھماکوں کا منطقی نتیجہ؟ میں کچھ فیصلہ نہ کر سکا۔ بہر حال ہم نے پیدل ہی سرحد پار کی اور افغانستان میں داخل ہو گئے۔



پاکستانی سرحد سے ملحق افغانستان کا پہلا علاقہ ”ولیش“ نامی ہے۔ جو دنیا بھر کی الیکٹریک مصنوعات کی بہت بڑی منڈی ہے۔ یہ مارکیٹ جو ریڈیو، ٹیپ اور کمپیوٹر وغیرہ کی خریداری کیلئے پورے پاکستان اور افغانستان میں مشہور و معروف ہے نہ صرف افغان تاجروں کیلئے بلکہ پاکستانیوں کیلئے بھی بہت مفید ثابت ہوتی ہے۔ چنانچہ جہاں آپ کو اس میں افغان تاجر خریداری کرتے ہوئے نظر آئیں گے وہاں پاکستان کے پٹھان تاجروں کی بھی کمی نہیں ہے۔ بلکہ یہاں سے صرف سو میٹر کے فاصلے پر واقع پاکستانی سرحد پر نظر دوڑائیں تو کراچی کے تاجر بھی افغان لڑکوں کے ذریعے اس سامان کی خریداری میں سرگرم عمل نظر آئیں گے۔ لیکن طالبان کے دور میں یہ لوگ افغان سر زمین میں داخل نہیں ہو سکتے تھے کیونکہ ان کے چہروں پر اسلامی شناختی علامت ”داڑھی“ نہیں ہوتی تھی۔ میرا خیال تھا کہ امریکہ کی جانب سے عائد شدہ پابندیوں اور پھر اقوام متحدہ کی جانب سے کیے گئے اعلان نے اس منڈی کی رونق کو تہہ و بالا کر دیا ہوگا لیکن وہاں پہنچے تو اس بازار میں پہلے سے بھی زیادہ رش پایا۔

ولیش بارڈر پر واقع اتنی بڑی الیکٹریک منڈی کے قیام کا سہرا طالبان حکومت کو جاتا تھا جنہوں نے اپنے ملک میں درآ مد شدہ تجارتی سامان پر ٹیکس کی شرح انتہائی کم کر کے نہ صرف افغانستان میں تجارت کی راہیں ہموار کیں بلکہ پاکستانی تاجروں پر بھی احسان کیا۔ ”ولیش“ ہی میں استعمال شدہ گاڑیوں کی بھی ایک بہت بڑی مارکیٹ تھی۔ جہاں عرب امارات سے درآ مد شدہ مستعمل گاڑیاں بہترین حالت میں فروخت ہوتی تھیں اور ان کی قیمتیں بھی اس قدر کم تھیں کہ جو گاڑی آپ کو پاکستان میں نو دس لاکھ سے کم میں نہیں مل سکتی وہی گاڑی آپ اس مارکیٹ سے ڈیڑھ دو لاکھ میں باسہولت خرید سکتے تھے۔ اس کی وجہ بھی یہی تھی کہ طالبان حکومت نے ان گاڑیوں پر صرف دس فیصد ٹیکس مقرر کر رکھا تھا۔ لیکن یہی گاڑی آپ پاکستان میں لانا چاہیں تو آپ کو اس کی قیمت کی دو گنی رقم بطور کسٹم ٹیکس ادا کرنی پڑتی تھی۔

ولیش کی یہ گرم بازاری طالبان حکومت کے دوران خوب عروج پر رہی۔ لیکن اب جب کہ افغانستان پر امریکی تسلط کے بعد وہاں کا نظام حکومت بدل چکا ہے تو ولیش بھی اپنی رونقیں کھو چکا ہے۔ اس بے رونقی کی بڑی وجہ پاک افغان بارڈر پر قائم کڑی نگرانی ہے جس کے ذریعے ہر آنے جانے والے شخص پر نگاہ رکھی جاتی ہے۔

☆.....☆.....

ولیش سے دو گاڑیوں میں سوار ہو کر ہم اسپین بولدک پہنچے۔ یہ وہی مقام ہے جس پر طالبان نے

سب سے پہلے قبضہ کر کے اپنی عظیم الشان فتوحات کی بنیاد رکھی تھی۔ بولدک پہنچ کر دوپہر کے کھانے کیلئے ایک ہوٹل کا رخ کیا۔ جہاں چاول، گوشت اور سبزی پکی ہوئی تھی۔ ہمارے قافلے کو دیکھتے ہی ہوٹل کے مالک کی بانٹھیں کھل گئیں۔ شاید ایک ہی وقت میں اتنے زیادہ گاہک اسے کبھی کبھی ہی نصیب ہوتے تھے۔ بہر حال یہاں کھانے کی قیمتیں معلوم کیں تو اس طرح تھیں۔ سبزی ۲۵۰۰۰ ہزار افغانی، گوشت اور پلاؤ ۳۰۰۰۰۰ افغانی۔ سبزی اور گوشت کے پیسوں میں ایک اتنی بڑی روٹی کی قیمت بھی شامل تھی جو ہمارے ہاں کی کم از کم چار تنوری روٹیوں کے برابر ہوتی ہے۔ یہ روٹی علیحدہ لینے پر ۸۰۰۰ کی ملتی تھی اور پلاؤ کی ایک خوراک میں چاول کی ایک پلیٹ، گوشت کی ایک چھوٹی پلیٹ اور آدمی روٹی شامل تھی۔ کھانے کی قیمتیں سن کر سب حیران رہ گئے۔ لیکن اس سے زیادہ حیرانگی اس وقت ہوئی جب سب نے خوب سیر ہو کر کھانا کھانے کے بعد بل پوچھا تو ساڑھے تین لاکھ افغانی بنا تھا۔ جو پاکستانی صرف ۳۷۵ روپے بنتے تھے۔ اکیس افراد کا اتنے کم پیسوں میں سیر ہو کر کھانا کھالینا قطعاً مہنگا نہیں تھا۔ افغانستان میں ہوٹلوں میں کھانے کی مناسب قیمتیں واقعی حیران کن تھیں اور اس سلسلہ میں سب سے بڑی خصوصیت یہ تھی کہ یہاں شاہراہ عام پر واقع ہوٹلوں میں مسافروں کو اس طرح لوٹا نہیں جاتا تھا جیسا کہ پاکستان میں ہوتا ہے۔ ان مسافر ہوٹلوں کی قیمتیں وہی تھیں جو شہری ہوٹلوں کی۔ کھانے کے بعد ہم نے بقدر ضرورت کرنسی تبدیل کرائی تو ہمیں ۱۰۴ روپے کے بدلے ایک لاکھ افغانی کرنسی ملی۔ یعنی ایک روپے کے نو سو ساٹھ افغانی۔ ایک سال قبل جب میں افغانستان آیا تھا تو ان دنوں عموماً ایک روپے کے ۷۷ افغانی ملتے تھے۔ کرنسی میں یہ زوال امریکہ اور اقوام متحدہ کی جانب سے پابندیوں کے اعلان کی وجہ سے پیدا ہوا تھا۔

بولدک سے قندھار تک ایک سو کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ لیکن یہ روڈ اس قدر خراب تھا کہ سفر کار میں دو گھنٹوں میں، ہائی ایس میں تین گھنٹے میں اور بس میں پانچ گھنٹوں میں طے ہوتا تھا۔ ایک سال قبل طالبان نے ازبک نواس سڑک کی تعمیر کا پروگرام بنایا تھا لیکن وہ اس قدر مہنگا تھا کہ طالبان اس کو پورا کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے تھے۔ اس روڈ کے بارے میں حکومت پاکستان نے بھی وعدہ کیا تھا کہ وہ تعمیر کروائے گی لیکن وہ وعدہ بھی وفانہ ہو سکا۔ اس صورتحال میں طالبان نے خود ہی اس سڑک کی مرمت کا کام شروع کر رکھا تھا اور اب تک کم از کم بیس فیصد راستہ ہموار ہو چکا تھا۔

مغرب سے کچھ دیر پہلے ہم قندھار پہنچ گئے۔ جہاں ہم نے صرف ایک رات قیام کرنا تھا اور یہ قیام

فوجی چھاؤنی کے مہمان خانے میں ہونا تھا۔

☆.....☆.....

قدحار شہر کا بازار اتنا بڑا نہیں کہ آپ کو اس میں گھومنے پھرنے کیلئے سواری کی ضرورت ہو۔ ویسے بھی یہ چھاؤنی کے قریب ہی واقع ہے۔ لہذا ہم نے پیدل ہی اس کی سیر کا پروگرام بنایا۔ اس سلسلہ میں ہم سب سے پہلے قدحار شہر کے مشہور ”ہرات بازار“ میں پہنچے، جہاں اب بھی لوگوں کی چہل پھل جاری تھی۔ حالانکہ یہ وہی شہر تھا جہاں آج سے صرف پانچ سال قبل مغرب کے بعد دکان کھولنا تو کجا گھر سے باہر قدم رکھنا بھی محال سمجھا جاتا تھا۔ جبکہ آج رات کے نونج رہے تھے اور بیشتر دکانیں کھلی ہوئی تھیں۔ دوستوں کا اصرار تھا کہ افغانی آنسکریم ”شیرخ“ کھانی ہے، چنانچہ ہم آنسکریم کی دکان پر جا پہنچے۔ چھ ہزار افغانی (تقریباً سات روپے) فی کپ کے حساب سے ہر شخص نے ایک ایک کپ آنسکریم کھائی۔ آنسکریم کا معیار بلند جبکہ قیمت بالکل کم تھی۔ آنسکریم کھا کر ہم نے چوک شہداء سے دو من اتار خریدے (جو پاکستانی دس کلو بنتے ہیں) قدحار میں اتار کے موسم کے یہ آخری دن چل رہے تھے اور اب یہ اپنی عام قیمت سے کافی مہنگے ہو چکے تھے لیکن پھر بھی ہمیں دس کلو اتار نوے ہزار افغانی (تقریباً پچانوے روپے پاکستانی) کے ملے۔ ایک اور دکان سے بیس ہزار افغانی فی کلو کے حساب سے دو کلو انگو خریدے۔ یاد رکھئے! اگر آپ کو قدحار جانے کا اتفاق ہوا اور آپ نے وہاں کے اتار اور انگو نہیں کھائے تو سمجھئے آپ نے قدحار دیکھا ہی نہیں۔ تھوڑی سی دیر میں لاکھوں کی ”شاپنگ“ کر کے ہم مہمان خانے میں واپس پہنچ گئے جہاں کھانا ہمارا منتظر تھا۔

☆.....☆.....

صبح فجر کی نماز کے بعد ناشتہ کیا اور پھر کامل کے سفر کی تیاری شروع کر دی۔ دن کے ساڑھے دس بجے دو ٹویونا ہائی ایس گاڑیاں قدحار سے کامل کیلئے روانہ ہوئیں۔ جن میں ہم کل چھ بیس افراد سوار تھے۔ اس سفر کے آغاز میں ایک ایسا معاملہ پیش آیا جس سے ہمیں طالبان حکومت کے حسن انتظام کا اعتراف کرنا پڑا۔ ہوا یوں کہ جب ہم نے چھ بیس افراد کے گروپ کی شکل میں کامل تک کیلئے سواری تلاش کرنا چاہی تو معلوم ہوا کہ یہ یک وقت اتنے افراد کیلئے گاڑیاں دستیاب نہیں۔ کیونکہ دونوں شہروں کے درمیان آمد و رفت بہت زیادہ تھی، کاروباری افراد اور سامان تجارت بھی بڑے پیمانے پر نقل و حرکت میں تھا، لہذا گاڑیوں کی شدید قلت ہو گئی تھی۔ ایسے عالم میں جب ہمیں دو گاڑیوں کے ڈرائیور نے ۷۵ ہزار افغانی فی

سواری کی بجائے ایک لاکھ افغانی بتایا تو ہم نے اسی کو نعمت جانا اور ان سے معاملہ طے کر لیا۔ گاڑیوں میں سوار ہونے کے بعد جب ہم شہر سے باہر نکل کر طالبان کی پہلی چیک پوسٹ پر پہنچے تو وہاں کسی سواری کی کسر پمسر سے طالبان اہلکاروں کو بھٹک پڑ گئی کہ ڈرائیوروں نے کرایہ زیادہ لیا ہے۔ انہوں نے ہم سے پوچھا تو ہم نے بھی تصدیق کی۔ یہ صورتحال جان کر سرکاری اہلکاروں نے ڈرائیوروں کو ڈانٹا اور کہا کہ تم نے قانونی طور پر طے شدہ کرائے سے زیادہ کیوں وصول کیے ہیں؟ اور پھر یہ تو پردہ کی مہمان ہیں۔ ان سے تم نے ایسا سلوک کیوں کیا؟ ڈرائیور لاجواب تھا اور طالبان برہم۔ چنانچہ ہم نے معاملہ رفع دفع کروایا لیکن طالبان نے بھی چوکی کی زنجیر اس وقت تک نیچے نہیں کی جب تک کہ ڈرائیوروں نے زائد وصول کردہ رقم ہمیں واپس نہیں کر دی۔

ایک مسلسل جاری رہنے والی جنگ کے دوران ایسے چھوٹے چھوٹے معاملات کی نگرانی اور ان پر کنٹرول طالبان کے حسن انتظام کی بہترین مثال تھا۔


قدھار کے مرکزی دروازے سے نکلنے ہی سڑک کی دائیں جانب قدھار کا مشہور اسپتال ”مستشفى عمر“ واقع تھا۔ یہ شاندار عمارت والا ہسپتال سابقہ دور کی نشانی تھی لیکن مختلف جنگوں کے دوران یہ عمارت بذات خود عبرت کا نمونہ بن گئی تھی۔ طالبان نے آ کر اس کی تعمیر نو کی اور آج اس میں بیس سے زائد تجربہ کار ڈاکٹروں کا عملہ علاج معالجہ کی خدمات سرانجام دے رہا تھا، جن میں سے بیشتر پاکستانی تھے۔ اس ہسپتال میں ہر قسم کی طبی سہولت مہیا کرنے کی کوشش کی گئی تھی اور اس کی افادیت کا اندازہ اس امر سے بخوبی ہو سکتا ہے کہ بسا اوقات یہاں ایک ایک دن میں دس دس کامیاب آپریشن کیے جاتے تھے۔ سنا ہے کہ افغانستان پر امریکی حملوں کے دوران یہ اسپتال ایک مرتبہ پھر کھنڈر بن گیا ہے۔

.....☆.....☆.....

مستشفى عمر سے گزر کر ہم قدھار سے کابل جانے والی سڑک سے ذرا فاصلے پر واقع قشلہ جدید نامی مقام میں واقع اس عظیم الشان قبرستان میں پہنچے جس میں وہ مبارک ہستیاں مدفون ہیں جنہوں نے اپنے جوان لہو سے سر زمین افغان کی آبیاری کی، جنہوں نے تحریک طالبان کے پرچم تلے اپنے خون کے نذرانے پیش کر کے اسلامی پرچم کو بلند کیا۔ اس وسیع و عریض قبرستان کی ایک جانب تقریباً ایک سو قبریں ہیں جن میں مختلف اوقات میں شہید ہونے والے علماء اور طلباء مدفون ہیں۔ انہی میں ان چودہ پاکستانی طلباء کی قبریں بھی ہیں جنہیں دو سال قبل بامیان جیل میں شہید کر دیا گیا تھا۔ قبرستان کی دوسری جانب

ایک بہت بڑی چار دیواری میں واقع تین ہزار سے زائد قبریں ان عظیم المرتبت شہداء کی ہیں جنہیں محرم ۱۴۱۷ھ میں پیش آنے والے سانحہ مزار شریف کے نتیجے میں شمالی افغانستان کے صحراؤں اور ریگستانوں میں انتہائی بے دردی سے شہید کر دیا گیا تھا۔ ایک ایسی محور کن مہک، جس کی مثال کسی بھی عام خوشبو سے نہیں دی جاسکتی، سے معطر اس گلزار شہداء پر عقیدت کے پھول نچھادر کر کے ہم گاڑیوں میں سوار ہو کر کابل کی طرف روانہ ہو گئے۔

قدھار سے کابل تک ۵۲۵ کلومیٹر کا راستہ ہے جس پر روس سے بھی پہلے دور میں پختہ سڑک تعمیر کی گئی تھی۔ لیکن بیس سال سے زائد عرصہ پر محیط جنگ میں یہ سڑک بھی مکمل طور پر تباہ ہو چکی تھی۔ افغانی لوگ بتاتے ہیں کہ جب یہ روڈ صحیح تھا تو اس وقت ہم ۶ گھنٹے میں قدھار سے کابل تک سفر کرتے تھے لیکن تباہی کے بعد یہ سفر اگر پرائیویٹ گاڑی میں کیا جائے تو جب بھی اٹھارہ گھنٹے سے کم وقت میں طے نہیں ہو سکتا تھا۔ طالبان حکومت نے اپنی گونا گوں اقتصادی مشکلات کے باوجود جگہ جگہ سے اس کی تعمیر نو کا کام شروع کیا ہوا تھا۔ جو اگرچہ کافی سست تھا لیکن پھر بھی قابل ہزار سٹائن تھا۔ خاص طور پر اب، جب کہ آج صبح سے افغانستان کے خلاف اتوا متحدہ کی اقتصادی پابندیوں کا اطلاق ہو چکا تھا لیکن میں نے جگہ جگہ دیکھا کہ سرکاری کارندے اب بھی حسب معمول اپنے وطن کی تعمیر نو میں لگن تھے۔




ان دنوں قدھار سے صبح سویرے چلنے والی گاڑیاں رات ”غزنی“ میں قیام کرتی تھیں لیکن ہماری گاڑی مغرب کے بعد غزنی سے پانچ گھنٹے کی مسافت پر ”گمرک“ کے مقام پر خراب ہو گئی چنانچہ رات ہم وہیں ٹھہرے۔ رات کے آخری پہر میں تین بجے وہاں سے دوسری گاڑیاں کرائے پر لیکر غزنی کیلئے روانہ ہوئے۔ غزنی پہنچ کر کابل کیلئے گاڑی تبدیل کی اور اپنی منزل کی جانب چل دیئے۔

غزنی شہر سے نکل کر ”روضہ شریف“ نامی علاقہ آتا ہے، جہاں تاریخ اسلام کے مشہور بادشاہ سلطان محمود غزنوی کا مزار ہے۔ یہ وہ عظیم فاتح ہیں جنہوں نے موجودہ افغانستان کے علاوہ وسطی ایشیا، ایران اور برصغیر کے بیشتر علاقوں پر شمالی حکمرانی کی اور ہندوستان پر پورے درپے درپے حملے کر کے اس بت کدے کو اسلام کی روشن کرنوں سے منور کیا۔

مزار پر بنی ہوئی قدیم، سادہ طرز مگر پر شکوہ اس بلند عمارت کے احاطے میں اس عظیم بادشاہ کی آخری آرام گاہ کے پاس گزرنے والے چند ہی لمحوں میں اپنے تابناک ماضی کے ہزار ہا اوراق تصور کی

نظر سے گزر گئے جن میں سے ہر ایک ورق پر اس شہنشاہ جیسے لاکھوں فرزند ان اسلام نے اپنا لہو دیکر عظمت و عزیمت کی ہزار ہا داستانیں رقم کی تھیں۔ وہی داستانیں جو آج قصہ پارینہ بن چکی ہیں۔

سلطان کے مزار پر دعا کرنے کے بعد ہم گاڑیوں کی طرف واپس لوٹ رہے تھے کہ سامنے کی جانب سے جہاد افغانستان کے فاتح مولانا جلال الدین خٹانی اپنے رفقاء کے ہمراہ آتے دکھائی دیئے۔ جو طالبان حکومت میں وزیر سرحدات کے عہدہ پر فائز تھے۔ جہاد افغانستان کا ایک ناقابل فراموش کردار، عظیم گوریلا کمانڈر، افغانستان کے وفاقی وزیر انتہائی خاموشی کے ساتھ، پر وقار انداز میں سلطان کے مقبرے کی طرف بڑھ رہے تھے۔ میں چونکہ اس سے قبل کمانڈر خٹانی سے مل چکا تھا چنانچہ پہچان لیا اور سلام دعا کی۔ اس کے بعد ہم گاڑیوں میں سوار ہوئے اور پھر کابل کی طرف روانہ ہو گئے۔



شام کے چارج رہے تھے جب ہم افغان دارالحکومت کابل شہر میں داخل ہوئے۔ کابل میں داخل ہوتے ہوئے سب سے پہلے جس خوشگوار صورتحال کا سامنا ہوا وہ یہ تھی کہ شہر کے بازار میں دس بارہ بڑے بڑے ٹرالر کھڑے تھے جن میں کئی ٹن گندم لدی ہوئی تھی۔ معلوم ہوا کہ گندم کی یہ کیپ ابھی ابھی ترکمانستان سے پہنچی ہے۔ ہماری گاڑیاں کابل کے مشہور بازار پل نشتی سے ہوتی ہوئی چھاؤنی میں پہنچیں۔ دو دن کے تھکا دینے والے سفر کی وجہ سے کسی میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ اس وقت شہر کی سیر کو لگتا۔ لہذا ہر قسم کی تفریح آنے والی تک مؤخر کر کے آرام کرنے کا فیصلہ کیا۔

اگلے دن سے کابل میں ہمارا قیام شہر کے جنوب میں واقع ایک چھاؤنی میں ہونا تھا۔ ریش خور نامی حکمت یار کی اس تباہ شدہ چھاؤنی کو از سر نو آباد کر کے طالبان نے بہترین قسم کی فوجی قرار گاہ قائم کی تھی۔ چھاؤنی کے گیٹ پر لشکر محمدی کا بڑا سا سفید پرچم لہرا رہا تھا، جبکہ دو طلبہ پہرے پر موجود تھے۔ ان سے اجازت لے کر ہم اندر پہنچے اور چھاؤنی کے بعض ذمہ داروں سے مختصر سی ملاقات ہوئی۔ اسی دوران معلوم ہوا کہ کچھ ہی دیر بعد چھاؤنی سے طالبان کی ایک جماعت محاذ کی جانب روانہ ہونے والی تھی۔ میں اس وقت اگرچہ صرف کابل کے حالات کا جائزہ لینے آیا تھا لیکن گئے ہاتھوں ملنے والا اگلے سوچوں (جسے افغانی اصطلاح میں خط اول یا کمر بند کہا جاتا ہے) کی سیر کا یہ موقع ہاتھ سے جانے نہ دینا چاہتا تھا۔ چنانچہ ان کے ساتھ محاذ کی طرف روانہ ہو گیا۔



گذشتہ سال جب میں کابل آیا تھا تو طالبان کا خط اول کابل کے مغرب میں قلعہ مراد بیگ اور شمال میں بگرام کے علاقے تک تھا۔ لیکن اب یہاں سے تقریباً تین ماہ قبل طالبان پیش قدمی کرتے ہوئے گزشتہ محاذوں سے ۲۵ کلومیٹر آگے بڑھ گئے تھے۔ چنانچہ ہماری گاڑی قلعہ مراد بیگ کی پہاڑی کو پیچھے چھوڑتی ہوئی تیزی سے اس سڑک پر آگے بڑھ گئی جو کابل سے پنج شیر کی طرف جاتی ہے۔ مراد بیگ کی یہ پہاڑیاں وہ تاریخی مقام ہے جہاں سے آگے بڑھنے کیلئے طالبان کو دو سال تک انتظار کرنا پڑا اور پھر ۵۰۰ سے زائد جوانوں کا لہو دشمنوں کو یہاں سے دور بہا کر لے گیا۔

قلعہ مراد بیگ کے بعد تقریباً آدھے گھنٹے کا سفر کر کے ہم قرہ باغ پہنچ گئے جہاں موجودہ محاذ کی فرنٹ لائن تھی۔ یہاں سے دشمن کے مورچے بھی بالکل قریب تھے اور صاف طور پر دکھائی دیتے تھے۔ چنانچہ دن میں کئی مرتبہ فریقین کے مابین فائرنگ کا تبادلہ بھی ہوتا رہتا تھا۔ میں نے وہ دن اور اس سے اگلی رات انہی مورچوں میں گزاری۔

اللہ کے دین کی سر بلندی اور ملت اسلامیہ کی حفاظت کی خاطر اپنی جانوں کو ہتھیلیوں پر رکھ کر دن رات موت کے منہ میں رہنے والے ان شاہین صفت نوجوانوں کے ساتھ گزرنے والی وہ چند ساعتیں وجد آفریں تھیں۔ میں نے خط اول (فرنٹ لائن) پر جو نوجوان دیکھے ان میں سے بیشتر کی عمریں ۱۸ سے ۲۵ سال کے درمیان تھیں۔ لیکن ان میں سے ہر ایک کی آنکھوں میں بلا کی چمک اور چہروں سے چھلکنے والے شجاعت کے آثار واقعی مسور کن تھے۔ دنیا بھر کی طرف سے ملنے والے ”بنیاد پرست مذہبی جنونی“ جذباتی، جیسے تمغے سینوں پر سجائے ان نوجوانوں کو جب میں نے ہر قسم کی آسائش و راحت سے بے نیاز ہو کر دشت و بیابان میں پہاڑوں کی چوٹیوں پر مورچہ زن پایا تو اقبال مرحوم کا پیغام یاد آ گیا۔

نہیں تیرا دشمن قصر سلطانی کے گنبد پر

تو شاہین ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر


خط اول پر قیام کے دوران کچھ دیر کیلئے عرب مجاہدین کے مورچوں میں جانے کا اتفاق ہوا۔ مصر، یمن، سوڈان اور نہ جانے کہاں کہاں سے اٹھ کر آنے والے یہ عرب شہداء آج دنیا کی ہر راحت کو ٹھکرا کر اپنے بلند مقصد کی جستجو میں ان مورچوں میں کانٹوں کو اپنا اوڑھنا کچھوتا بنائے ہوئے تھے۔ ان عرب مجاہدین کے عقابنی چہرے اور ہمالہ کو بھی شرمادینے والے بلند حوصلے دیکھ کر مجھے ان کا مرتبہ اتنا عالیشان لگا کہ تیل خزانوں کے مالک، عرب شہنشاہ ان کے ہیروں کی خاک محسوس ہونے لگے۔

عرب مجاہدین کے امیر شیخ سعدی تھے۔ ان سے کافی تفصیلی گفتگو ہی۔ ہم نے جب ان سے اقتصادی پابندیوں کے بارے میں پوچھا تو مسکرا کر کہنے لگے ”ہمارا مالک اللہ ہے، رزق اسی کے ہاتھ میں ہے، کلنٹن کے ہاتھ میں نہیں“

انہوں نے بتایا کہ ”اگر معاملہ صرف شیخ اسامہ کا ہوتا تو وہ کب کے افغانستان چھوڑ کر جا چکے ہوتے لیکن انہیں یقین ہے کہ اصل ہدف وہ نہیں بلکہ طالبان ہیں۔“

دوران گفتگو میں نے کئی مرتبہ ان عرب مجاہدین کے مسکراتے چہروں کا بغور جائزہ لیا۔ لیکن ان میں بناوٹ کا شائبہ تک نہ تھا۔

خط اول پر ایک یادگار دن گزار کر دوسرے دن میں واپس کا بل پہنچ گیا۔ جہاں اب میرے دوست محترم سیف اللہ بھی آچکے تھے جنہوں نے پروگرام کے مطابق مجھے شہر کی سیر کرانی تھی۔ چنانچہ ان کے ساتھ مل کر کاہل شہر کے تفصیلی جائزے کا پروگرام طے کیا اور اس پر اسی دن سے عمل شروع کر دیا۔ اس کے بعد میں تین دن کاہل میں رہا۔ میں نے وہاں کیا دیکھا؟ چند مشاہدات قارئین کی نذر کر رہا ہوں۔



امن انسانی معاشرے کی بنیادی ضرورت ہے۔ لیکن افغان قوم کی بد قسمتی کہ گذشتہ پچیس سال سے زائد عرصے تک امن کی فاختہ نے نگلن افغان کا رخ نہیں کیا۔ طالبان کی آمد سے قبل صرف کاہل ہی نہیں پورا افغانستان بری طرح خانہ جنگی اور قتل و غارتگری کا شکار تھا۔ جگہ جگہ پر عوامی راستوں میں پھانک لگا کر غریب عوام کو لوٹنا، عورتوں کی عصمت دری کرنا، قومی تعصب کی بناء پر قتل کرنا اور راہزنی اور چوری چکاری کی وارداتیں عام تھیں۔ خوف و ہراس کا یہ عالم تھا کہ کوئی شخص شام کو اندھیرا پھیلنے کے بعد گھر سے نکلنے کی جرأت نہیں کرتا تھا۔ خود کاہل شہر کا عجیب و غریب حال تھا۔ اس شہر کی گلیوں میں کبھی احمد شاہ مسعود کے فوجیوں کی حکومت ہوتی اور کبھی جنرل دوستم کی ملیشیا دندناتی پھرتی اور پھر جب مسعود، سیاف، حزب وحدت اور حکمت یار کے مابین فائرنگ کے تبادلے ہوتے تو پورا کاہل شہر لرز جاتا اور ان سب باتوں سے بڑھ کر حزب وحدت کے جنگجوؤں کے وہ انسانیت سوز جرائم تھے جن کے بارے میں سن کر انسان کا دل لرز کر رہ جاتا ہے۔ حزب وحدت کا مرکز کاہل شہر کا جنوبی حصہ تھا جہاں باغ وحش (چڑیا گھر) واقع ہے۔ باغ وحش کے بالکل قریب ایک بڑا سا چوک ہے، چوک کی تین اطراف میں اجڑی ہوئی دکانیں ہیں، جو اب کسی کھنڈر کا منظر پیش کرتی ہیں۔ مجھے محترم سیف اللہ نے بتایا کہ حزب

وحدت والے رات کے اندھیرے میں کابل شہر سے سنی نوجوانوں کو انخواء کر کے لاتے اور پھر یہاں ان دکانوں میں ان کے ہاتھ پاؤں آہنی میخوں کے ساتھ دیواروں میں گاڑ دیتے۔ انہوں نے بتایا کہ آج بھی ان مظلوم سینوں کے خون کے نشانات ان دکانوں کی دیوار پر موجود ہیں۔ میرے کہنے پر انہوں نے وہ دردناک مناظر مجھے بھی دکھائے۔

غرضیکہ طالبان کی آمد سے قبل پورے افغانستان میں ہر طرف جو دستم کاراج تھا۔ لیکن آج کا کابل چار سال قبل کے کابل سے بالکل مختلف دکھائی دے رہا تھا۔ آپ پورے شہر میں گھوم جائیں آپ کو کہیں بھی کسی قسم کے جرم کا نام و نشان نہیں ملے گا۔ شہر کے تمام باشندوں کو معلوم تھا کہ رات دس بجے سے پہلے پہلے وہ مکمل آزادی کے ساتھ گھوم پھر سکتے ہیں۔ البتہ حفاظتی انتظامات کے پیش نظر رات دس بجے سے صبح چار بجے تک کرفیو نافذ رہتا تھا۔ امن و سلامتی کا یہ عالم تھا کہ طالبان حکومت نے یہاں تک دعویٰ کیا کہ ہم عالمی اداروں کو دعوت دیتے ہیں کہ ”وہ ایک کھلی گاڑی میں سونا چاندی بھر کر قندھار سے کابل تک لے جائیں، جو پسینے کھنسنے کے اس سفر میں کوئی شخص ان کی طرف میلی نگاہ سے بھی نہیں دیکھے گا۔“ اگر بہ نظر انصاف دیکھا جائے تو پوری دنیا کی تنقید کا نشانہ بننے والی طالبان حکومت کی جانب سے یہ چیلنج جدید دنیا کے منہ پر زلت آمیز مظاہرہ تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ جیسا امن و امان افغانستان میں طالبان نے قائم کیا تھا اس کی مثال آج کے ترقی یافتہ ممالک بھی پیش کرنے سے عاجز ہیں۔ خصوصاً ہم پاکستانیوں کو تو یہاں کی پر امن فضا کا احساس اور بھی زیادہ ہو رہا تھا کہ پاکستان میں آپ قانون کے رکھوالوں کے سائے سے بھی ڈرتے ہیں اور وہاں تاریک رات میں تنہا سفر کرتے ہوئے بھی کسی قسم کا خوف محسوس نہیں ہوتا تھا۔

افغانستان میں امن و امان کی یہ صورتحال پیدا کرنے میں طالبان کی اعلیٰ قیادت کا کردار خاصا اہم رہا۔ خود ایک مرتبہ میں نے دیکھا کہ رات کے بارہ بجے گورنر قندھار ملا محمد حسن جو کہ ایک ٹانگ سے معذور بھی تھے، چند طالبان کے ساتھ قندھار کے مشہور شہداء چوک کے پاس کھڑے پہرہ دے رہے تھے۔ مجھے ملا محمد حسن کو اس حال میں کھڑا دیکھ کر اسلام کے خلیفہ دوم حضرت عمر رضی اللہ عنہ یاد آ گئے جو راتوں کو گھوم گھوم کر اپنے عوام کی رکھوالی کرتے تھے اور ان کی خبر گیری کیا کرتے تھے۔

طالبان نے اپنے دور حکومت میں افغانستان میں امن و امان کا جو ماحول قائم کیا، اس کا اعتراف طالبان کے مخالفین نے بھی واضح الفاظ میں کیا ہے۔ پیٹر مارٹن لکھتے ہیں:

”طالبان کے بارے میں شہرت تھی کہ وہ جس شہر کو فتح کرتے تھے وہاں
مہذب انداز سے داخل ہوتے تھے، عام لڑائیوں کی طرح وہ لوٹ مار، قتل
وغارت گری اور خواتین کی بے حرمتی جیسے جرائم میں ملوث نہیں ہوتے تھے۔“

ایک اور جگہ وہ لکھتے ہیں:

”ملک کے جنوبی صوبوں اور کابل کے عوام نے طالبان کے قبضے کے
بعد اطمینان کا سانس لیا ہے، کیونکہ انہیں بموں اور راکٹوں کی بارش سے نجات
مل گئی ہے۔“

پیٹر مارٹن ایک اور جگہ یوں رقمطراز ہیں:

”بعض دوسرے انسانی حقوق جن کی افغانوں کو تلاش ہے وہ یہ ہیں: ملک
میں امن و استحکام، مناسب معیار زندگی، اچھی صحت اور جان و مال کی حفاظت
(یعنی انہیں چوری ڈکیتی، تشدد اور آبروریزی کا خطرہ نہ ہو) طالبان نے اپنے ہم
وطنوں کو امن و سکون کی دولت تو دے دی ہے، یعنی وہ گھر اور سفر دونوں جگہ چوری
ڈکیتی سے کافی حد تک محفوظ ہو گئے ہیں۔ چوری یا آبروریزی کا کوئی خطرہ نہیں
ہے اور پہلی حکومتوں کے مقابلے میں ان کا ریکارڈ بہت بہتر ہے۔“


دوسرے طالبان مخالف مصنف احمد رشید امن و سلامتی کے حوالے سے طالبان کے اقدامات کا
ذکران الفاظ میں کرتے ہیں:

”جو علاقے ان کے پاس تھے ان میں لوگوں کو غیر مسلح کر دیا گیا۔ ان
پر قانون نافذ کیا گیا۔ شریعت پر عمل کرنا لازمی قرار دیا گیا۔ سڑکیں ٹریفک کے
لئے کھل گئیں، جس کے باعث کھانے پینے کی اشیاء کی قیمتوں میں فوری طور پر
کمی ہو گئی۔ طویل عرصے سے مصائب برداشت کرنے والی آبادی کیلئے یہ
اقدامات خوشگوار تھے۔“

احمد رشید ایک اور جگہ لکھتے ہیں:

”طالبان نے اپنے فوجیوں کو لوٹ مار سے منع کر رکھا تھا۔“
افغانستان کی اقتصادی اور معاشی صورتحال کا تجزیہ کرتے ہوئے احمد رشید رقمطراز ہیں:

”عالمی خوراک پروگرام میں ۱۹۹۸ء میں غذائی اجناس کی پیداوار کا اندازہ ۸۵ء۳۷ بلین ٹن تھا۔ اس سے پہلے سال کی پیداوار سے پانچ فیصد زیادہ۔ ۱۹۷۸ء کے بعد غذائی پیداوار کے لحاظ سے یہ سب سے اچھا سال تھا۔ اس سے پتہ چلتا تھا کہ طالبان کے قبضے میں دیہی علاقوں میں امن و قانون کی حالت قدرے بہتر ہوئی ہے۔ لڑائی میں کمی آئی ہے اور مہاجروں نے واپس آ کر کھیتی باڑی شروع کر دی ہے۔ تاہم پاکستان میں ۱۲ لاکھ اور ایران میں ۱۴ لاکھ افغان مہاجر ابھی تک موجود ہیں۔ ۱۹۹۲ء اور ۱۹۹۹ء کے درمیان ۴۰ لاکھ مہاجر واپس آ چکے ہیں۔ طالبان اور اقوام متحدہ کی ایجنسیوں کو شہروں میں غذائی قلت پر قابو پانے کیلئے ۷ لاکھ ۵۰ ہزار ٹن گندم درآمد کرنا پڑی۔ صاف عیاں ہے کہ افغانستان میں اقتصادی تباہی طالبان کی پیدا کردہ نہیں ہے، انہیں یہ خانہ جنگی ورثے میں ملی ہے، جو ۱۹۹۲ء سے مختلف گروہوں نے برپا کر رکھی ہے۔“



امن و امان کی بحالی اور مسلم معاشرہ کی ترقی اور صرف شریعت اسلامیہ میں مضمر ہے۔ طالبان سے پہلے حکمرانوں نے اسلام کے نام پر کابل کے اقتدار پر قبضہ کر لیا تھا لیکن وہ اس مقصد کو فراموش کر بیٹھے جس کے حصول کیلئے سولہ لاکھ شہداء نے ان کی قیادت میں اپنے خون کا نذرانہ پیش کیا تھا۔ طالبان تحریک جب ابتدائی مراحل میں تھی تو اس وقت انہوں نے کابل حکومت سے مطالبہ کیا تھا کہ وہ شریعت نافذ کر دے تو طالبان اقتدار کے مطالبے سے دست بردار ہو جائیں گے لیکن اس وقت ربانی حکومت نے طالبان کے اس مطالبے کو پانے کی حقارت سے ٹھکرا دیا تھا۔

طالبان کی حیرت انگیز کامیابیوں کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ انہوں نے اول روز سے اپنے مفتوحہ علاقوں میں شریعت نافذ کی۔ ملک کی تینوں عدالتوں کے تمام تریبیٹل قرآن وحدیث کی روشنی میں صادر کیے جاتے تھے اور شریعت کے مقابلے میں کسی بھی شخص سے کسی قسم کی کوئی رعایت روا نہیں رکھی جاتی تھی۔ حسن اتفاق کہیے کہ طالبان کے اس عدالتی نظام سے خود مجھے بھی سابقہ پڑ چکا ہے۔ اس واقعہ کی تفصیل میں نے کافی عرصہ قبل ایک اخبار میں لکھی تھی، قارئین کی آگاہی کیلئے وہی مضمون پیش خدمت ہے:

یہ آج سے پانچ سال قبل کا ذکر ہے، میں ان دنوں قندھار میں تھا، جب ہمارے بعض دوست افغانستان میں فلاحی ورفاعی کام کے حوالے سے پانی کے کچھ کنویں کھدوانا چاہتے تھے اور بورنگ کروا کر پانی کے پائپ لگوانا چاہتے تھے۔ اس سلسلہ میں انہوں نے کونڈ کے ایک ٹھیکیدار سے بات کی تھی، چنانچہ فریقین کے مابین ایک معاہدہ طے پایا تھا جس کی رو سے ٹھیکیدار نے اپنا ساز و سامان کونڈ سے لانا تھا اور مقررہ میعاد میں بورنگ کر کے دینی تھی۔ مگر ہوا یوں کہ وہ طے شدہ مدت تک کونڈ سے اپنا سامان نہ لاسکا اور ہمارے دوستوں نے کسی دوسرے ٹھیکیدار سے معاملہ کر کے بورنگ شروع کروادی۔ اب جب کونڈ والا ٹھیکیدار چند دن بعد اپنا سامان لے کر آیا تو ہمارے ساتھیوں نے اس سے کام کروانے سے انکار کر دیا، یوں معاملہ جھگڑے کی صورت اختیار کر گیا۔

ایک دن صبح کے وقت ہمیں اپنی رہائشگاہ پر ایک چھوٹی سی پرچی موصول ہوئی جو دراصل قندھار کی شرعی عدالت کی طرف سے ”سمن“ تھا۔ اس پرچی پر لکھا تھا کہ فلاں شخص (ٹھیکیدار) نے آپ پر دعویٰ کیا ہے لہذا کل صبح دس بجے آپ عدالت میں پیش ہو جائیں۔ اس سمن کے ملنے پر ہمارے دوستوں نے مجھے عدالت بھیجنے پر اتفاق کیا کہ میں فارسی اور پشتو میں تھوڑی بہت شد بدرکھنے کے باعث ”اندھوں میں کارنا لاجہ“ کی طرح تھا۔ دوسری طرف میرے لیے پریشانی کی بات یہ تھی کہ اس سے قبل راقم کو دنیا کے کسی ملک کی کسی بھی عدالت میں کبھی بحیثیت فریق پیش ہونے کا اتفاق نہیں ہوا تھا۔ افغانستان تو کجا، مجھے پاکستان کے عدالتی نظام کے بارے میں بھی کچھ معلومات نہیں تھیں، ہاں! بس اتنا معلوم تھا کہ جب بھی کسی کو عدالت میں پیش ہونا ہوتا ہے تو وہ وکیل کی خدمات حاصل کرتا ہے کیونکہ وکیل ہی وہ شخصیت ہوتی ہے جو عدالت عالیہ میں سخن گوئی کی تاب رکھتی ہے۔ مگر یہاں تو جب ہم نے معلومات کیں تو پتہ چلا کہ شرعی عدالت میں پیشی کیلئے وکیل کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں۔ آپ خود جا کر بھی اپنی زبان سے اپنا مؤقف پیش کر سکتے ہیں۔ یہ سن کر ہمیں خوشی بھی ہوئی کہ لہجے کم از کم اس مملکت کی حدود تک تو شیطان بے اولاد ہے۔ لیکن ڈر بھی لگا کہ نجانے اپنے دوستوں کا مؤقف مضبوط انداز سے عدالت میں پیش کر بھی سکوں گا یا نہیں؟ بہر حال اگلے دن صبح دس بجے کے قریب ہم قندھار کی شرعی عدالت کے احاطے میں پہنچ چکے تھے۔

کمرہ عدالت کے قریب پہنچ کر میں نے وہاں موجود بعض لوگوں کی راہنمائی کے بعد عدالتی سمن کی پرچی کمرے کے اندر کی جانب کھڑے ایک شخص کو پکڑادی جسے آپ خوشی یا پیش کار بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس

شخص نے مجھ سے پرچی وصول کر کے پڑھی اور پھر تھوڑی دیر انتظار کرنے کا کہہ کر اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ تقریباً نصف گھنٹے بعد ہم دونوں فریقوں کا اسی شخص نے نام پکارا تو ہم کمرۂ عدالت میں داخل ہو گئے۔ ایک درمیانے درجے کے ہال نما کمرے میں جس کا طول و عرض ۳۰×۱۵ فٹ تک ہو گا میں قالین بچھا ہوا تھا اور تین جانب، بالکل ویسے تین کتب (ڈیسک) رکھے تھے جیسے ہمارے ہاں حفظ قرآن کی درس گاہ میں قاری صاحبان کیلئے رکھے ہوتے ہیں۔ ان مکاتب (ڈیسکوں) کے ساتھ ساتھ ایک ایک سفید ریش بزرگ بیٹھے ہوئے تھے۔ معلوم ہوا کہ یہ قاضی صاحبان ہیں۔ ہم جب کمرے کے اندر داخل ہوئے تو دو قاضی صاحبان تو مقدمات کی سماعت کر رہے تھے جبکہ ایک فارغ تھے۔ ہمیں بتایا گیا کہ ہمارے مقدمے کی سماعت یہی کریں گے۔ چنانچہ ہم دونوں ان کے سامنے جا کر بیٹھ گئے۔ ساٹھ سال کی لگ بھگ عمر کے نورانی صورت والے قاضی صاحب نے بیٹھے ہی ہمارے نام پوچھے پھر پوچھا کہ مدعی کون ہے؟ ٹھیکیدار نے اپنا بتایا کہ وہ مدعی ہے۔ قاضی صاحب نے فرمایا کہ اپنا دعویٰ بیان کرو، چنانچہ اس نے پوری تفصیل کے ساتھ تقریباً دس منٹ میں اپنی بات بڑی تسلی اور اطمینان کے ساتھ بیان کی۔ پھر قاضی صاحب نے مجھے حکم دیا کہ تم اس دعوے کے جواب میں کیا کہتے ہو؟ میں نے سب سے پہلے وضاحت کرنا چاہی کہ میں آپ کا اہل زبان یعنی پشتون نہیں ہوں لہذا ممکن ہے کہ اپنا دعویٰ صحیح بیان نہ کر سکوں، قاضی صاحب نے میری یہ کیفیت دیکھی تو کہنے لگے خیر ہے تم اپنی بات کرو میں سمجھنے کی کوشش کروں گا۔ چنانچہ میں نے پشتو اور فارسی کے اشتراک سے اپنا دعویٰ مختصر انداز میں ان کے سامنے رکھ دیا، میری بات سن کر انہوں نے مدعی ٹھیکیدار سے میری باتوں کا جواب دینے کیلئے کہا، پھر اسی طرح مجھے بھی اس بحث کا موقع دیا۔ بعد ازاں قاضی صاحب نے از خود دونوں سے سوالات کیے جن کے ہم دونوں نے جواب دیے۔ اس مختصری بحث و تحقیص کے بعد قاضی صاحب نے فیصلہ سنا دیا کہ ہمارے ساتھی ٹھیکیدار سے معاہدہ منسوخ کرنے میں حق بجانب ہیں، لہذا انہیں اسی ٹھیکیدار سے کام کروانے پر مجبور نہیں کیا جاسکتا اور ٹھیکیدار سے کہا کہ دس ہزار روپے کی جو پیشگی رقم لی تھی وہ بھی واپس لوٹا دے۔

یہ فیصلہ سن کر ٹھیکیدار نے کچھ چپیں بہ جیبن ہونے کی کوشش کی تو قاضی صاحب نے جلال میں آ کر ٹھیکیدار کو ڈانٹتے ہوئے کہا کہ ایک تو میں نے تمہارے مقدمے کا شریعت کے مطابق فیصلہ کیا ہے اور اوپر سے تم اعتراض کرتے ہو؟ اگر میرا فیصلہ سمجھ میں نہیں آتا تو جاؤ بڑی عدالت (ہائی کورٹ) میں چلے جاؤ۔ یہ کہہ کر انہوں نے ہم دونوں کو کمرۂ عدالت سے رخصت کر دیا۔ عدالت سے نکلنے ہوئے میں نے

دیکھا کہ دوسرے قاضی صاحبان بھی اب نئے مقدمات کو نمٹا رہے تھے۔ میں نے ایک لٹچر کر ڈیپٹی و عقیدت کے بھرپور جذبات کے ساتھ اس سادہ سی عدالت کو دیکھا، فقیر صفت قاضیوں کو دیکھا، خوش قسمت عوام کو دیکھا اور یہ سوچتا ہوا باہر چلا آیا کہ ہمارا یہی مقدمہ اگر پاکستان کی کسی عدالت میں چلایا جاتا تو اسے نمٹانے میں کتنے دن گزر جاتے اور کتنے اخراجات ہو جاتے؟“

طالبان کے قائم کردہ عدالتی نظام کی تفصیلات بیان کرتے ہوئے احمد رشید لکھتے ہیں:

”قدھار کی اسلامی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس مولوی سید محمد پاسانی

جنہوں نے ملا عمر کو شریعت کے بنیادی احکام پڑھائے اور سکھائے تھے، ملا عمر

کے مشیر اعلیٰ بن گئے۔ انہوں نے لاقانونیت کے خاتمے کیلئے اسلامی سزائیں

دینے کا اہتمام کیا۔ انہوں نے ۱۹۹۷ء میں مجھے بتایا کہ ۱۳ صوبوں میں ۱۳ ہائی

کورٹس ہیں، جن کی سربراہی ججوں کے پاس ہے، وہ جرائم کے ارتکاب پر

اسلامی سزائیں تجویز کرتے ہیں۔ میں خود نصف صدی سے دیہات میں

ہجروں کو اسلامی سزائیں دیتا آیا ہوں۔ جہاد کے دوران مجاہدین کو بھی ان

سزاؤں کے اطلاق کے سلسلے میں بتاتا رہا ہوں۔ ملا عمر سے قرب کی بناء پر

قدھار کی اسلامی سپریم کورٹ ملک کی سب سے اہم عدالت بن گئی ہے۔ سپریم

کورٹ صوبوں میں ججوں قاضیوں اور نائب قاضیوں کا تقرر کرتی ہے۔ ان سب

کا سال میں ایک یا دو مرتبہ قدھار میں اجتماع ہوتا ہے۔ جس میں مقدمات پر

بحث ہوتی ہے اور ان کے حوالے سے قانون شریعت کے اطلاق کا فیصلہ کیا جاتا

ہے۔ کامل میں ایک متوازی نظام انصاف موجود ہے۔ یہاں وزارت انصاف

بھی ہے اور سپریم کورٹ برائے افغانستان بھی ہے۔ کامل کی سپریم کورٹ ہفتے

میں ۴۰ مقدمات کا فیصلہ کرتی ہے۔ یہ آٹھ شعبوں پر مشتمل ہے جو تجارت، جرائم

اور عمومی قانون سے تعلق رکھتے ہیں۔“


پاکستان کی جن معروف شخصیات نے طالبان کا طرز حکومت افغانستان جا کر دیکھا ان میں شاعر

مشرق علامہ اقبال مرحوم کے صاحبزادے جسٹس (ریٹائرڈ) جاوید اقبال بھی شامل ہیں۔ اپنے دورہ

افغانستان کے بعد انہوں نے ایک پاکستانی ہفت روزہ رسالے کو اپنی داستان سفر سناتے ہوئے طالبان

حکومت کی عدلیہ کا تذکرہ ان الفاظ میں کیا:

”افغانستان میں اتنی تباہی آچکی ہے کہ ابھی تک وہاں عدلیہ صرف فوجداری قوانین پر ہی عمل درآمد کر رہی ہے۔ کرپشن کا خاتمہ، بے حیائی اور شراب نوشی جیسے مسائل دور کرنے کی ابھی زیادہ کوششیں ہو رہی ہیں۔ ان کی سزائیں دی ہیں جو سعودی عرب میں چوروں اور زانی افراد کو دیتے ہیں لیکن مقام حیرت ہے کہ مغرب اور یورپ کی طرف سے انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں اور بنیاد پرستی کا سارا پروپیگنڈہ طالبان کے خلاف ہی ہوتا ہے حقیقت یہ ہے کہ اس وقت اپنے آپ کو سپر پاور سمجھنے والے انصاف پسند نہیں ہیں اور امریکہ ہو یا روس طالبان دشمنی اور مخالفت میں ایک ہیں..... آپ انصاف کی بات ہیومن رائٹس کے حوالے سے پوچھیں تو میں کہوں گا کہ افغانستان ابھی تک حالت جنگ میں مبتلا ہے اس صورتحال میں جو جراثیم پرورش پاتے ہیں۔ ان کے خاتمے کیلئے عدالتوں کو چلایا جا رہا ہے۔ ایسی صورتحال میں سب سے زیادہ ضرورت اس بات کی ہوتی ہے کہ جلد انصاف ہو، جلد سزا ہوتا کہ مجرم عبرت کا نشانہ بن جائے۔ اس وقت جلد انصاف اور جلد سزا کو طالبان اہمیت دے رہے ہیں۔“



پچیس سال تک آتش و خون کی لپیٹ میں رہنے والے ملک کی کیا حالت ہوتی ہے؟ اس کی ادنیٰ سی جھلک آپ اس وقت دیکھ سکتے ہیں جب قندھار سے آنے والی سڑک پر آپ کا بل شہر کے دروازے سے اندر داخل ہوں۔ مرکزی دروازے سے گزرنے کے بعد کم از کم پانچ کلومیٹر تک تو آپ یہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ آپ کسی ملک کے دارالحکومت تو کجا، کسی ایسے علاقے میں داخل ہو رہے ہیں جہاں انسان نامی کوئی مخلوق خدا بھی بستی ہے۔ سڑک کی دونوں جانب تاحد نگاہ پھیلے ہوئے تباہ شدہ مکانات اور بلند و بالا عمارتیں جنہیں تعمیر ہوئے بھی شاید تیس چالیس سال سے زیادہ عرصہ نہ گزرا ہوگا آج کھنڈرات کا منظر پیش کرتی ہیں۔ اس علاقے میں آپ کو کوئی بجلی کا کھمبا ایسا نظر نہ آئے گا جس پر گولیوں کے درجنوں نشانات نہ ہوں۔ یہ سب چیزیں حزب وحدت، حکمت یار، سیاف، دوستم اور احمد شاہ کی کارستانیوں کا منہ

بولتا ثبوت ہیں۔ اس کے علاوہ مسلسل جنگ کی وجہ سے افغانستان کی سڑکوں کی جو صورت حال ہے اس کے بارے میں بھی پہلے لکھ چکا ہوں۔

طالبان نے زمام اقتدار سنبھالی تو تباہ حال ملک کی تعمیر نو ان کے لئے ایک بہت بڑا چیلنج تھی لیکن طالبان نے اسے نہایت ختمہ پیشانی سے قبول کیا اور پوری طرح اس میں مصروف ہو گئے۔ طالبان نے یہ نہیں سوچا کہ ان کے اپنے گھر پختہ بنے ہوئے ہوں اور ان کی اپنی چھاؤنیاں خوشنما ہوں بلکہ ان کی تمام تر توجہ عوامی ضروریات کی جانب رہی۔ یہی وجہ ہے کہ قندھار وغیرہ کے عوامی راستوں پر طالبان نے از خود ہی پختہ سڑکیں بنائیں جبکہ چھاؤنیوں کے اندر کی سڑکیں ویسی ہی ٹوٹی پھوٹی رہیں۔ افغان عوام کو ہر طرح کی سہولت میسر کی گئی تاکہ وہ اپنی تباہ شدہ عمارتوں کو از سر نو تعمیر کر سکیں۔ ایک سال قبل جب مجھے کابل جانے کا اتفاق ہوا تو وہاں میں نے بہت سی بلند و بالا زیر تعمیر عمارتوں کے برابر میں بڑی بڑی عمارتی کرینیں کھڑی دیکھیں، جو نجانے کتنے عرصے سے تعمیراتی کام بند ہونے کی بناء پر بیکار کھڑی تھیں لیکن اب کی بار کابل شہر کافی بدلا ہوا لگ رہا تھا۔ بارہ بارہ پندرہ پندرہ منزلہ عمارتوں کی مرمت اور تعمیر نو کا کام تیزی سے جاری تھا۔ اس کے علاوہ کابل کے بعض علاقوں مثلاً ”شہر نو“ اور ”وزیر اکبر خان“ کے علاقے میں کئی ایک جدید طرز کی بنی ہوئی نئی عمارتیں بھی دیکھنے کو ملیں جن کا گزشتہ سال نام و نشان تک نہ تھا۔ کابل کی رونقیں انتہائی سرعت کے ساتھ واپس لوٹ رہی تھیں اور افغان قوم امریکی طعنوں اور بین الاقوامی اقتصادی پابندیوں سے بے نیاز ہو کر طالبان کے فراہم کردہ امن و سکون کے سائے میں اپنے ملک کی تعمیر نو میں مگن تھی۔

طالبان نے اپنے پہلے سات سالہ دورِ تحریک یا پانچ سالہ دورِ حکومت میں ابتداء سے اہتمام تک ذرا بھی سکون کا سانس نہیں لیا۔ بے انتہا جنگی مصروفیات، اقتصادی پابندیوں، خشک سالی کی پریشانیوں اور آئے دن سامراجی طاقتوں کی طرف سے ملنے والی دھمکیوں کے باوجود امریکی دراندازی کے وقت طالبان کے پاس کم و بیش ایک ہزار تعمیری منصوبے موجود تھے۔ یہ منصوبے تین قسم کے تھے:


۱۔ روسی دراندازی سے پہلے کے ادوار کے ادھورے چھوڑے ہوئے منصوبے۔

۲۔ روسی دراندازی سے لیکر طالبان کی آمد تک کے تباہ و برباد ہو جانے والے منصوبے۔

۳۔ ملک اور عوام کی ضروریات کو سامنے رکھتے ہوئے نئے منصوبے۔

طالبان جس کام کے کرنے کی ضرورت محسوس کرتے اس پر بحث شروع ہو جاتی اور بحث کے کسی

نتیجے پہ پہنچتے ہی بغیر کسی تاخیر کے کام کا آغاز کر دیا جاتا۔



کابل میں اس قیام کے دوران ایک دن شہر کے مشہور تجارتی مرکز پل خستی بازار جانا ہوا۔ یہ کابل شہر کا سب سے بڑا بازار ہے۔ جس میں ایک تخمینہ کے مطابق دس ہزار دکانیں ہیں۔ دنیا بھر کی مصنوعات اور ہر قسم کا سامان بہترین کوالٹی میں دستیاب تھا۔ اس بازار میں کپڑے کی ایک بہت بڑی مارکیٹ تھی جس میں اعلیٰ سے اعلیٰ قسم کا جاپانی کپڑا فروخت ہو رہا تھا۔ الیکٹرانک مارکیٹ بھی جس میں ریڈیو، ٹیپ اور بجلی کا دیگر سامان بک رہا تھا۔ یہیں سے میں نے ایک ڈیجیٹل ریڈیو خریدا جو ابھی تک پاکستانی مارکیٹوں میں نہیں آیا تھا۔ اتنی بڑی بڑی مارکیٹیں جو یقیناً پاکستان کے بیشتر شہروں میں بھی نہ ہوں۔ میرا خیال تھا کہ اقتصادی پابندیوں کے بعد اس بازار کی رونق ماند پڑ گئی ہوگی لیکن میری حیرت کی اس وقت انتہاء نہ رہی جب میں نے یہاں دیکھا کہ پہلے سے کئی گنا زیادہ رش تھا اور لوگوں کی اتنی بھیڑ کہ بازار میں چلنا دشوار ہو رہا تھا۔ کابل کے لوگ اس قدر اطمینان کے ساتھ خرید و فروخت میں مصروف تھے کہ انہیں دیکھ کر کوئی آدمی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس شہر سے ۵۰ کلومیٹر سے بھی کم فاصلے پر محاذ جنگ ہے۔

دراصل طالبان نے جس طرح اپنی جانوں کو جو کھوں میں ڈال کر عوام کو امن و سکون عطا کیا، اس نے پوری قوم کو ہر غم سے بے غم کر دیا تھا۔ صرف کابل ہی نہیں قندھار، جلال آباد، قندوز سمیت میں نے افغانستان کے دیگر کئی شہروں کے بازار دیکھے، ان سب کی رونق اور چہل پہل کا یہی حال تھا۔

بات آئی بازار اور کاروبار کی تو یاد آیا کہ طالبان نے اپنے سپاہیوں پر یہ پابندی عائد کر رکھی تھی کہ وہ کسی بھی دکاندار سے خریداری کرتے وقت قیمتوں میں کمی نہیں کروا سکتے۔ دکاندار جو قیمت مانگے انہیں وہی ادا کرنا ہوتی تھی۔ میں نے خود ایک بار سنا کہ طالبان کے ایک کمانڈر ایک سپاہی کو ڈانٹ رہے تھے کہ اس نے فلاں چیز خریدتے ہوئے قیمت کیوں کم کروائی؟ طالبان کی اس پالیسی نے دکانداروں کو اس قدر ہمت دیدی تھی کہ وہ طالبان کو قیمتیں باقی لوگوں سے بھی کچھ زیادہ ہی بتاتے تھے۔

سن ۱۹۹۸ء میں جب طالبان نے شمالی افغانستان کا شہر حیرتان فتح کیا تو میں اسی دن حیرتان پہنچ گیا تھا۔ وہاں میں نے یہ عجیب صورتحال دیکھی کہ طالبان کو شہر کے مختلف مقامات پر لہرانے کیلئے اپنے پرچوں کا سفید کپڑا چاہئے تھا مگر دکانوں پر تالے تھے اور شہر کے باشندے ڈر کے مارے گھروں کے اندر دیکے بیٹھے تھے۔ تلاش کرتے کرتے طالبان کو کپڑے کی ایک دکان مل گئی، لیکن بند

تالے سے وہ کپڑا کیسے نکال سکتے تھے؟ چنانچہ انہوں نے تالا توڑنے کی بجائے دکان کے مالک کا گھر تلاش کیا اور جب وہ مل گیا تو اس سے کہا کہ وہ اپنی دکان سے سفید کپڑے کے تھان نکال دے۔ اس نے اپنے آپ کو مجبور پاتے ہوئے ایسا ہی کیا۔ لیکن جب اس نے کپڑا طالبان کے حوالے کیا تو طالبان نے اس سے کپڑے کی قیمت پوچھی، وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے ان ”قاتحین“ کے چہرے تکٹنے لگا اور کہنے لگا کہ میں آپ سے کوئی پیسے نہیں لوں گا۔ مگر طالبان نے اس کے انکار کو رد کرتے ہوئے اسے کپڑے کی معقول قیمت بااصرار ادا کی۔ طالبان کی انہی پالیسیوں اور طرز عمل نے افغان تاجروں کو حوصلہ اور ہمت فراہم کیا۔

عمومی تجارت کے علاوہ طالبان نے صنعت کو بھی ترقی کے زبردست مواقع فراہم کیے۔ چنانچہ اب کابل شہر کے گرد و نواح میں کپڑے، دھاگے اور صابن وغیرہ کی بہت سی فیکٹریاں فعال ہو چکی تھیں اور دن بدن افغانستان صنعتی میدان میں آگے بڑھ رہا تھا۔

مزار شریف میں قائم کھاد کی ایک پرانی فیکٹری پر سابق افغان حکمرانوں کی توجہ کا یہ حال تھا کہ یہاں سے یومیہ صرف پانچ سو بوری کھاد حاصل ہوتی تھی۔ طالبان نے مزار شریف پر قبضے کے بعد مشینوں اور عمارت کی مرمت کر کے اور انجینئر و مزدور فراہم کر کے فیکٹری کی روزانہ آمدنی کو ایک لاکھ ڈالر سے اوپر تک پہنچا دیا۔ اس کے علاوہ پل خٹری کی سینٹ فیکٹری مکمل طور پر ناکارہ ہونے کی وجہ سے بند پڑی تھی۔ ملک دوست طالبان نے اس پر بھی توجہ دی جس کے نتیجے میں کارخانے نے فعال ہو کر زبردست منافع دینا شروع کر دیا جس سے بے روزگار لوگوں کو روزگار مہیا کرنے میں بھی سہولت ہوئی۔

افغانستان ایک ایسا بد قسمت ملک ہے جو گذشتہ تین عشروں سے مسلسل خونریزی کا شکار ہے۔ اس جنگ اور خونریزی نے ملک میں فتنہ و فساد کو بے حد بڑھا دیا ہے، غربت عام ہے اور ملک کے ہر شہر میں نادار اور پریشان حال بھکاری نظر آتے ہیں۔ غربت کی اس صورتحال کے خاتمے کیلئے طالبان سے پہلے کے حکمرانوں نے بھی اگرچہ اقدامات کیے لیکن وہ عمل کی بجائے قول کی حد تک محدود رہے۔ طالبان نے کابل کی فتح کے بعد اعلان کیا تھا کہ وہ بیواؤں اور یتیموں کے باقاعدہ وظائف جاری کریں گے، انہوں نے اپنے وعدہ کے مطابق اس کا آغاز بھی کر دیا تھا، لیکن افسوس کہ قومی فنڈ میں انتہائی قلت کے باعث یہ سلسلہ زیادہ عرصہ تک قائم نہ رہ سکا۔

ظاہر شاہ کے دور میں ضرورت مندوں کی ضرورتیں پوری کرنے کیلئے ادارہ ہلال احمر کا قیام عمل

میں آیا تھا۔ ربانی کے دور میں ایک اور اضافہ کر کے وزارت شہداء و مہاجرین کی بنیاد رکھی گئی تھی۔ طالبان نے ادارہ ہلال احمر اور وزارت شہداء و مہاجرین پر بھی بھرپور توجہ دی اور اس کے علاوہ وزارت عشر و زکوٰۃ کو بھی قائم کیا۔ شہداء کے لواحقین، نو آمدہ بے دروبے گھر مہاجرین اور تنگ دستوں کی دادرسی کے ساتھ ساتھ بھیک مانگنے والوں کا باضابطہ اور مستقل حل نکالنے پر بھی اب غور شروع ہو گیا تھا۔

.....☆.....☆.....

جس ملک میں ایک ایک کھمبے پر سینکڑوں گولیوں کے نشانات ہوں وہاں کی بجلی کے نظام کا کیا عالم ہوگا؟ اس کا اندازہ بھی آپ بخوبی کر سکتے ہیں۔ پچیس سالہ جنگ کے دوران پورے افغانستان میں صرف کابل شہر ہی ایسا بچا تھا جہاں بعض مقامات پر بجلی تھی۔ جبکہ اس کے علاوہ دیگر تمام شہروں میں بجلی کی تنصیبات کا نظام درہم برہم ہو چکا تھا۔ قندہار کے رہنے والے بتاتے ہیں کہ طالبان کی آمد سے قبل اس شہر میں بیس سال سے بجلی نہیں تھی لیکن طالبان نے آ کر بھرپور کوشش کی اور بالآخر وہ پورے شہر کو بجلی فراہم کرنے میں کامیاب ہو گئے اور اب یہاں بجلی کے نرخ اس قدر کم تھے کہ میں سن کر ششدر رہ گیا۔ آپ بھی ملاحظہ فرمائیے!

قندہار شہر میں بجلی کا ایک یونٹ ۱۵۰۰ افغانی یعنی صرف پاکستانی ساٹھ پیسے کا تھا۔ ہرات بازار، قندہار کے ایک دکاندار فیض محمد کے بقول گرمیوں میں اس کی دکان کی بجلی کابل صرف ۶۰ روپے پاکستانی کے برابر تھا اور سردیوں میں چونکہ وہ بیٹر وغیرہ بھی استعمال کرتا تھا اس لیے بجلی کابل ۱۰۰ روپے کے برابر آتا تھا۔ قندہار کے علاوہ افغانستان کے دیگر شہروں میں بھی بجلی کی فراہمی اور اس کے نرخوں کا یہی عالم تھا۔ افغان عوام کو بجلی جیسی اہم ضرورت فراہم کرنے کیلئے طالبان نے اپنے کم وسائل کے باوجود بڑے بڑے اقدامات کیے۔ طالبان کی آمد سے قبل کابل کو بجلی فراہم کرنے والے ماہیپر، سروبی اور نغلو کے تینوں ڈیم آپس کی لڑائیوں میں مکمل طور پر ناکارہ ہو چکے تھے اور کابل کی بجلی منقطع ہو چکی تھی۔ تار وغیرہ چوری ہو گئے تھے۔ طالبان نے آ کر ان کی مرمت کر کے فعال بنا دیا۔ نغلو ۱۰۰ میگا واٹ، ماہیپر ۶۰ اور سروبی تقریباً ۳۰ میگا واٹ بجلی پیدا کرنے کے قابل ہو گئے اور کابل بہت عرصے بعد ایک مرتبہ پھر روشنیوں سے بھر گیا۔

قندہار کو بجلی فراہم کرنے کی غرض سے صوبہ ہلمند میں واقع لکھی ڈیم کا منصوبہ طالبان سے پہلے کا تھا لیکن اس پر یہ کہہ کر کام بند کرایا گیا تھا کہ لاکھوں ڈالر کا منصوبہ ہے اور پیسے نہیں ہیں۔ رشوت اور

خرد برد سے عاری طالبان نے انتہائی قلیل رقم سے یہ منصوبہ پورا کر کے قندھار کی بجلی چالو کرادی تھی۔ صوبہ ہرات کا سہ ماہی ڈیم جس پر ۴۰ فیصد کام پہلے ہو چکا تھا، لوگر کے چرخ اوسوالی میں مولانا زیارت صاحب والا ڈیم اور ننگر ہار کے کامہ ڈیم پر طالبان نے خوب زور و شور سے کام شروع کرایا تھا اور کئی دوسری جگہوں پر ڈیموں کی تعمیر کے منصوبے بن رہے تھے۔ اس کے علاوہ بلخ کیلئے ازبکستان کے ساتھ، مشرقی صوبوں کیلئے پاکستان کے ساتھ اور جوزجان، قاریاب، بادغیس اور ہرات کے صوبوں کیلئے ترکمانستان کے ساتھ بجلی کی فراہمی کیلئے معاہدے زیر فور تھے اور باقاعدہ بات چیت چل رہی تھی۔

یہی وہ پرکشش مراعات تھیں جن کی بناء پر اب نہ صرف افغان تاجر بڑی تیزی سے اپنے اپنے کاروبار بیرون ممالک سے اپنے ملک میں منتقل کر رہے، بلکہ بیشتر غیر ملکی لوگ بھی افغانستان میں سرمایہ کاری میں دلچسپی لے رہے تھے۔

☆.....☆.....

روز بروز استحکام اور خوشحالی کی جانب بڑھتی ہوئی طالبان کی حکومت نے افغان عوام کو دل و جان سے ان کا حامی بنا دیا تھا۔ چنانچہ لوگ دل کھول کر طالبان کی پالیسیوں کی موافقت اور ان کی حمایت کر رہے تھے۔ میں نے قندھار میں ایک تاجر سے جو کرنسی کا کاروبار کرتا تھا پوچھا ”اسامہ کی وجہ سے آپ لوگوں پر اتنی مشکلات آ رہی ہیں کیا خیال ہے، طالبان کو اسامہ امریکہ کے حوالے کر دینا چاہئے؟“ وہ جھٹ سے بولا ”کیوں؟ اسامہ نے بیس سال تک ہمارے دفاع کی جنگ لڑی، اس نے ہمارے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، ہم اتنے بے غیرت نہیں کہ اب اس کے تمام احسانات بھلا کر اسے امریکہ کے حوالے کر دیں۔“

ایک اور افغان تاجر سے میں نے کہا ”اقتصادی پابندیوں کی وجہ سے آپ کو کاروبار میں مشکلات تو ضرور پیش آ رہی ہوں گی؟“ وہ مسکرا کر کہنے لگا ”ہمارا رزق اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، امریکہ یا اقوام متحدہ کے ہاتھ میں نہیں۔“

طالبان کے ایک راہنما سے کسی نے کہا ”آپ کو اسامہ امریکہ کے حوالے کر دینا چاہئے؟“ وہ غصہ ہو کر کہنے لگے ”ٹھیک ہے آج امریکہ نے اسامہ کا مطالبہ کیا ہے تو اسے دیدیتے ہیں، کل اگر امریکہ نے تمہاری ماں بیٹی بھی مانگ لی تو کیا وہ بھی دیدو گے؟“

☆.....☆.....

کابل میں قیام کے دوران کابل کے سب سے بڑے اسپتال ”چہار صد بستر“ جانا ہوا۔ اسپتال کا نام سن کر یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ شاید اس اسپتال میں چار سو بستروں کا انتظام ہوگا۔ لیکن جب ہم وہاں پہنچے تو صرف ایک ہی منزل میں چالیس کے قریب کمرے تھے اور ہر کمرے میں کم از کم دس بستروں کا انتظام تھا۔ اسی طرح کی دس منزلہ عمارت میں یہ اسپتال واقع تھا۔ ہر منزل میں مختلف وارڈ تھے جن میں ڈاکٹروں کی ایک بہت بڑی کھیپ ہمہ وقت مصروف خدمت تھی۔

”چہار صد بستر“ اسپتال کے علاوہ کابل شہر میں کئی دیگر سرکاری اور پرائیویٹ اسپتال کام کر رہے تھے۔ قدحار کے مستحق عمر کا تذکرہ میں پہلے کر چکا ہوں۔ اس کے علاوہ میرا قدوز کے اسپتال اور قدہار میں واقع چنانکی اسپتال میں جانا ہوا، جیسے میر ویس اسپتال بھی کہتے ہیں، یہ سب اسپتال تمام جدید وسائل کو بروئے کار لاتے ہوئے علاج معالجے میں مصروف تھے۔ طالبان انتظامیہ نے انتہائی سرعت کے ساتھ افغانستان بھر میں اسپتالوں اور صحت کے اداروں کی تعمیر کی طرف توجہ دی تھی جس کی وجہ سے علاج کے سلسلہ میں افغان قوم کو ہر قسم کی سہولیات میسر تھیں۔

.....☆.....☆.....

ایک دن محترم سیف اللہ کے ہمراہ کابل کی میڈیکل یونیورسٹی بھی جانا ہوا۔ جسے مقامی زبان میں ”پوهنتون“ کہا جاتا ہے۔ اس یونیورسٹی کی سند کو پوری دنیا میں تسلیم کیا جاتا ہے۔ اس میں آٹھ ہزار طلبہ زیر تعلیم تھے جن میں کافی تعداد پاکستانی طلباء پر مشتمل تھی۔ کابل یونیورسٹی کی برانچیں قدحار اور جلال آباد میں بھی قائم تھیں۔ یہاں تعلیم مفت تھی جبکہ ہر طالب علم کو ہفتہ وار خرچہ بھی دیا جاتا تھا۔ دنیا بھر کی مشہور یونیورسٹیوں کے فارغ التحصیل ماہر اساتذہ کرام یہاں تدریسی خدمات سرانجام دے رہے تھے۔ کابل یونیورسٹی، ربانی کے دور میں فعال تو تھی لیکن وہ مخلوط تعلیمی درسگاہ کے طور پر جانی جاتی تھی۔ پشتو فارسی کا زبردست تعصب بھی وہاں پایا جاتا تھا۔ پہلے آٹھ لاکھ کتابیں ہوا کرتی تھیں جن میں اکثر جل گئیں یا پھٹ گئی تھیں۔ لائبریریاں نہ ہونے کے برابر تھیں۔ اکثر کتابیں لائبریریوں کے اندر زمین پر پڑی رہتیں۔ تعمیر کیلئے ملنے والے فنڈ زخرد برد کا شکار ہو جاتے اور یونیورسٹی کے اکثر حصے مرمت کیلئے ترس رہے تھے۔

طالبان نے آتے ہی مخلوط طرز تعلیم ختم کر دی اور لڑکیوں کو تاحکم مانی گھر میں بٹھایا تاکہ نئے انتظامات اور نصاب کے بعد چادر اور چادر دیواری کے تحفظ کے ساتھ دوبارہ تعلیم شروع کر سکیں۔ لیکن

میڈیکل کی تعلیم کیلئے انتہائی زبردست بندوبست کرتے ہوئے لڑکیوں کے میڈیکل کالج کھلے رکھے تاکہ طب کا شعبہ جو انتہائی اہم ہے اسے کارآمد لیڈی ڈاکٹر مہیا ہوتی رہیں۔ کابل یونیورسٹی کے چانسلر کی فہم و فراست سے پشتو فارسی کے تھب کو جڑ سے اکھاڑ دیا گیا۔ یونیورسٹی کی تمام خراب عمارتوں کی مرمت کی گئی۔ بیرونی دنیا کی بڑی بڑی یونیورسٹیوں سے رابطے کیے گئے۔ کمپیوٹر کے شعبے کو فعال بنایا گیا۔ جدید کتابیں فراہم کی گئیں۔ جدید سلیبس تیار کیے گئے۔ اسلامی ثقافت کا شعبہ بڑھایا گیا۔ ہر شعبہ میں دینی مضامین کا اضافہ کیا گیا۔ موسیقی اور مجسمہ سازی کے شعبوں کو ختم کر دیا گیا۔ دور کے علاقوں سے تعلق رکھنے والے تقریباً تین ہزار طلباء کو ہاسٹل میں جگہ اور خوراک کی مفت سہولت فراہم کی گئی۔ ملک کی دوسری یونیورسٹیوں میں بھی طالبان حکومت کی یہی کارکردگی تھی۔

کابل یونیورسٹی کے علاوہ کابل شہر اور دیگر شہروں میں مدارس اور اسکول کام کر رہے تھے۔ مدارس کا نصاب تعلیم وہی تھا جو ہمارے ہاں کے مدارس اسلامیہ کا ہے۔ جبکہ اسکولوں میں قرآن مجید اور اسلامیات کی تعلیم لازمی قرار دیدی گئی تھی۔ ان تعلیمی اداروں میں سب سے بہتر نظام تعلیم ”جہادی مدرسہ“ کا تھا جس کا مرکز قندھار میں تھا۔ یہ ادارہ براہ راست امیر المؤمنین ملا محمد عمر مجاہد کی زیر سرپرستی چلتا تھا۔ یہاں کے ایک نوجوان طالب علم سے میری ملاقات ہوئی تو اس نے مجھے اردو، عربی اور انگلش میں سے کسی بھی زبان میں گفتگو کرنے کی پیش کش کی۔ اس طالب علم نے بتایا کہ اب وہ کمپیوٹر کی تعلیم بھی حاصل کر رہا ہے۔

محترم قارئین! یہ تھے افغانستان کے وہ حالات جن کا میں نے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا۔

☆.....☆.....

کابل میں اپنی زندگی کے چار یا گاردن گزار کر قندھار واپسی ہوئی۔ کابل سے قندھار تک سفر کیلئے آریانا ایئر لائن کا انتخاب کیا۔ یہ افغانستان کی واحد ایئر لائن ہے۔ ۱۴ نومبر ۱۹۹۹ء کو اقوام متحدہ کی جانب سے لگائی جانے والی اقتصادی پابندیوں میں اسکی بندش بھی شامل تھی۔ چنانچہ آریانا کے بیرون ممالک تمام اثاثے منجمد کر دیئے گئے تھے اور اب اس کی پرواز بیرون ملک نہیں جاسکتی تھی۔ یہ پابندی اگرچہ طالبان کیلئے جن کی اچھی خاصی آمدنی آریانا ہی کے ذریعے ہو رہی تھی، ایک بہت بڑا دھچکا تھا لیکن اپنے مؤقف کی خاطر طالبان نے اسے خوشدلی کے ساتھ قبول کیا۔ البتہ آریانا ایئر لائن کی اندرون ملک پروازیں اب بھی جاری تھیں۔


کابل سے قندھار تک آریانا کے چھوٹے جہاز پر سوا گھنٹے کا سفر ہے اور کرایہ دس لاکھ افغانی یعنی

صرف گیارہ سو بیس روپے پاکستانی تھا۔ کرایوں میں کمی کے باعث بیشتر خوشحال افغانی طیارے میں سفر کرنے کو پسند کرتے تھے۔ مجھے ایک چھوٹے طیارے میں سیٹ ملی جس میں پچاس افراد کی گنجائش تھی۔ طیارے نے ٹھیک گیارہ بجے پرواز شروع کی اور بارہ بج کر پچیس منٹ پر ہمیں قندھار پہنچا دیا۔

قندھار میں چار دن قیام رہا۔ اس دوران طالبان کے مختلف راہنماؤں سے ملاقات ہوئی جن میں گورنر قندھار ملا محمد حسن رحمانی، صوبائی وزیر تعلیم محمد معصوم افغانی، وزیر اطلاعات ملا عبدالحی مطہر اور افغان سپریم کورٹ کے جج مولانا حمید اللہ فائز شامل تھے۔

.....☆.....☆.....





طالبان اور منشیات

افغانستان دنیا کو افیون فراہم کرنے والا سب سے بڑا ملک ہے۔ اس سرزمین پر پوری دنیا میں استعمال ہونے والی ہیرڈن کا ستر فیصد حصہ پیدا ہوتا ہے۔ ہر سال موسم بہار کی ابتداء میں افغان کاشتکار اپنی زمینوں میں بڑی احتیاط سے پوست کے دانے بوتے ہیں، اچھی فصل کیلئے فاضل جڑی بوٹیاں تلف کرتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ پانی فراہم کرنے کیلئے آب رسانی کا بندوبست کرتے ہیں۔ چند ہفتوں بعد ان کی زمینوں پر نوٹیز، سرسبز اور نرم پتے پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور پھر جب یہ پتے پوری طرح نکل آتے ہیں تو ان کے درمیان سرخ پھول جنم لیتے ہیں، پھر ان پھولوں سے چیتاں جھڑ جاتی ہیں اور ان میں پوست نمایاں ہونے لگتی ہے، بیج بونے کے چار ماہ بعد ان فصلوں میں پوست کے ڈوڈے پک کر تیار ہو جاتے ہیں، پھر تیز دھار چھریوں سے ان پر خراشیں لگائی جاتی ہیں، پھر انہیں انگلیوں سے دبایا جاتا ہے تو ان سے دودھ کی طرح سفید مواد نکلتا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ مواد دوسرے دن جسنے اور بھورنگ اختیار کرنے لگتا ہے۔ یہ افیون ہوتی ہے جسے کھریج کر اتار لیا جاتا ہے۔ یہ عمل ہر چند روز بعد دہرایا جاتا ہے یہاں تک کہ وہ سفید مواد نکلتا بند ہو جاتا ہے۔ اس دوران خام افیون کو جمع کر کے اسے چپاتی کی شکل دیدی جاتی ہے۔ بعد ازاں اسے پلاسٹک کی تھیلیوں میں بند کر کے احتیاط کے ساتھ رکھ دیا جاتا ہے اور اس کے خریدار کا انتظار کیا جاتا ہے۔

افغانستان میں پیدا ہونے والی افیون کا اسی فیصد حصہ یورپ میں جاتا ہے اور باقی بیس فیصد حصہ دوسرے ممالک میں پہنچتا ہے۔ افیون کی یہ اسمگلنگ پاکستان کے مکران کی بندرگاہوں سے خلیجی ممالک تک اور ایران کے راستے ترکی سے ہوتی ہوئی یورپ جا پہنچتی ہے۔ اقوام متحدہ کے ڈرگ کنٹرول

پروگرام کی ایک رپورٹ کے مطابق افیون کی اس تجارت سے حاصل ہونے والی آمدنی کا صرف ایک فیصد افغان کاشتکاروں کو اور ۵،۲۵ فیصد افغان اور پاکستانی ڈیلروں کو ملتا ہے۔ پانچ فیصد ان ممالک میں صرف ہوتا ہے، جن کے راستے ہیروئن گزر کر مغربی ممالک میں پہنچتی ہے اور باقی سارے کا سارا نفع یورپ اور امریکہ میں موجود ہیروئن کے بڑے بڑے بیوپاریوں کو ملتا ہے۔

افیون جیسی اس موذی اور انسان کش شے کی پیداوار نے افغانستان کو ساری دنیا میں بدنام اور افغانیوں کو ذلیل کر رکھا ہے، اس ملک کے باشندوں کو منشیات فروشی کا کھلے عام طعنہ دیا جاتا ہے، لیکن ایسا کرتے ہوئے دنیا ان کرداروں کو بھول جاتی ہے جنہوں نے افغانستان میں افیون کی کاشت کو ترقی دی، افغانوں کو اس سے متعارف کروایا اور انہیں اس غلط اور غلیظ راستے پر چلایا۔ آئیے یہ حیرت انگیز اور افسوسناک کہانی، احمد رشید کی زبانی سنتے ہیں:

”ہیروئن کی پیداوار میں دھماکہ خیز اضافہ، افغانستان میں نہیں بلکہ پاکستان میں ہوا۔ پاکستان ۱۹۸۰ء کے عشرے میں ہیروئن پیدا کرنے والے ملکوں میں شمار ہونے لگا۔ یہاں ہیروئن کی سالانہ پیداوار ۸۰۰ میٹرک ٹن اور پوری دنیا کیلئے سپلائی ہونے والی ہیروئن کا ۷۰ فیصد تک پہنچ گئی۔ سی آئی اے اور آئی ایس آئی کی چھتری تلے منشیات کی تجارت کو بڑا فروغ حاصل ہوا۔ افغان مجاہدین نے اس سے پیش از پیش فائدہ اٹھایا۔ ۱۹۹۲ء کے ایک جائزے میں منشیات سے متعلق امریکی پالیسی کی ناکامی کے حوالے سے بتایا گیا کہ ۱۹۸۰ء کے عشرے میں بدعنوانی، مخفی اقدامات اور منشیات باہم اس طرح گڈمڈ ہو گئے کہ پاکستان میں منشیات کی ترسیل، علاقائی سلامتی اور جنگ کو ایک دوسرے سے الگ کر کے دیکھنا ممکن نہیں رہا۔ ویت نام کی طرح جہاں سی آئی اے نے کمیونسٹ مخالف گوریلوں کو منشیات کی تجارت سے صرف نظر کیا اس طرح امریکہ نے افغانستان میں منشیات کے کاروبار میں مجاہدین اور پاکستان کے کاروباری افراد اور فوجی عناصر کے عمل دخل کو نظر انداز کیے رکھا۔

۱۹۸۰ء کے عشرے میں اس ملی بھگت کا ہلکا سا عکس نمایاں ہوا۔ نیچے جو کچھ ہور ہا تھا یہ اس کے عشرے میں بھی نہیں تھا۔ ۱۹۸۳ء میں آئی ایس آئی کے سربراہ جنرل

اختر عبدالرحمن نے کوئٹہ میں آئی ایس آئی کے پورے عملے کو اس بناء پر ہٹا دیا کہ وہ
 منشیات کی تجارت اور سی آئی اے کی طرف سے مجاہدین کیلئے دیئے جانے والے
 اسلحے کی فروخت میں ملوث تھا۔ ۱۹۸۶ء میں میجر ظہور الدین آفریدی کو پشاور سے
 ۲۲۰ کلوگرام اعلیٰ گریڈ کی ہیروئن کراچی لے جاتے ہوئے پکڑا گیا۔ اتنی بڑی مقدار
 میں ہیروئن پہلے کبھی نہیں پکڑی گئی تھی۔ دو مہینے بعد فضائیہ کے ایک افسر فلائٹ
 لیفٹیننٹ خلیل الرحمن اسی راستے پر ۲۲۰ کلوگرام ہیروئن لے جاتا ہوا پکڑا گیا۔ اس
 نے تسلیم کیا کہ ہیروئن لے جانے کی اس کی یہ پانچویں بار تھی۔ دودفعہ پکڑی جانے
 والی ہیروئن کی قیمت ۶۰۰ ملین برابر تھی۔ دونوں افسروں کو کراچی میں رکھا گیا، جس
 سے وہ پراسرار انداز میں فرار ہو گئے۔ لارنس لف شلٹز نے لکھا کہ آفریدی اور رحمن
 کے معاملات سے پتہ چلا کہ فوج بھی ہیروئن کا تاجرانہ کاروبار کرنے کا ایک باقاعدہ
 ادارہ بن گیا ہے۔ جس سے آئی ایس آئی اور افغانستان کا تعلق ہے۔ ۱۹۸۰ء میں
 امریکی ڈرگ اینڈنٹریشن پاکستان میں اے اکل وقتی افسر تھے، جنہوں نے منشیات کا
 کاروبار کرنے والے ۴۰ بڑے اداروں کی نشان دہی کی، ان میں سے بعض کو اعلیٰ
 سرکاری افسروں کی سرپرستی حاصل تھی، اس عشرے کے دوران ان میں سے ایک
 ادارے کو بھی نہیں توڑا جاسکا۔ صاف عیاں ہے کہ سی آئی اے مجاہدین اور پاکستانی
 افسروں کے درمیان مفادات کا ٹکراؤ تھا۔ سی آئی اے نہیں چاہتی تھی کہ مجاہدین اور
 پاکستانی افسروں اور منشیات کی ترسیل کے ذمہ دار افراد اور امریکہ کے انسداد منشیات
 کے ادارے کے باہمی رابطے کا اس طرح انکشاف ہو، جو ان میں سے کسی کیلئے بھی
 سخت کامو جب ہو۔ انسداد منشیات کے امریکی ادارے کے کئی افسر چاہتے تھے کہ
 انہیں کوئی اور کام سونپا جائے۔ ایک افسر نے استعفیٰ دے دیا کیونکہ سی آئی اے نے
 انہیں فرائض انجام دینے کی اجازت نہ دی تھی۔

جہاد کے دوران مجاہدین اور کابل کی کمیونسٹ فوج کے افسروں نے
 موقع سے فائدہ اٹھایا۔ منشیات کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانے کا طریقہ بڑا
 آسان تھا۔ افغانستان کے لئے اسلحے لے جانے والے جو گدھے، اونٹ اور

ٹرک واپس خالی آتے تھے، اب وہ انیون لانے لگے۔ سی آئی اے اور آئی ایس آئی پشتون سرداروں کو ان کے علاقوں سے اسلحہ گزارنے کیلئے رشوت دیتی تھیں۔ اسی مقصد سے انیون اور ہیروئن کے لئے بھی رشوت دی جانے لگی۔ فوج کا ٹرانسپورٹ کا ادارہ نیشنل لاجسٹک سیل (این ایل سی) اپنے ٹرکوں کے ذریعے سی آئی اے کا جنگی ساز و سامان کراچی کی بندرگاہ سے لے کر پشاور اور کوئٹہ کے راستے افغانستان پہنچاتا تھا۔ بااثر ڈیلروں نے اسی کے ذریعے انیون اور ہیروئن کراچی بھجوانا شروع کر دی۔ فوج، حکومت اور سی آئی اے کے درمیان اعلیٰ سطح کے افسروں کے تعاون سے نہ سہی لیکن ان کے علم کے بغیر یہ ممکن نہ تھا۔ ہر ایک نے سوویت یونین کو شکست دینے کے برتر مقصد کے پیش نظر تعرض کرنا مناسب نہ سمجھا، منشیات کا انسداد، ان میں سے کسی کے ایجنڈے پر نہیں تھا۔“

اس ساری کہانی سے معلوم ہوتا ہے کہ افغانستان کو پوسٹ کی کاشکارا پر لگانے والوں میں امریکی خفیہ ایجنسی سی آئی اے اور پاکستانی خفیہ ایجنسی آئی ایس آئی شامل تھیں۔ ان لوگوں نے اپنے مفادات کی خاطر افغانوں اس بدراہ پر لگایا حتیٰ کہ ایک وقت ایسا آیا جب ۱۹۹۲ء سے ۱۹۹۵ء تک ہر سال افغانستان میں تقریباً جو بیس سو میٹرک ٹن انیون پیدا ہوئی۔ اس ریکارڈ پیداوار نے افغان کو منشیات کا عالمی چیمپیئن بنا دیا اور اب یورپ و امریکہ اس مشکل سے نمٹنے کیلئے راہیں تلاش کرنے لگے۔

۱۹۹۴ء کے آخر میں طالبان نے قندھار پر قبضہ کیا تو انہوں نے اعلان کیا کہ وہ اپنے اہداف و مقاصد میں منشیات کی پیداوار کا خاتمہ بھی شامل رکھتے ہیں۔ اس سلسلے میں طالبان نے سب سے پہلے تو اپنے مقبوضہ علاقوں کسی بھی قسم کی منشیات کے استعمال پر پابندی عائد کر دی۔ انہوں نے عوام کو خبردار کر دیا کہ ان میں سے جو بھی چرس (جو کہ ہیروئن سے کم نشہ آور ہے) استعمال کرے گا یا اس کی تجارت کرے گا اسے سخت سزا دی جائے گی۔ احمد رشید اس حوالے سے لکھتے ہیں:

”دریں اثناء طالبان نے حشیش کے خلاف مؤثر مہم کا آغاز کیا ہے۔ حشیش ٹرک ڈرائیوروں کے استعمال کا نشہ ہے، اس مہم کی کامیابی کو دیکھتے ہوئے کہا جاسکتا ہے کہ اگر انیون پر پابندی لگانے کی مہم شروع ہوئی تو یہ بھی نہایت کامیاب ثابت ہوگی۔ قندھار کے دو گوداموں میں حشیش کے ہزاروں

تھیلے رکھے ہوئے ہیں۔ یہ حشیش کا شکاروں اور کاروباری لوگوں سے ضبط کی گئی ہے، عام آدمی کہتے ہیں کہ جب سے طالبان نے حشیش پر پابندی لگائی ہے وہ اسے پیتے ہوئے گھبراتے ہیں۔ جو لوگ چھپ کر حشیش پیتے رہے، ان کی اصلاح کیلئے عجیب طریقہ اختیار کیا گیا ہے۔ عبدالرشید نے بتایا کہ جب ہم حشیش کا کوئی اسمگلر پکڑتے ہیں تو ہم اس سے سچ اگلوانے کیلئے مارتے اور پوچھ گچھ کرتے ہیں۔ دن میں دو تین بار انہیں کئی گھنٹے تک ٹھنڈے پانی میں رکھتے ہیں۔ یہ بڑا اچھا علاج ہے۔ بعد میں انہیں جیل میں بند کر دیتے ہیں، رشید نے حشیش کے عادی دو تین خوفزدہ افراد کو جیل سے بلوا کر مجھ سے ملوایا۔ انہوں نے تسلیم کیا کہ طالبان نے انہیں سزا کی صورت میں جو صدمہ پہنچایا ہے وہ بہت مؤثر ثابت ہوا ہے۔ بخت محمد نے بتایا کہ جب مجھے مارا بیٹا جاتا ہے یا ٹھنڈے پانی میں ڈال دیا جاتا ہے تو میں حشیش کے بارے میں سب کچھ بھول جاتا ہوں۔ بخت محمد کا ندار ہے، حشیش کا کاروبار کرتا ہے، اب وہ تین ماہ کے لئے جیل میں بند کر دیا گیا ہے۔“

جس پر پابندی کی طرح طالبان پوست کی کاشتکاری پر بھی پابندی عائد کر دیتے، لیکن بڑی دشواری یہ تھی کہ افغانستان کے کم از کم دس لاکھ افراد اس ذریعہ معاش سے گزر بسر کر رہے تھے، اگر انہیں بغیر کوئی متبادل فراہم کیے ان پر پابندی عائد کر دی جاتی تو یقیناً یہ ایک عوام دشمن بلکہ انسان کش اقدام ہوتا، چنانچہ طالبان نے یہ کوشش شروع کر دی کہ کسی بھی طرح ان کاشتکاروں کو متبادل فراہم کیا جائے اور انہیں پوست کی کاشتکاری سے باز رکھنے کا جواز فراہم کیا جائے۔ اسی سلسلہ میں اکتوبر ۱۹۹۷ء میں اقوام متحدہ کے ڈرگ کنٹرول پروگرام نے طالبان کے ساتھ ایک معاہدہ کیا، جس کے تحت طالبان نے اس پر رضامندی کا اظہار کیا کہ اگر عالمی برادری متبادل فصلیں اگانے کیلئے سرمایہ فراہم کرے تو افغانستان میں پوست کی کاشت ختم کی جاسکتی ہے۔ پروگرام کے سربراہ پیو لراچی نے امداد دینے والے ملکوں سے ۲۵ ملین ڈالر دینے کیلئے کہا۔ اس رقم سے آئندہ دس برس میں پوست کی جگہ دوسری فصلیں بونے کی صورت نکالی جاتی۔ پیو لراچی کا کہنا تھا کہ ہم دنیا کو سپلائی ہونے والی ہیروئن میں نصف کمی کرنا چاہتے ہیں اور نئی نقد آمدورفضیں متعارف کرانا چاہتے ہیں۔ آجپاشی کے نظام کی اصلاح، نئی صنعتوں کا قیام اور قانون کی

عمل داری بھی اس پروگرام کا حصہ ہے۔

لیکن اقوام متحدہ اس معاہدے کی تکمیل میں سنجیدہ ثابت نہ ہوئی، ۱۹۹۸ء میں تمام غیر ملکی این جی اوزر کے افغانستان سے نکل جانے کے بعد یہ پروگرام ادھورا رہ گیا اور پوسٹ کی کاشت کاری جاری رہی۔ اس تسلسل میں ان ممالک کا بھی پورا پورا کردار تھا جنہوں نے پوسٹ کی کاشت کے خاتمے کے منصوبے کی تکمیل کیلئے کوئی مؤثر اقدام نہیں کیا۔ چنانچہ ۱۹۹۳ء سے ۱۹۹۷ء کے دوران اقوام متحدہ کے انسداد منشیات کے ادارے نے افغانستان میں منشیات کی پیداوار کے خاتمے کیلئے عالمی برادری سے ۱۶۴۳ ملین ڈالر کے فنڈ طلب کیے، لیکن اسے بڑی مشکل سے نصف رقم حاصل ہو سکی۔ یوں لگتا ہے جیسے یورپ وامریکہ کی حکومتیں بھی ان انڈر ورلڈ منشیات کا کاروبار کرنے والوں کے سامنے بے بس رہی ہیں جو اپنے منافع کی خاطر افغانستان میں منشیات کی پیداوار جاری رکھنا چاہتے تھے۔ جیسی تو یہ ممالک طالبان کی منشیات کینٹراں مہم اور مؤثر پالیسیوں کی حوصلہ افزائی کرنے اور طالبان کے واسطے سے افغانستان سے منشیات کا خاتمہ کرنے کی بجائے ہمیشہ طالبان پر تنقید کرنے اور انہیں برا بھلا کہنے میں لگے رہے۔ حالانکہ طالبان نے بارہا بجا طور پر عالمی برادری کو یہ حقیقت بتلائی کہ اگر وہ واقعی افغانستان میں منشیات کی پیداوار کا خاتمہ کرنا چاہتی ہے تو اسے طالبان کی حکومت کو نصیحت جانتا چاہئے اور اس کی وساطت سے اس مقصد کو حاصل کرنا چاہئے، لیکن بے چاری عالمی برادری کے پاس اس قدر فرصت ہی کہاں تھی کہ وہ کچھ دیر رُک کر طالبان کی اس پیشکش کو سنتی، اس پر غور کرتی اور اس سے قاعدہ اٹھانے کی کوشش کرتی۔ اس ساری صورتحال کا منطقی نتیجہ یہ برآمد ہوا کہ افغانستان میں پوسٹ کی کاشت ہوتی رہی، طالبان اس کے خاتمے کیلئے منصوبہ بندی کرتے رہے، لیکن وسائل کی عدم موجودگی کے باعث عملی قدم نہ اٹھایا جا سکا۔ اس دوران ۱۹۹۸ء سے ۲۰۰۱ء تک اقوام متحدہ کے طالبان کے حوالے سے جتنے بھی اجلاس ہوئے، ان میں منشیات کو زیر بحث لایا گیا اور طالبان کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا، تاہم کسی نے بھی انسداد منشیات کیلئے طالبان کے ساتھ تعاون کا اعلان نہیں کیا۔

بالآخر ۲۹ جولائی ۲۰۰۰ء کو طالبان راہنما امیر المؤمنین ملا محمد عمر مجاہد نے پورے افغانستان میں پوسٹ کی کاشت پر مکمل پابندی کا باقاعدہ حکم نامہ جاری کر دیا۔ اس فرمان میں کہا گیا تھا کہ:

”چونکہ چرس کا استعمال شرعی نقطہ نظر سے ایک ناجائز عمل ہے جس کی وجہ سے انسانی عقل و حواس کمزور ہو جاتے ہیں بلکہ بسا اوقات زائل بھی ہو جاتے ہیں۔ لہذا وزارت امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے وزیر اور تمام ذمہ داروں کو یہ

اختیار دیا جا رہا ہے کہ جہاں کہیں جس کا کاروبار یا اس کے کارخانے قائم ہیں ان کا مکمل خاتمہ کر دیں اور عوام سے اپیل ہے کہ اسلامی اور انسانی ہمدردی کے تحت ان کا بھرپور ساتھ دیں تاکہ کسی کو ان کی مزاحمت کا موقع نہ ملے۔“

ملا محمد عمر کے اس فرمان کو اور اس کے نتیجے میں طالبان کی مہم کو ابتدائی طور پر بین الاقوامی سطح پر محض ایک زبانی کلامی اقدام سمجھا گیا۔ لیکن جب آنے والے دنوں میں اس کے حیرت انگیز اثرات سامنے آئے تو پوری دنیا حیران و ششدر رہ گئی۔ طالبان نے واقعی اپنے تمام مقبوضہ علاقوں میں پوست کی کاشت کا خاتمہ کر دیا اور اس حقیقت کی شہادت ان کے مخالفین نے بھی دی۔ اس سلسلے میں ہم یہاں صرف ایک گواہی پیش کر رہے ہیں، جو برطانیہ کی لقمہ ایونیورسٹی کے پروفیسر گریم فیمل نے دی۔ ۱۹ جنوری ۲۰۰۲ء کو بی بی سی اردو ڈاٹ کام نے پروفیسر گریم کی یہ گواہی ”طالبان کی پالیسی کامیاب ترین“ کے عنوان سے مندرجہ ذیل الفاظ میں پیش کی:

”نشیات کے خلاف طالبان کی پالیسی دوسری حکومتوں کی نسبت سب سے زیادہ کامیاب رہی۔ یہ بات برطانیہ کی لقمہ ایونیورسٹی کے ایک ماہر جریمیات پروفیسر گریم فیمل کی ایک رپورٹ میں کہی گئی ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق نشیات کے خلاف افغانستان میں طالبان حکومت کی پالیسی حالیہ برسوں کی کامیاب ترین پالیسی تھی۔“

انیس سو نوے کی دہائی میں افغانستان دنیا کو ہیروئن کی سب سے بڑی تعداد سمگل کرتا تھا۔ تاہم طالبان حکومت کی سخت انسداد نشیات پالیسی کے باعث دنیا میں ہیروئن کی پیداوار میں پینسٹھ فیصد تک کمی آگئی تھی۔ جولائی سن دو ہزار سے طالبان کی یہ پالیسی عمل میں آئی اور ایک سال سے زیادہ رہی۔ ہیروئن کو پوست سے بنایا جاتا ہے لیکن طالبان حکومت نے پوست کی کاشت پر ہی مکمل پابندی لگا دی تھی۔

پروفیسر فیمل نے بی بی سی کے ریڈیو پروگرام ”ورلڈ ٹو ڈے“ کو بتایا کہ طالبان پالیسی کی کامیابی کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے اس کو مقامی سطح پر چلایا۔ مذہبی رہنماؤں اور مقامی گروپوں کو اس پر عمل کرانے کی ذمہ داری سونپ

دی گئی تھی اور اگر علاقے میں پوست کی کاشت ہوتی تو انہی افراد کو جوابدہ ہونا پڑتا اور ان کو سزا ہو جاتی تھی۔ پوست کاشت کرنے والے کاشتکاروں کو بھی سزا ہوتی تھی، ان کے منہ کالے کر دیے جاتے اور ان کو جیل بھیج دیا جاتا۔ طالبان حکومت کے خاتمے کے بعد ملک میں پوست کی کاشت میں بہت اضافہ ہوا ہے۔ پروفیسر فیمل کا کہنا ہے کہ طالبان کی پالیسی کی کامیابی سے بین الاقوامی سطح پر چلائی جانے والی انسداد منشیات پالیسی کے بارے میں کئی سوالات اٹھتے ہیں۔“


بی بی سی نے اپنی ویب سائٹ پر اس رپورٹ کے ساتھ طالبان دور میں انسداد منشیات کے ایک نوٹس بورڈ کی تصویر بھی شائع کی، جو شاہراہ عوام پر لگایا گیا تھا۔ اس بورڈ پر پشتو اور انگریزی زبان میں تحریر کیے جانے والے اعلان کا ترجمہ درج ذیل ہے:


”امارت اسلامیہ افغانستان نہ صرف غیر قانونی سرگرمیوں کے خلاف مہم جوئی کرتی ہے، بلکہ منشیات کے خلاف بھی مؤثر اقدامات کرتی ہے، کیونکہ یہ شخصیت، شعور، زندگی، صحت، معیشت اور اخلاق کے منافی ہیں۔“

پوست کی کاشت کے خلاف طالبان کی مہم کے آغاز کے بعد جسٹس جاوید اقبال نے افغانستان کا دورہ کیا تو انہوں نے بھی واپسی پر بتایا کہ طالبان پوست کی فصلوں کو نذر آتش کر رہے تھے، اسی طرح اقوام متحدہ اور بی بی سی لندن کے نمائندوں نے بھی گواہی دی کہ طالبان کی اس مہم کے بعد انہوں نے کہیں بھی پوست کاشت ہوتی نہیں دیکھی۔

طالبان حکومت کی طرف سے پوست کی کاشت کیخلاف اس کامیاب مہم کا نتیجہ یہ نکلتا چاہئے تھا کہ اب تو بین الاقوامی برادری انہیں تسلیم کر لیتی لیکن افسوسناک کہ ان کی خدمات کو نہ سراہا گیا اور بالآخر انہیں اقتدار سے الگ کر دیا گیا۔

آج طالبان کے بعد افغانستان میں پوست کی کاشت کی جو کیفیت ہے اور عالمی ادارے اور حکومتیں اس حوالے سے جن پریشانیوں کا سامنا کر رہی ہیں، اس کی چند جھلکیاں آپ ”طالبان کے بعد“ کے عنوان سے اسی کتاب میں ملاحظہ فرمائیں گے۔





اقوام متحدہ کا کردار

طالبان اور اقوام متحدہ کی آپس میں کبھی نہیں بن سکی۔ اقوام متحدہ کو ہمیشہ یہ شکایت رہی کہ طالبان اس کی مانتے کیوں نہیں ہیں اور طالبان کا کہنا تھا کہ وہ اس ادارے کی بات اس لیے نہیں مانتے کیونکہ وہ انہیں نہیں مانتا۔ اصل مسئلہ یہ تھا کہ اقوام متحدہ اپنا اعتماد اور تشخص گنوا کر جن سامراجی طاقتوں کی مان مان کر چل رہا ہے، طالبان ان کی کوئی بھی فرمائش ماننے کیلئے تیار نہ تھے، اور اسی وجہ سے وہ سامراجی طاقتیں بھی طالبان کو ماننے کیلئے تیار نہیں تھیں۔

ویسے حقیقت یہ ہے کہ افغانستان کے حمام میں اقوام متحدہ کا ادارہ جس قدر رنگا ہوا ہے، کوئی دوسرا نہیں ہوا۔ اقوام متحدہ کے قیام کے اسباب، وجود کے جواز، انسانی حقوق کے حوالے سے اصول و ضوابط، قراردادیں اور مطالبات..... یہ سب چیزیں اس وقت کا غدی پھول کی طرح بناوٹی دکھائی دینے لگے جب اس ادارے کا افغانستان دوغلا اور منافقانہ کردار سامنے آنا شروع ہوا۔

بات اگر بہت پہلے سے شروع کی جائے تو سوائے ایک افسوسناک داستان کے کچھ سامنے نہیں آئے گا، تاہم اتنی بات واضح ہے کہ جب سے طالبان کا افغانستان میں ظہور ہوا، اقوام متحدہ غیر جانبدار رہنے کی بجائے مبینہ طور پر افغان جنگ کے ایک ایسے فریق کے طور پر سامنے آیا، جس نے اس بحران کو بجائے سلجھانے کے مزید الجھا دیا۔ طالبان کی آمد سے قبل افغانستان کے بارے میں اقوام متحدہ کا پروگرام بظاہر وہی تھا، جس کو طالبان نے عملی طور پر نافذ کر کے دکھایا۔ مثلاً امن وامان کی بحالی اور افغان قوم کی معاشی و اقتصادی خوشحالی۔ لیکن جب طالبان نے ہر کھلی نگاہ کے سامنے ایسے اقدامات کیے جو

سراسر بحالی و خوشحالی کیلئے سنگ میل کی حیثیت رکھتے تھے تو حیرت انگیز طور پر اقوام متحدہ کا ادارہ یوں پھرتا نظر آنے لگا جیسے طالبان نے کسی بھی ناک جرم کا ارتکاب کیا ہو۔ اس صورتحال کو دیکھ کر ہر باشعور شخص کو شدت سے یہ احساس ہونے لگا کہ آخر اقوام متحدہ کن اصول و ضوابط کے تحت طالبان حکومت کو رد کرتا ہے اور ان کی مخالفت میں ہمہ وقت کمر بستہ رہتا ہے۔

اس موقع پر ایک عام سی بات یہ کہی جاسکتی ہے کہ اقوام متحدہ کا مرتب کردہ انسانی حقوق کا منشور اور اس پر عملدرآمد کا دستور چونکہ طالبان نے مکمل طور پر قبول نہیں کیا، اس لیے اقوام متحدہ نے طالبان کی مخالفت کی۔ لیکن ہم یہ بات بالکل بے جا سمجھتے ہیں، اس لیے کہ:

۱۔ اس وقت دنیا میں کئی ممالک ایسے ہیں جو اقوام متحدہ کے رکن ہوتے ہوئے، انسانی حقوق کی ایسی ایسی خلاف ورزیاں کر رہے ہیں جن کی اقوام متحدہ کا منشور قطعاً اجازت نہیں دیتا۔ مثال کے طور پر کشمیر میں بھارت، فلسطین میں اسرائیل، چینچینیا میں روس اور عراق میں امریکہ و برطانیہ۔ مذکورہ ممالک کی طرف سے انسانی حقوق کی مبینہ خلاف ورزیوں کے بارے میں عالمی ادارہ برائے تحفظ حقوق انسانی (یو من رائٹس واچ) وقتاً فوقتاً رپورٹیں بھی جاری کرتا رہتا ہے اور اقوام متحدہ کی طرف سے ان واقعات پر تنقید بھی ہوتی ہے، مذمت بھی کی جاتی ہے اور قراردادیں بھی پاس ہوتی ہیں، لیکن ان سب حقائق کے باوجود ان ممالک کو اقوام متحدہ کی رکنیت سے خارج نہیں کیا جاتا اور نہ ہی اقوام متحدہ کے پلیٹ فارم سے ان کے خلاف عملی طور پر تادیبی کارروائی کی جاتی ہے۔ اس کے برخلاف طالبان حکومت نے جب افغانستان میں امن و سلامتی کا ماحول قائم کیا اور جنگ زدہ عوام کو تحفظ فراہم کیا جو کہ ان کی سب سے بڑی ضرورت تھی تو اقوام متحدہ نے بعض ایسے مسائل کا بہانہ بنا کر طالبان کی مخالفت جاری رکھی جن کی اجازت نہ افغان معاشرے کی روایات دیتی ہیں اور نہ ہی طالبان کا سرکاری مذہب اسلام ان کی اجازت دیتا تھا۔ حالانکہ اقوام متحدہ کے منشور میں یہ بات شامل ہے کہ اس کے ذیلی ادارے جس ملک میں بھی انسانی حقوق کے تحفظ کیلئے خدمات سرانجام دیں گے وہ اس ملک کی روایت و ثقافت کا لحاظ رکھتے ہوئے اپنے پروگرام مرتب کریں گے اور ایسی کسی سرگرمی کا آغاز نہیں کریں گے جو علاقائی ثقافت و تہذیب سے متصادم ہو۔

۲۔ اقوام متحدہ کا منشور اپنے رکن ممالک سے جن اقدامات کا تقاضا کرتا ہے ان میں سب سے نمایاں اور اہم شخصی حقوق کا تحفظ ہے اور انسانی حقوق میں سب سے اہم فرد کو امن اور سلامتی فراہم کرنا ہے۔ افغان عوام کو امن و سلامتی اور خوشحالی عطا کرنے کے حوالے سے طالبان نے جو کچھ کیا وہ آپ اسی

کتاب کے باب ”میں نے کاہل بستے دیکھا“ میں پڑھ چکے ہیں، طالبان کی ان مساعی سے بخوبی اندازہ ہوتا ہے کہ وہ فرد کے حقوق بحال کر رہے تھے اور ان کے تحفظ کیلئے حتی الوسع کوشش کر رہے تھے۔ لیکن طالبان کے ان تمام تر اقدامات سے صرف نظر کر کے اقوام متحدہ کا ارادہ اس بات پر اڑا رہا کہ طالبان عورتوں کے حقوق بحال کریں۔ عالمی ادارے کا یہ مطالبہ بھی بالکل بے جا تھا، اس لیے کہ طالبان نے عورتوں کو جو تحفظ فراہم کیا، حقیقت میں ویسا تحفظ انہیں امریکہ اور یورپ میں بھی حاصل نہیں، اور اس صورتحال کی گواہی کئی غیر جانبدار ذرائع بھی دے چکے تھے۔ لیکن ان سب باتوں کے باوجود اقوام متحدہ اپنی رٹ پر اڑا رہا۔ اس کا اصرار تھا کہ طالبان خواتین کی حقوق کی بحالی کیلئے وہ طریق کار اختیار کریں جو اس کا بتایا ہوا ہے، جبکہ طالبان کا کہنا تھا کہ وہ عورتوں کے حقوق کے قائل ہیں اور ان کی بحالی کیلئے بھرپور اقدام بھی کر رہے ہیں، تاہم اس مقصد کے حصول کیلئے طریق کار وہی اختیار کریں گے، جس کی اجازت ان کا مذہب اور ان کا معاشرہ دیتا ہے۔ طرز کار کے اس اختلاف کو بنیاد بنا کر اقوام متحدہ نے طالبان کے خلاف وہ طوفان بدتمیزی برپا کیا کہ الامان، الحفیظ.....

اقوام متحدہ اور طالبان کے مابین چپقلش ابتدائی طور پر اس وقت سامنے آئی جب طالبان نے ستمبر ۱۹۹۵ء میں ہرات فتح کیا۔ ہرات شہر میں داخل ہونے کے بعد طالبان نے اعلان کیا کہ لڑکیوں کے تعلیمی ادارے اس وقت تک بند رہیں گے جب تک ان کیلئے علیحدہ تعلیمی نظام قائم نہیں کر لیا جاتا، اسی طرح خواتین کی ملازمت پر بھی پابندی عائد کر دی گئی، لیکن اس سلسلہ میں صحت کے شعبے کی ضرورت کا خیال رکھا گیا اور خواتین کو اس شعبے میں اسلامی احکام کی پابند رہتے ہوئے کام کرنے کی اجازت دیدی گئی۔

یہ انتہائی مناسب اقدام تھے جو طالبان نے اپنے مذہب اور معاشرے کو مد نظر رکھتے ہوئے اٹھائے، لیکن اقوام متحدہ کو یہ سب ہضم نہیں ہو رہا تھا۔ چنانچہ اس کا مطالبہ تھا کہ طالبان لڑکیوں کو اسکول جانے کی اجازت دیں اور عورتوں کو ہر شعبے میں ملازمت کی اجازت دیں۔ اس مطالبے کے جواب میں جب طالبان نے کہا کہ انہوں نے شہر میں تشویش و خدشے کی فضاء ختم کر کے وہاں امن و امان قائم کیا ہے اور ہر شہری کو تحفظ و سلامتی جیسی اہم ضرورت فراہم کی ہے، لہذا اقوام متحدہ کو چاہئے کہ صرف ملازمت کرنے والی خواتین کیلئے روئے پینے کے بجائے خوشحالی کے دیگر اقدامات میں طالبان حکومت کا ساتھ دے، خاص طور پر اس لیے بھی کہ ملازمت کرنے والی خواتین کی تعداد صرف دو فیصد ہے، طالبان کے اس موقف کے جواب میں اقوام متحدہ کی ضد تھی کہ افغانستان میں کام کرنے والے بین الاقوامی اداروں

کو اپنی خدمات سرانجام دینے میں خواتین کی معاونت کی ضرورت ہوتی ہے، لہذا طالبان افغان خواتین کو اقوام متحدہ کے تحت مختلف شعبوں میں ملازمتوں کی اجازت دیں۔ طالبان حکام نے اس مشکل کا حل یہ نکالا کہ غیر ملکی خواتین کو اجازت دیدی گئی کہ وہ افغانستان میں آ کر اقوام متحدہ کے تحت کام کریں۔ تاہم یہ خواتین بھی سروں پر چادر اوڑھنے کی پابند ہوں گی۔

غرضیکہ اقوام متحدہ طالبان نے محاصرت مول لینے کیلئے جیسے جیسے اپنے مطالبات میں اضافہ کرتا ویسے ویسے طالبان اس کے مطالبات کا معقول حل پیش کرتے رہتے، لیکن اس صورتحال کے باوجود اقوام متحدہ نے طالبان کو اور نہ ہی ان کے اقدامات کو خوشدلی سے قبول کیا۔ یہی وجہ تھی کہ جیسے جیسے طالبان کی فتوحات بڑھتی گئیں اقوام متحدہ کی طالبان مخالفت میں بھی اضافہ ہوتا چلا گیا۔

۹ اپریل ۱۹۹۶ء کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا افغانستان کی صورتحال پر اہم اجلاس ہوا۔ اس اجلاس میں افغانستان میں دیگر ممالک کی جانب سے ہتھیاروں کی آمد پر غور ہوا۔ اقوام متحدہ کے افغانستان کیلئے نمائندہ خاص محمود سٹیری نے اس اجلاس سے چند دن پہلے ہی، پاکستان پر طالبان کی مدد کا الزام لگا کر طالبان مخالفین کی واضح ترجمانی کی تھی۔ اور پھر ۲۳ مئی ۱۹۹۶ء کو اس نمائندے نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دیدیا۔ اس استعفیٰ کا مقصد بھی طالبان پر دباؤ ڈالنا تھا۔

ستمبر ۱۹۹۶ء میں طالبان اور اقوام متحدہ کے درمیان ایک مرتبہ پھر اس وقت شدید جھڑپ ہوئی جب ۲۷ ستمبر کو کابل میں داخلے کے بعد طالبان نے افغانستان کے سابق کمیونسٹ صدر جنرل نجیب کو اقوام متحدہ کے دفتر سے نکال کر پھانسی چڑھا دیا۔ جنرل نجیب ۱۹۸۶ء سے ۱۹۹۲ء تک افغانستان کا حکمران رہا اور اس دوران اس نے روسی افواج کے ساتھ مل کر اور ان کے جانے کے بعد ان کی طرف سے ملنے والی امداد کے بل بوتے پر افغان مجاہدین کے ساتھ جنگ جاری رکھی، بالآخر جب وہ اس جنگ سے تھک ہار گیا تو اس نے کابل کے اقتدار کو چھوڑ کر شہر سے بھاگنا چاہا، لیکن جب وہ اس کوشش میں ناکام ہو گیا تو اقوام متحدہ نے اسے کابل میں قائم اپنے دفتر میں پناہ دیدی۔ یہی پناہ اس کی جان ۱۹۹۶ء تک بچاتی رہی۔ اس دوران ایک مرتبہ جب اقوام متحدہ کے نمائندوں نے جنرل نجیب کو کابل سے نکالنا چاہا تو صدر ربانی نے اس سے انکار کر دیا تھا اور اقوام متحدہ کو اس اقدام کی اجازت نہیں دی تھی۔ ۱۹۹۶ء میں طالبان کے کابل میں داخلے سے قبل جنرل نجیب نے اسلام آباد میں واقع اقوام متحدہ کے دفتر سے رابطہ کر کے درخواست کی تھی کہ اسے اور اس کے بھائی اور دو ساتھیوں کو کابل سے نکالنے کا بندوبست کر دیا

جائے لیکن ان حالات میں اقوام متحدہ بے دست و پا ہو چکی تھی۔ ۲۶ ستمبر کی شام طالبان کے کابل کے دروازوں پر پہنچنے کے بعد جب احمد شاہ مسعود کابل سے فرار ہو رہا تھا تو اس نے بھی اپنا ایک سینئر جنرل نجیب کے پاس یہ کہنے کیلئے بھیجا کہ اگر وہ اس کی فوجوں کے ساتھ نکل جائے تو اسے بخیریت شمال تک پہنچا دیا جائے گا، لیکن نجیب کو مسعود پر بھی اعتبار نہیں تھا، لہذا اس نے یہ پیشکش ماننے سے بھی انکار کر دیا اور جب اگلی رات طالبان شہر میں داخل ہوئے تو انہوں نے قوم کے اس مجرم کو پکڑ کر سرعام تختہ دار پر لٹکا دیا۔ اقوام متحدہ اس واقعہ پر شپٹا کر رہ گئی، لیکن طالبان کا کہنا تھا کہ:

۱۔ جنرل نجیب افغان قوم کا مجرم تھا، اس کی سزا یہی ہونی چاہئے تھی۔

۲۔ اقوام متحدہ طالبان کو تسلیم نہیں کرتی تو پھر طالبان پر بھی اس کے دفتر اور پناہ کا احترام لازم نہ تھا۔ طالبان جنرل نجیب کے قتل میں اس لیے بھی حق بجانب تھے کہ جب جنرل نجیب کی بار بار درخواست پر طالبان کے کابل میں داخلے سے قبل اقوام متحدہ کا کوئی فرد اس کو بچانے کیلئے نہیں آیا تھا، تو اب اقوام متحدہ کی فراہم کردہ پناہ از خود ختم ہو گئی تھی، لہذا یہ کہنا کسی طرح صحیح نہیں تھا کہ طالبان نے جنرل نجیب کو اقوام متحدہ کی پناہ گاہ سے نکال کر قتل کیا تھا۔

بہر حال کابل پر طالبان کے قبضے کے بعد طالبان اور اقوام متحدہ میں قریبوں کی بجائے فاصلے مزید بڑھنے لگے۔ ان بڑھتے ہوئے اختلافات کا سب سے واضح سبب یہ تھا کہ جنگ سے مفلوک الحال اور سالہا سال سے لاقانونیت کے شکار اس شہر میں اقوام متحدہ کے ذیلی ادارے اور دیگر بین الاقوامی ادارے اپنی مرضی کا ماحول قائم کر کے اور اپنے وضع کردہ اصول و ضوابط کے تحت رہنا چاہتے تھے، انہوں نے ماضی کی طرح اب بھی یہی سوچا تھا کہ اس ملک میں کوئی حکمران نہیں ہے، لہذا وہی اس کے حکمران ہیں، اس لیے کہ مخلوق کو روٹی پانی وہی فراہم کر رہے ہیں۔ اس صورتحال کو سابقہ حکومت نے تو برداشت کیا کیونکہ ایک تو وہ خود ان امدادی رقوم سے بھرپور مستفید ہوتے تھے جو فلاحی امور کی انجام دہی کیلئے بین الاقوامی اداروں کی وساطت سے کابل پہنچتی تھیں اور پھر دوسری بات یہ بھی تھی کہ اگر وہ اقوام متحدہ اور ان اداروں کو شہر میں کام کرنے سے روکتے تو خود ان کے پاس اپنے عوام کا پیٹ بھرنے کیلئے کچھ نہیں تھا، اس لیے کہ انہیں تو باہمی جنگ و جدال سے ہی کبھی فرصت نہ مل پاتی تھی۔

ان حکمرانوں کے برخلاف جب طالبان نے کابل میں قدم رکھے تو شہر کو دفاعی، معاشی اور اقتصادی لحاظ سے نہ صرف مکمل طور پر اپنے کنٹرول میں لے لیا بلکہ ایسی ایسی اصلاحات بھی کیں جن سے

عوامی فلاح و بہبود کی راہیں ہموار ہوئیں اور معیشت و اقتصاد بحال ہوئے۔ اس صورتحال کا منطقی نتیجہ یہ نکلا کہ اقوام متحدہ اور دیگر بین الاقوامی ادارے من مانے طرز سے کام کرنے کے بجائے ایک منظم اور قانونی ماحول میں رہ کر کام کرنے کے پابند ہو گئے، عوام میں قائم ان اداروں کی اجارہ داری خطرے میں پڑ گئی اور وہ اپنے کئی ایسے منصوبوں پر اوس پڑتی دیکھنے لگے جو انہوں نے کابل کو ماسکوار پیرس کے روپ میں دیکھنے کیلئے بنائے تھے۔

ایسا نہیں تھا کہ طالبان نے آتے ہی ان اداروں کو بستر گول کرنے کیلئے کہہ دیا، ان کے دفاتر بند کر دیئے اور ان کے پروگرام منسوخ کر دیئے، بلکہ ہوا یوں کہ جب ان اداروں کو ایک باقاعدہ حکومت کے قائم کردہ نظام اور قانون کے ساتھ تعاون کرتے ہوئے کام کرنے کیلئے کہا گیا تو یہ بات انہیں عار محسوس ہونے لگی کہ ان کے افسر اور ماہرین طالبان کے ”دقیانوس“ راہنماؤں کے ساتھ بیٹھ کر معاملات طے کریں اور اپنے پروگرام جاری رکھنے کیلئے ان سے اجازت طلب کریں، حالانکہ اگر وہ ایسا کرتے تو یہ ان کے مفاد میں تھا۔ اس لیے کہ طالبان بھی عوام کی فلاح اور خوشحالی کیلئے سرگرم تھے اور بین الاقوامی ادارے بھی خود اپنے بقول کچھ ایسا ہی کرنا چاہتے تھے۔ لیکن افسوس کہ غیر ملکی اداروں اور اقوام متحدہ کے غیر معقول رویے کی وجہ سے ایسا نہیں ہو سکا۔ جس کے نتیجے میں طالبان انتظامیہ اور اقوام متحدہ کے مابین اختلاف بڑھتا گیا اور پھر کچھ دنوں بعد کابل اور دیگر کئی اہم شہروں میں اقوام متحدہ کے ذیلی اداروں کا قیام آنکھ چھوٹی کی صورت اختیار کر گیا۔

دونوں فریقوں کے مابین اس وقت تعلقات مزید کشیدہ ہونے لگے جب ایسی اطلاعات ملیں کہ بین الاقوامی اداروں کے غیر ملکی اہلکار افغانستان کے دیہاتوں میں عیسائیت کی تبلیغ و اشاعت کر رہے ہیں اور سادہ لوح افغان قوم میں ارتدادی مہم چلا رہے ہیں۔ اس صورتحال کا انکشاف اس وقت ہوا جب طالبان کی خفیہ ایجنسی نے کئی مقامات پر چھاپے مار کر بین الاقوامی اداروں کے دفاتر اور مراکز سے عیسائیت کی تبلیغ پر مبنی لٹریچر اور دیگر مواد برآمد کر لیا۔ ان حقائق کے سامنے آنے کے بعد عالمی اداروں کے پاس طالبان نے ان حالات سے سختی سے نمٹنے کا فیصلہ کیا۔ چنانچہ ایک طرف تو امیر المؤمنین ملا محمد عمر مجاہد کی طرف سے ایک اعلامیہ جاری ہوا جس میں براہ راست افغان عوام کو مخاطب بنایا گیا تھا۔ اس اعلامیہ میں کہا گیا کہ افغانستان میں جو شخص عیسائیت کی تبلیغ کرتے ہوئے پایا گیا اسے گرفتار کر لیا جائے گا اور جس شخص کے بارے میں معلوم ہوا کہ اس نے اسلام کو چھوڑ کر کوئی دوسرا دین قبول کر لیا ہے اسلامی

شریعت کے حکم کے مطابق اسے موت کی سزا دی جائے گی۔

دوسری طرف طالبان نے انتہائی ہوشیاری اور ہار یک بینی سے بین الاقوامی اداروں کے اہلکاروں کی نگرانی شروع کر دی۔ اس سلسلہ میں ایک اہم قدم یہ اٹھایا گیا کہ ان اداروں کو حکم دیا گیا کہ وہ اپنی پوزیشن واضح رکھنے کیلئے افغان عوام سے الگ رہ کر اپنے انتظامی امور منٹائیں اور عوام سے رابطہ اور دیہاتوں وغیرہ کا سفر صرف اسی وقت کریں جب انہیں اس کی ضرورت ہو۔ طالبان کے اس حکم پر عالمی ادارے بہت جزبہ ہوئے، اور اب ان سب نے مل کر جن کی تعداد تیس تک تھی، یہ فیصلہ کیا کہ اگر طالبان اپنا یہ حکم واپس نہیں لیں گے تو وہ اپنی سرگرمیاں معطل کر کے افغانستان سے ہی چلے جائیں گے۔ اس موقع پر اقوام متحدہ کے نمائندے الاخضر الابراہیمی نے بھی طالبان پر خاصی برہمی کا اظہار کیا لیکن ان سب باتوں کے باوجود طالبان اپنے مطالبے پر ڈٹے رہے، انہوں نے صاف صاف کہہ دیا کہ ان اداروں کی طرف سے افغانستان کے مسلمانوں میں ہیسائیت اور لادینیت پھیلانے کے واضح ثبوت ملنے کے بعد اب اس مسئلے پر قطعاً بات چیت نہیں ہو سکتی۔ طالبان کے اس اصرار کے سامنے جب این جی اوز نے سر تسلیم خم نہ کیا تو طالبان انتظامیہ نے ۲۰ جولائی ۱۹۹۸ء کو کاہل میں واقع ان اداروں کے تمام دفاتر زبردستی بند کر دیئے۔ جس کے بعد ان اداروں کے اہلکار بھی افغانستان سے روانہ ہونا شروع ہو گئے۔ طالبان کا یہ اقدام ایک صبر آزما اقدام تھا، لیکن اپنے دین و ملت کی حفاظت کیلئے وہ سب کچھ کر گزرنے کو تیار تھے، انہیں معلوم تھا کہ این جی اوز کے افغانستان سے نکلنے کے بعد انہیں زبردست اقتصادی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، لیکن وہ ذہنی طور پر اپنے آپ کو اس صورتحال سے نمٹنے کیلئے تیار پاتے تھے، این جی اوز کے اس انخلاء پر تبصرہ کرتے ہوئے طالبان کے وزیر منصوبہ بندی قاری دین محمد کا کہنا تھا کہ:

”اللہ تعالیٰ مسبب الاسباب ہے، وہ ہر کسی کو روزی دیتا ہے، این جی اوز اگر مگنی

ہیں تو یہ ان کا اپنا فیصلہ ہے، ہم نے انہیں جانے کیلئے نہیں کہا تھا۔“

بین الاقوامی رفاہی اداروں کے کاہل سے اس انخلاء سے قبل اقوام متحدہ کی طرف سے طالبان کی مخالفت میں بعض ایسے اقدامات سامنے آچکے تھے، جنہوں نے یقینی طور پر طالبان کو عالمی ادارے کے کردار کے بارے میں شکوک و شبہات میں مبتلا کر دیا۔

۱۸ اکتوبر ۱۹۹۶ء کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا ایک اجلاس ہوا، اس اجلاس میں افغانستان میں

جنگ بندی کے حوالے سے بحث ہوئی جبکہ شرکائے اجلاس نے طالبان کی خواتین کے بارے میں

پالیسیوں کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے طالبان کو برا بھلا کہا۔

مئی ۱۹۹۷ء میں طالبان کو مزار شریف کا حادثہ پیش آیا جس میں طالبان مخالفین نے بغاوت و فداری کے ذریعے دس ہزار کے لگ بھگ طالبان مجاہدین کو قیدی بنانے کے بعد اجتماعی قتل عام کر کے شہید کر دیا۔ شمالی اتحاد کی طرف سے سفاکیت کے اس مظاہرے پر طالبان نے اقوام متحدہ سے مطالبہ کیا کہ وہ اس واقعہ کی مذمت کرے، لیکن اقوام متحدہ نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا۔

دسمبر ۱۹۹۷ء میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے طالبان کی بجائے سابق افغان صدر برہان الدین ربانی کی جلا وطن حکومت کو اپنی نمائندگی دینے کا اعلان کیا جو کہ سراسر زیادتی اور نا انصافی کے زمرے میں آتا تھا۔ ربانی کو جون ۱۹۹۲ء میں صرف ۴ ماہ کیلئے افغانستان کا صدر بنایا گیا تھا، جس کے بعد وہ چار مرتبہ اپنے ہی خود ساختہ پلیٹ فارموں سے اپنی مدت صدارت میں توسیع کراتے رہے، حتیٰ کہ طالبان نے آکر انہیں کاہل سے نکال دیا۔ وہ افغانستان کے ناکام ترین حکمران ثابت ہوئے۔ ان کے پورے صدارتی دور میں کاہل بد امنی و بد حالی کا شکار رہا، جبکہ ملک کے دوسرے حصوں میں طوائف الملوکی رائج ہوئی۔ وہ افغان عوام کو کچھ دے تو نہ سکے البتہ اپنے عوام سے اور ان کے نام پر انہوں نے بہت کچھ جمع کیا۔ افغان مؤرخ عبدالحمید مبارز نے لکھا ہے کہ طالبان کی آمد پر جب ربانی کاہل سے فرار ہو رہے تھے تو ڈالر روں سے بھری ہوئی تین گاڑیاں ان کے ساتھ تھیں۔ کاہل سے فرار کے بعد ربانی کی پوزیشن افغانستان میں اس قدر بھی نہ تھی کہ وہ احمد شاہ مسعود یا دوستم کے پاس رہ سکتے۔ چنانچہ وہ ملک سے باہر چلے گئے اور وہاں جا کر ایک جلا وطن حکومت کا ڈھانچہ قائم کر لیا۔ دو ہفتے اور تہران کے درمیان سب بے در کی طرح چکر لگانا کہ وقت گزارنے والے اس شخص کو اقوام متحدہ میں افغانستان کے صدر کے طور پر نمائندہ مقرر کرنا نہ صرف طالبان کے ساتھ زیادتی تھی، بلکہ پوری افغان قوم کے ساتھ بھی اقوام متحدہ کا ایک بھیما یک مذاق تھا۔ اس وقت افغانستان کے اتنی فیصد علاقے پر قابض، کامیاب حکومت قائم کرنے اور امن و سلامتی کو عام کرنے والے طالبان کو نظر انداز کر کے ربانی جیسے بے بس و خود ساختہ حکمران کو اس طرح نوازنے سے اقوام متحدہ کا اصل چہرہ کھل کر سامنے آ گیا۔

۲۳ اکتوبر ۱۹۹۸ء کو اقوام متحدہ اور طالبان کے مابین ایک سمجھوتہ ہوا، جس کی رو سے اقوام متحدہ کا غیر ملکیوں پر مشتمل عملہ امدادی کام کیلئے ایک مرتبہ پھر افغانستان واپس جاسکتا تھا۔ اس سمجھوتے سے طالبان کی اہمیت اور حیثیت مزید مستحکم ہو گئی۔

۱۹ دسمبر ۱۹۹۸ء کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے طالبان کو خبردار کیا کہ اگر انہوں نے جنگ بندی کر کے مذاکرات کا آغاز نہ کیا تو ان کے خلاف تاحی پابندیاں نافذ کر دی جائیں گی۔ سلامتی کونسل میں متفقہ طور پر منظور کی جانے والی قرارداد میں یہ مطالبہ کیا گیا تھا کہ طالبان میں بیہوشی گروہوں کو پناہ دینا بند کر دیں اور عورتوں اور لڑکیوں کے خلاف امتیازی سلوک بند کر کے بنیادی انسانی حقوق کو یقینی بنایا جائے۔ اس قرارداد میں سخت زبان استعمال کی گئی تھی۔ تاہم اس میں ٹھوس اور حتمی پابندیوں کا ذکر نہیں کیا گیا تھا۔ روس چاہتا تھا کہ قرارداد میں مخصوص پابندیوں کا ذکر کیا جائے۔ تاہم دیگر اراکین اس پر متفق نہ ہوئے۔ ان کے خیال میں ایک جنگ زدہ ملک پر ان پابندیوں کے کیا اثرات مرتب ہو سکتے تھے۔

سلامتی کونسل نے متفقہ طور پر قرارداد کے ذریعے افغانستان سے مطالبہ کیا کہ وہ دہشت گردوں کو پناہ دینا چھوڑ دے اور عورتوں کے خلاف امتیاز اور مہاشیات کی پیداوار کو بند کر دے۔

قرارداد میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ اقوام متحدہ کا ایک خاص دفتر افغانستان میں قائم کیا جائے جو کم از کم انسانی حقوق کو فروغ دینے کے ساتھ ساتھ ان کی نگرانی بھی کرے۔

امریکی عہدیداروں کے مطابق یہ قرارداد افغانستان میں دہشت گردوں کو پناہ دینے کے خلاف ایک سخت مؤقف تھا۔ ان کا اشارہ واضح طور پر مشتبہ دہشت گرد اسامہ بن لادن کی طرف تھا جو افغانستان میں مقیم تھا۔ قرارداد میں کہا گیا تھا کہ طالبان دہشت گردوں کو تربیت دے رہے ہیں۔ یہ ایک ایسی قرارداد تھی جس میں افغانستان میں جنگ بند کرنے کا اتنا سخت مطالبہ نہیں کیا گیا تھا۔

اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں منظور ہونے والی اس قرارداد کے جواب میں امیر المؤمنین ملا محمد عمر مجاہد نے ایک بیان جاری کیا، جس میں پاکستان کی طرف سے افغانستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کی تردید کی گئی اور کہا گیا کہ طالبان بھی تمام قبائل اور علاقوں کی نمائندگی پر مشتمل وسیع البیاد حکومت بنانا چاہتے ہیں، لیکن قومی مجرموں کو اس حکومت میں کسی صورت شامل نہیں کیا جاسکتا۔ اس بیان میں یہ بھی کہا گیا کہ اگر اقوام متحدہ طالبان حکومت کو تسلیم کر لے اور افغان کاشتکاروں سے مالی تعاون کرے تو افغانستان میں افیون کی کاشت پر پابندی لگائی جاسکتی ہے۔

اسی ماہ طالبان نے اقوام متحدہ پر کڑی تنقید کی۔ انہوں نے عالمی ادارے پر بجا طور پر الزام عائد کیا کہ وہ افغانستان کے بارے میں جانبدارانہ رویہ اپنارہا ہے، طالبان نے اقوام متحدہ سے مطالبہ کیا کہ وہ ان کی حکومت کو تسلیم کرے جس کا ملک کے اسی فیصد علاقے پر قبضہ اور کنٹرول ہے۔

طالبان کی طرف سے یہ حقیقت پسندانہ الزام اقوام متحدہ کو سخت ناگوار گزارا، چنانچہ اگلے ہی ماہ اکتوبر ۱۹۹۹ء کی ۱۵ تاریخ کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے خصوصی اجلاس میں اعلان کر دیا گیا کہ اگر طالبان نے ۱۴ نومبر ۱۹۹۹ء تک اسامہ بن لادن کو امریکہ کے حوالے نہیں کیا تو افغانستان آنے جانے والی کمرشل پروازوں کی ممانعت کر دی جائے گی اور دنیا بھر کے بینکوں میں موجود طالبان کے اکاؤنٹ منجمد کر دیئے جائیں گے۔ ۱۴ نومبر کی تاریخ گزرتے ہی اس پابندی کا اطلاق ہو گیا اور یوں طالبان کے خلاف اقوام متحدہ کے براہ راست اقدامات کا انسوناک سلسلہ شروع ہوا۔

حیرت انگیز امر یہ تھا کہ اقوام متحدہ کی ان پابندیوں سے قبل طالبان نے امریکہ سے کہا تھا کہ اگر وہ اسامہ بن لادن کی خلاف بیعت ۲۰ نومبر ۱۹۹۹ء تک فراہم کر دے تو طالبان اسامہ کو امریکہ کے حوالے کریں گے۔ لیکن طالبان کی طرف سے اس پیشکش کو نظر کرتے ہوئے انتہائی ہٹ دھرمی کے ساتھ ان کی خلاف پابندیاں عائد کر دی گئیں۔

۱۹ دسمبر ۲۰۰۰ء کو اقوام متحدہ نے طالبان پر مزید پابندیاں لگاتے ہوئے افغانستان میں تمام تربیتی کیمپوں کو بند کر کے ان کا معائنہ کرانے کا حکم دیا۔ نیز اسامہ بن لادن کے اثاثے منجمد کرنے اور عالمی قوانین کی پابندی کرنے پر زور دیا گیا۔ قرارداد کے ذریعے افغانستان پر لگائی جانے والی پابندیوں کی مد میں مندرجہ ذیل احکام جاری کیے گئے:

- ۱۔ طالبان حکومت کو ہر طرح کے فوجی ساز و سامان کی فراہمی بند کر دی جائے۔
- ۲۔ طالبان حکومت کو اقوام متحدہ کی سفارش کردہ اور دیگر تکنیکی امداد کی فراہمی پر بھی پابندی کو یقینی بنایا جائے۔

۳۔ رکن ممالک افغانستان سے سکیورٹی معاملات کے متعلق مشورہ دینے والے اپنے افسروں، ایجنٹوں اور مشیروں کو واپس بلا لیں تاہم اس کا اطلاق اس غیر فوجی ساز و سامان یا تربیت پر نہیں ہوگا جس کا مقصد انسانیت کی بھلائی اور حفاظت ہوگا۔

۴۔ تمام ممالک افغانستان کے ساتھ اپنے سفارتی تعلقات کو کم سے کم درجے پر لے آئیں گے اور عملے کی تعداد اور ان کی نقل و حرکت محدود کر دی جائے گی۔

۵۔ تمام ممالک اپنی سرزمین پر موجود طالبان کے ہر قسم کے دفاتر مکمل اور فوری طور پر بند کر دیں گے جن میں افغان ایئر لائنز آربانا کے دفاتر بھی شامل ہوں گے۔

۶۔ اسامہ بن لادن اور ان سے متعلق افراد اور ان کے فنڈز بلا تاخیر منجمد کر دیں گے۔ اس سلسلے میں یہ فیصلہ بھی کیا گیا کہ رکن ممالک اور علاقائی تنظیموں کی جانب سے فراہم کردہ اطلاعات کی بنیاد پر ایسے افراد اور اداروں کی ایک تازہ فہرست تیار کی جائے گی جن کا تعلق اسامہ بن لادن کے ساتھیوں سے ہے۔

۷۔ طالبان نشیات کی تمام سرگرمیاں بند کر دیں اور افیون کی غیر قانونی کاشت کے خاتمے کو یقینی بنائیں جس کی رقم دہشت گرد سرگرمیوں میں استعمال کی جاتی ہے۔

۸۔ تمام ممالک پر زور دیا گیا کہ وہ کسی بھی طیارے کو طالبان کے زیر کنٹرول علاقے کیلئے پرواز کرنے، طالبان کے طیارے کو اپنی علاقائی حدود پر سے گزرنے یا وہاں سے آنے والے طیارے کو اپنے ملک میں اترنے کی اجازت نہیں دیں گے۔

۹۔ پابندیوں پر عملدرآمد کو یقینی بنانے والی کمیٹی افغانستان کو انسانی ہمدردی کی بنیاد پر امداد فراہم کرنے والی تنظیموں اور ایجنسیوں کی فہرست تیار کرے گی اور اس پر باقاعدگی سے نظر ثانی کرتی رہے گی اور ان تنظیموں یا ایجنسیوں کے نام اس فہرست سے خارج کر دیے جائیں گے جن کے بارے میں وہ فیصلہ کرے گی کہ وہ انسانی مقاصد کی بجائے کسی اور مقصد کیلئے پروازیں چلا رہی ہیں یا چلا سکتی ہیں۔

۱۰۔ طالبان سے یہ مطالبہ بھی کیا گیا کہ وہ اقوام متحدہ اور اس سے ملحق انسانی امدادی تنظیموں کے ارکان کی حفاظت، سلامتی اور آزادانہ نقل و حرکت کی ضمانت دیں۔

۱۱۔ تمام ممالک افغان حکومت کے نائب وزیر اور اس سے اوپر کے عہدیداروں اور طالبان کے دوسرے سینئر مشیروں اور اہم شخصیات کو اپنے علاقے میں داخل ہونے یا گزرنے سے روکنے سے اقدامات کریں۔

۱۲۔ سیکریٹری جنرل کوئی عثمان سے درخواست کی گئی کہ کمیٹی کے مشورے سے وہ ایک ماتحت کمیٹی تشکیل دیں جس کی ذریعے افغانستان کو ہتھیاروں کی فراہمی پر پابندی اور دہشت گردی کے تربیتی کیمپوں کو بند کرنے کی نگرانی کی جاسکے۔ مذکورہ بالا کمیٹی علاقائی اور بین الاقوامی تنظیموں کی فراہم کردہ اطلاعات کی بنیاد پر طالبان کے زیر کنٹرول افغانستان میں داخل ہونے اور اترنے والے طیاروں، اسامہ بن لادن سے متعلق افراد، تنظیموں اور افغانستان میں انسانی ہمدردی کی بنیاد پر کام کرنے والی ایجنسیوں کی فہرست تیار کرے گی اور اسے اپ ڈیٹ کرتی رہے گی۔

۱۳۔ تمام رکن ممالک اور بین الاقوامی ادارے اقوام متحدہ کی طرف سے عائد کردہ پابندیوں کی

شعور پر عمل کریں، چاہے ان پابندیوں کے نفاذ سے قبل ان ممالک یا اداروں اور افغانستان کے درمیان کوئی بین الاقوامی معاہدہ یا مفاہمت ہی موجود کیوں نہ ہو۔

۱۳۔ تمام ممالک ایسے افراد اور اداروں پر جو مذکورہ اقدامات کی خلاف ورزی کے مرتکب پائے جائیں، مناسب جرمانے عائد کریں۔

۱۵۔ تمام ممالک قرارداد کے نفاذ کے تیس یوم کے اندر کمیٹی کو آگاہ کریں کہ انہوں نے قرارداد کے مؤثر نفاذ کی خاطر کیا اقدامات کیے ہیں۔

۱۶۔ ان پابندیوں کا نفاذ ایک سال کیلئے ہوگا۔ اس کے بعد سیکورٹی کونسل فیصلہ کرے گی کہ آیا طالبان نے اقوام متحدہ کے مطالبات پورے کیے ہیں یا نہیں اور یہ کہ مزید اتنی ہی مدت کیلئے پابندیوں میں اپنی شرائط کے ساتھ توسیع کی جائے یا نہیں۔

۱۷۔ سیکورٹی کونسل اس عزم کا اظہار کرتی ہے کہ مطالبات پر عمل درآئندہ ہونے کی صورت میں مطلوبہ اہداف حاصل کرنے کیلئے مزید پابندیوں کے نفاذ پر بھی غور کرے گی۔

اقوام متحدہ کی طرف سے ان نئی پابندیوں کی ان دھمکیوں کے جواب میں امیر المؤمنین ملا محمد عمر نے ایک بیان جاری کیا، جس میں افغان قوم کو اس مشکل وقت میں صبر و حوصلہ سے کام لینے کی تلقین کی گئی تھی۔ اس بیان میں کہا گیا کہ:

”اقوام متحدہ کی تازہ پابندیاں نا انصافی پر مبنی ہیں۔ اصل بات اسامہ اور پوست کی کاشت نہیں بلکہ اسلام دشمن قوتیں افغانستان میں اسلامی حکومت کو مضبوط ہونا نہیں دیکھ سکتیں اور یہ ان کے لئے قابل قبول نہیں ہے۔ ماضی میں جب اسامہ کی افغانستان چھوڑ دینے کی خبریں آئیں تو امریکہ اور کفر کی دیگر طاقتوں نے کہا کہ مسائل صرف اسامہ کے جانے سے حل نہیں ہوتے بلکہ ہمارے مزید خدشات موجود ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسامہ محض ایک بہانہ ہے۔ افغان عوام اللہ پر توکل رکھیں، رزق دینے والی اللہ کی ذات ہے (بے شک)۔ اللہ کی مدد سے افغان مشکلات کا مقابلہ کریں۔ کوئی بھی افغانستان کی اسلامی حکومت کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔“

۲۰۰۰ء میں اقوام متحدہ نے نئے ہزارے کی مناسبت سے میلینیم اجلاس منعقد کیا۔ اس اجلاس

میں دنیا بھر کے ممالک کے سربراہوں کو شرکت کی دعوت دی گئی۔ لیکن افغانستان کے نوے فیصد علاقے کے حکمران طالبان کی بجائے پروفیسر ربانی کو افغانستان کے سربراہ کے طور پر بلایا گیا۔ اقوام متحدہ کا یہ اقدام نہ صرف طالبان کے ساتھ زیادتی تھی بلکہ پوری افغان قوم کے ساتھ ایک بھونڈا مذاق تھا۔ اقوام متحدہ کے اس طرز عمل پر امارت اسلامی کے نمائندے کی طرف سے جنرل سیکریٹری کوئی عنان کو ایک احتجاجی مراسلہ بھیجا گیا۔ اس مراسلے کے مندرجات یہ تھے:

”محترم جناب کوئی عنان

جنرل سیکریٹری اقوام متحدہ، نیویارک

اجازت دیجئے کہ میں اپنی نیک تمنائیں اور دلی احترام آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ گزارش یہ ہے کہ ہمارا اسلامی ملک افغانستان گذشتہ کافی عرصہ سے مسلسل بیرونی تجاوزات کا شکار ہو کر خوزریزی اور لاجینی جنگ میں گھرا ہوا ہے اور اس طویل جنگ نے افغانستان میں سوائے موت اور ویرانی کے کوئی چیز باقی نہیں چھوڑی۔ ملک اقتصادی، ثقافتی اور معاشرتی لحاظ سے تباہ حال ہو چکا ہے اور افغان عوام طرح طرح کی مشکلات کا شکار ہو چکے ہیں۔

اپنے ملک کو اس اندوہناک صورتحال سے نکالنے اور اسے مزید خطرات سے بچانے کیلئے اس سر زمین میں بسنے والے اہل ایمان یعنی تحریک اسلامی طالبان نے افغان عوام کی اکثریت کی خواہش کے عین مطابق اسلامی شریعت کے نفاذ، آزادی کے تحفظ، امن و سلامتی کے قیام، خطرناک اسلحہ کو جمع کرنے اور باہمی لڑائی، جھگڑوں کو ختم کرنے کیلئے اپنی کوششوں کا آغاز کیا اور اللہ کی مدد و نصرت اور عوام کے تعاون سے مختصر مدت میں کامیابیوں سے ہمکنار ہوئے اور تقریباً تمام ملک حتی کہ دارالحکومت کابل، سرحدات اور بندرگاہیں سب کچھ اب ان کے کنٹرول میں ہیں۔

اسلامی اور قومی حکومت قائم ہو چکی ہے، امن و آشتی پورے ملک میں بحال ہو گئی ہے، شرف و فساد کا قلع قمع ہو چکا ہے، اور اب افغان عوام سکون و اطمینان اور آسودگی کے ساتھ اپنے روزمرہ کے معمولات زندگی کی ادائیگی

میں مصروف ہیں۔

محترم جناب کوئی عنان!

اقوام متحدہ اچھی طرح جانتی ہے اور یہ بات بالکل واضح ہے کہ ربانی افغانستان کے معزول شدہ صدر ہیں، اور اپنے زیر تسلط علاقے میں بھی جو کہ افغانستان کا پانچ فیصد حصہ بھی نہیں بنتا، وہ کسی قسم کی کوئی قدرت نافذہ اور حاکمانہ صلاحیت نہیں رکھتے چنانچہ اس علاقے میں بدامنی، چوری ڈاکے اور بے سروسامانی کا راج ہے، انتہاء یہ ہے کہ خود ربانی کی جائے اقامت اور محل صدارت ہی کے بارے میں پتہ نہیں کہ وہ کہاں واقع ہیں؟ لیکن ان تمام حقائق کے باوجود اقوام متحدہ نے انہیں افغانستان کے صدر کی حیثیت سے اپنے ۲۰۰۰ء کے اس خصوصی اجلاس میں شرکت کی دعوت دی ہے جو حال ہی میں نیویارک میں منعقد ہو رہا ہے۔ کیا ربانی اس اجلاس میں طے پانے والے امور اور معاہدوں کو عملی جامع پہنانے کی صلاحیت رکھتے ہیں؟ ایسی صورتحال میں انہیں اس اجلاس میں مدعو کرنا وقت ضائع کرنے کے سوا کچھ نہیں۔

اگر اقوام متحدہ واقعی پوری دنیا میں امن و صلح قائم کر کے باہمی تنازعات کا خاتمہ چاہتی ہے تو لازم ہے کہ وہ حقائق سے چشم پوشی نہ کرے اور حق دار کو اس کا حق پہنچائے۔

امارت اسلامیہ افغانستان ایک مرتبہ پھر اقوام متحدہ سے مطالبہ کرتی ہے کہ اقوام متحدہ میں افغانستان کی نشست امارت اسلامیہ افغانستان کو دی جائے اور یہ کہ اقوام متحدہ افغان عوام کے دشمنوں کی حمایت سے دستبردار ہو جائے۔“

فروری ۲۰۰۱ء میں طالبان نے بامیان کے بتوں کی تباہی کا اعلان کیا تو اقوام متحدہ کے ذمہ دار ایک مرتبہ پھر چکر اکر رہ گئے۔ مارچ ۲۰۰۱ء کو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں ایک قرارداد منظور کی گئی جس میں طالبان پر زور دیا گیا تھا کہ وہ بتوں کو نہ توڑیں۔

اسی دوران اقوام متحدہ کے جنرل سیکریٹری کوئی عنان اسلام آباد آئے اور انہوں نے طالبان کے نمائندے سے اس بارے میں مذاکرات کیے، لیکن اقوام متحدہ کی ایک نہ چلی اور بامیان کے بت تباہ

کر دیئے گئے۔ طالبان کا موقف یہ تھا کہ اقوام متحدہ نے گزشتہ ایک سال سے افغانستان پر اقتصادی پابندیاں عائد کر رکھی ہیں جن کی وجہ سے لاکھوں افغان مشکلات کا شکار ہیں، جن لوگوں کو ان انسانوں کے تڑپ تڑپ کر مرنے کی فکر نہیں وہ محض مٹی کے بنے ہوئے بوسیدہ مجسموں کا اتنا درد کیوں محسوس کر رہے ہیں۔ اقوام متحدہ کے پاس طالبان کے اس سوال کا کوئی معقول جواب نہیں تھا۔

جولائی ۲۰۰۱ء میں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے امریکہ اور روس کے کہنے پر یو این مانیٹرنگ کی منظوری دی جس کا شرمناک مقصد یہ تھا کہ افغانستان کیخلاف لگائی جانے والی اقوام متحدہ کی پابندیوں کی عملی صورتحال کا جائزہ لیا جائے اور افغانستان کی سرحدوں پر بیٹھ کر گمرانی کی جائے کہ کوئی ملک ان پابندیوں کی خلاف ورزی تو نہیں کر رہا۔ یہ نگرانی اقوام متحدہ کے انسپکٹروں نے کرنی تھی اور یہ بالکل ویسا ہی ڈرامہ تھا جیسا بعد میں عراق کے ”مہلک ہتھیار“ تلاش کرنے کیلئے رچایا گیا اور اس کے بہانے عراق میں امریکی اور برطانوی جاسوس داخل کر دیئے گئے، لیکن طالبان صدام کی طرح نہیں تھے، انہوں نے اقوام متحدہ کے ان مجوزہ مانیٹرنگ گروپوں کو ”افغان دشمن“ قرار دیا اور کہا کہ اگر کسی جانب سے اقوام متحدہ کے کسی انسپکٹر نے افغانستان میں داخل ہونے کی جسارت کی تو اسے عبرتناک سزا دی جائے گی۔ پاکستان کے عوام نے بھی اقوام متحدہ کے اس اقدام کی مخالفت کی اور اسی مخالفت کے نتیجے میں چالیس مذہبی اور سیاسی جماعتوں نے اسلام آباد میں ایک بہت بڑا اجلاس منعقد کر کے اقوام متحدہ کا یہ فیصلہ مسترد کر دیا اور ۸/ اگست ۲۰۰۱ء کو انہی جماعتوں نے ”دفاع پاکستان و افغانستان کونسل“ کے قیام کا اعلان کیا۔

گیارہ ستمبر ۲۰۰۱ء کو امریکی ورلڈ ٹریڈ سینٹر کی دونوں عمارتیں اور پینٹاگون کی عمارت فدا کی حملہ آوروں نے تباہ کیں تو امریکہ نے ان حملوں کا ذمہ دار اسامہ بن لادن کو ٹھہرایا اور اسامہ کی پشت پناہی کے جرم میں طالبان کو بھی زیر عتاب کر لیا۔ اس موقع پر اقوام متحدہ نے ایک مرتبہ پھر کھل کر طالبان کیخلاف امریکہ کی ہاں میں ہاں ملائی اور ان حملوں کے اگلے ہی دن اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا اجلاس منعقد کیا گیا، اس اجلاس میں پوری دنیا سے دہشگردی کے خلاف تعاون کی اپیل کی گئی۔ جنرل اسمبلی کی اس قرارداد کا واضح اشارہ طالبان اور اسامہ کی طرف تھا۔


۲۹ دسمبر ۲۰۰۱ء کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے ایک منفقہ قرارداد کے ذریعہ دہشگردوں اور ان کے سیاسی اور فوجی معاونین کے خلاف طاقت استعمال کرنے کی اجازت دیدی۔ یہ اجازت گزشتہ سات سال سے جاری اقوام متحدہ کی ان ناکام سازشوں کا لب لباب تھا جو یہ عالمی ادارہ طالبان کی اسلامی

حکومت کیخلاف کر رہا تھا۔ طالبان کے خلاف طاقت کے استعمال کی یہ قرارداد منظور کر کے سلامتی کونسل نے یہ ثابت کر دیا تھا کہ وہ ہر حال میں طالبان کا خاتمہ چاہتی ہے۔ لیکن حیرت انگیز بات یہ تھی کہ دہشتگردی کیخلاف طاقت کے استعمال کی یہ قرارداد منظور ہونے کے بعد جنرل اسمبلی کے اراکین اس بحث میں الجھ پڑے کہ دہشتگردی کی تعریف کیا ہوگی؟ ظاہری بات ہے جس دہشتگردی کا الزام طالبان پر عائد کیا جا رہا تھا ایسی دہشتگردیاں بلکہ اس سے کئی گنا بڑی کارروائیاں امریکہ اور روس جیسے بڑے ممالک خود بھی کرتے چلے آئے تھے، لیکن ان کو اس قرارداد کی زد میں آنے سے بچانا بھی ضروری تھا۔ اسی مشکل کا حل تلاش کرنے کیلئے جنرل اسمبلی کا یہ اجلاس مزید پانچ دن جاری رہنے کے بعد ۳/ اکتوبر کو ختم ہوا، تاریخ میں پہلی مرتبہ جنرل اسمبلی کے اجلاس میں ۱۵۶ مقررین نے اس ایک نکاتی ایجنڈے پر تقریریں کیں، لیکن ان کے اپنے لبادوں پر لگے ہوئے دہشت گردی کے سیاہ دھبوں نے انہیں کسی نتیجے تک پہنچنے سے روک دیا، اور یوں یہ اجلاس دہشتگردی کی تعریف متعین کیے بغیر ہی ختم ہو گیا۔ تاہم دہشتگردی کیخلاف طاقت کے استعمال کی سلامتی کونسل کی طرف سے اجازت نے امریکہ اور اس کے حواریوں کو افغانستان جیسے بے بس ملک پر حملہ آور ہونے کا جواز فراہم کر دیا۔

۷ اور ۸ اکتوبر ۲۰۰۱ کی رات افغانستان پر صلیبی حملے شروع ہوئے تو اقوام متحدہ کے جنرل سیکریٹری کوفی عنان بھی حرکت میں آ گئے، انہوں نے ان حملوں کو جائز اور بجا قرار دیتے ہوئے افغانستان کی آئندہ حکومت کے انتخاب و قیام کیلئے جدوجہد شروع کر دی، اور پھر وہ اپنی ان کوششوں میں کامیاب بھی ہو گئے، لیکن کیا آنے والے دنوں میں اقوام متحدہ افغانستان کو وہ خوشحالی اور خوشیاں دینے میں کامیاب ہو گئی جس کے وعدے وہ طالبان حکومت کے خاتمے کے وقت کرتی رہی؟

ہمارے قارئین اس سوال کا جواب ”طالبان کے بعد“ کے عنوان کے تحت اسی کتاب میں ملاحظہ کریں گے۔





طالبان کیسے آئے؟

۱۹۹۵ء میں طالبان جب ہرات کی طرف پیش قدمی کر رہے تھے تو ان کا مقابلہ کرنے والی افواج میں جنرل عظیمی بھی شامل تھے۔ جنرل عظیمی ہرات کے حکمران اسماعیل خان کے قریبی اتحادیوں میں سے تھے اور ان تین کیمونسٹ جرنیلوں میں سے ایک تھے جنہوں نے ۱۹۹۲ء میں جنرل نجیب کے کابل اقتدار کو چھوڑنے کے بعد شہر کا کنٹرول سنبھال لیا تھا۔ طالبان کے ہرات پر قبضے کے بعد انہوں نے فارسی میں ایک کتاب لکھی جس کا نام ”طالبان چگونہ آمدند؟“ (طالبان کیسے آئے؟) ہے۔ اس کتاب کا ایک باب طالبان کی جنگی حکمت عملی اور سرکردگی پر بہترین شاہد ہے۔ اسی لیے میں اس باب کا ترجمہ کر کے اسے اپنی اس کتاب کا حصہ بنا رہا ہوں۔

ملاحظہ فرمائیے جنرل عظیمی کی کتاب ”طالبان چگونہ آمدند“ کا ایک اہم باب:

”یہ ان دنوں کی بات ہے جب طالبان کابل کے دہانے پر پہنچ چکے تھے۔ دارالحکومت کے اردگرد ہر جانب افراتفری پھیلی ہوئی تھی اور طالبان کا ایک بڑا حریف غفار اخوند ہیرمند سے فرار ہو کر غور بند پہنچ چکا تھا۔ انہی دنوں جنوب مغربی علاقے سے پچیس ہزار مسلح افراد پر مشتمل ایک لشکر جراز جس کی قیادت جنرل علاؤ الدین اور جنرل ہلائی کے سپرد تھی ہیرمند کو طالبان کے متوقع حملوں سے بچانے کیلئے روانہ ہوا۔“

یہ پہلا منظم ترین لشکر تھا جو جنوب مغربی علاقے سے روانہ ہوا تھا۔ اگرچہ اس سے قبل بھی صوبہ فاریاب اور دوسرے علاقوں میں ہمارے لشکر گئے تھے لیکن کیفیت اور تعداد کے لحاظ سے وہ ہرگز اس لشکر

کے مقابلے کے نہ تھے۔ بہر حال یہ لشکر دریائے دل آرام سے بیس کلومیٹر جنوب کی سمت میں تباہ ہائی سنگھان نامی مقام پر پہنچا ہی تھا کہ اچانک اس کی طالبان سے ٹڈ بھڑ ہو گئی۔

ممکن بلکہ بہت ممکن ہے کہ جنگی تیاریوں، سفری سہولتوں، ساز و سامان اور کثرت افراد کی وجہ سے یہ لشکر ہر دیکھنے والے پر ہیبت طاری کر رہا تھا اور دل میں رعب، ٹھارہا تھا کیونکہ روس کے جانے کے بعد اس علاقے میں عظیم الشان لشکر کی مثال نہیں ملتی، لہذا شاید اسی بناء پر ہماری افواج کا غرور و تکبر حد سے بڑھ رہا تھا اور لشکر کے اکثر کمانڈر اور ذمہ دار بے پروائی کا شکار ہو چکے تھے اور اس لحاظ سے لشکر کی حالت اتنی شکست تھی کہ صاف طور پر محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی چھوٹا سا لشکر بھی اس پر حملہ آور ہو کر شکست سے دوچار کر سکتا ہے اور اسے درہم برہم کر سکتا ہے۔

دیگر کئی کمزوریوں کی طرح اس حقیقت سے بھی انکار نہیں کیا جاسکتا کہ دشمن خود ہماری صفوں میں موجود تھا اور وہ اس طرح کہ ہماری افواج میں ایک بہت بڑی تعداد پشتونوں کی تھی جن کی اکثریت قندھار بہر مند اور فراہ کے باشندوں پر مشتمل تھی۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ہاں قومیت ایک ایسا مسئلہ ہے جسے مافوق العادہ کا درجہ دیا جاتا ہے۔ چنانچہ ان میں سے بہت سے افراد ایسے تھے جو کم از کم اپنے دلوں میں طالبان کے لئے نرم گوشہ رکھتے تھے اور یہ بھی بعید نہیں کہ ان میں کچھ لوگ طالبان کے لئے جاسوسی بھی کرتے ہوں جب کہ دوسری طرف فوج کا باقی حصہ اس علاقے کی زبان و رواج اور طور طریقوں سے بھی نااہل تھا۔ ان تمام وجوہات کی بناء پر کہا جاسکتا ہے کہ ہمارا لشکر انتہائی ناقص اور کمزور تھا لیکن اس کے باوجود فوج کے کمانڈر بری طرح غرور و تکبر کے نشے سے سرشار اور فوج کے گھمنڈ میں مبتلا تھے۔ چنانچہ ان کے ذہنوں میں یہی تھا کہ طالبان اس قدر مسلح اور بڑی تعداد پر مشتمل لشکر کا قطعاً سامنا نہ کر سکیں گے (چہ جائے کہ اس پر حملہ آور ہوں) یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اپنے بڑاؤ کے مقام پر کسی قسم کے کوئی حفاظتی اقدامات نہ کیے تھے حتیٰ کہ اپنے آس پاس بارودی سرنگیں بھی نہ بچھائیں۔ ان سب باتوں کے علاوہ ایک بڑا مسئلہ یہ بھی تھا کہ ہزاتی فوج کے بیشتر کمانڈر طالبان کے طریقہ جنگ سے بالکل ناواقف تھے اور اس سے بڑھ کر مزید بات یہ تھی کہ ہمارے اس لشکر کے پاس طالبان کی افواج کے بارے میں بھی کسی قسم کی کوئی اطلاع نہ تھی چنانچہ ہمیں کچھ معلوم نہ تھا کہ طالبان کے پاس کتنے افراد ہیں؟ اور کتنا اسلحہ؟

انہی حالات میں جب ایک تاریک رات میں اندھیرا ہر طرف چھایا ہوا تھا اور ہمارا لشکر خوابوں کے مزے لوٹ رہا تھا، طالبان اچانک اس پر حملہ آور ہو گئے اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ ہمارا خط اول

(فرنٹ لائن) توڑتے ہوئے ہماری صفوں کے بالکل مابین گھس آئے۔ انہوں نے اپنی جنگی حکمت عملی کے تحت رات کی تاریکی سے خوب فائدہ اٹھایا۔ چنانچہ جونہی ان کا سامنا ہمارے کسی فوجی سے ہوتا تو فوراً کہنے لگتے کہ ”ہم غفار اخوندزادہ کے ساتھی ہیں“ یا اسی طرح کسی اور کمانڈر کا حوالہ دیتے جو ہمارا حلیف ہوتا۔ انہوں نے اپنی شناخت چھپانے کیلئے اپنے لمبے لمبے کرتوں کے دامنوں کو بھی گرہ لگالی تھی۔ یوں طالبان نے صرف چند لمحوں میں ہم کو ایسا حواس باختہ کیا اور ہماری طاقت اس طرح توڑی کہ ہمارے لیے تو پختا، نینک یا دیگر بھاری اسلحہ کا استعمال ناممکن ہو کر رہ گیا اور پسپائی اختیار کرنے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہ رہا۔ صورتحال ایسی تھی کہ ہماری فضائیہ بھی رات کی تاریکی میں کارآمد نہ ثابت ہوئی اور اگر ثابت ہو سکتی تھی جب بھی ہم اسے استعمال کرنے کے قابل نہ رہے تھے۔ خلاصہ یہ کہ وہ مشکل ترین رات ہمارے لیے ایک طویل رات بن گئی جس کی صبح کے آثار دور دور تک ناپید تھے۔

اس رات کی بازی سراسر طالبان کے حق میں رہی تھی اور وہ رات کی تاریکی میں بڑھتے بڑھتے ہمارے لشکر کے بالکل ابتدائی حصے (خط منظرہ) تک پہنچ گئے تھے۔ چنانچہ ہمارے لشکر میں سے بہت کم افراد ہی ایسے تھے جن کا ان سے آسان سامنا نہ ہوا ہو۔ خود جنرل ہلالی نے مجھے بتایا کہ وہ اس معرکے میں دو مرتبہ طالبان کے ہاتھوں گرفتار ہوتے ہوئے بچ گیا۔

طالبان کی پیش قدمی کی حکمت عملی کچھ اس طرح کی تھی کہ انہوں نے آگے بڑھتے ہوئے دائیں بائیں کی ذرہ برابر فکر نہ کی اور تمام تر توجہ آگے بڑھنے پر رکھی۔ یہ طریق کار اگرچہ عسکری لحاظ سے خطرہ مول لینے کے سوا کچھ نہیں ہے لیکن بہر حال اس طرح مقابلے میں شکست خوردہ فوج پر بہت برا اثر پڑتا ہے اور وہ مرعوب ہو کر منتشر ہو جاتی ہے۔

ان تمام امور کے علاوہ طالبان نے ایک کامیابی یہ حاصل کی تھی کہ انہوں نے ہمارا ایک نہایت اہم فوجی راز یعنی نام شب معلوم کر لیا تھا اور پھر انہوں نے اس سے بھرپور طریقے سے فائدہ اٹھایا۔ جنگ کے اختتام پر ہمارے بیشتر ساتھیوں نے بتلایا کہ ان کے سامنے جونہی کوئی طالب آتا تو فوراً نام شب پکارتا اور کہتا کہ میں غفار اخوندزادہ کا ساتھی ہوں۔ اس صورتحال میں دوست و دشمن میں تمیز کرنا انتہائی مشکل ہو چکا تھا، کیونکہ زبان لباس اور علاقہ سبھی کچھ مشترک تھا۔ بہر حال یہ رات ہمارے لیے بہت خوفناک ثابت ہوئی جس میں ہمارے ایک ہزار سے زائد فوجی طالبان کے ہاتھوں گرفتار ہوئے اور ہمارے اسلحہ کا ایک بڑا ذخیرہ ان کے قبضہ میں چلا گیا۔ یوں ہمیں سخت ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا جب کہ


طالبان کو عظیم الشان فتح ملی جس نے ان کے عزم و حوصلے اور مورال کو مزید بلند کر دیا اور ان کی جرأت اس قدر بڑھ گئی کہ دن کی روشنی میں انہوں نے ہمارے کئی فوجیوں کو گرفتار کر لیا جو ایک گاڑی پر جنگی حدود کے قریب سفر کر رہے تھے۔

طالبان کے ساتھ جنگ کے ان نتائج نے ہمیں سخت افسردہ کر دیا۔ خاص طور پر جنرل علاء الدین خان صورتحال سے سخت شکست دل تھا اور وہ پوری کوشش کر رہا تھا کہ کسی طرح ہرات کی افواج کی طاقت دوبارہ بحال ہو سکے۔ مگر اتفاق کی بات کہ اسی دن عصر کے وقت جنرل علاء الدین کو سینے میں گولی لگی اور وہ ایسا زخمی ہو گیا کہ کسی کو اس کے نچنے کی امید نہ رہی۔

جنرل علاء الدین کے بعد جنرل ہلانی نے فوج کی قیادت سنبھالی اور ایک بہترین عسکری قائد ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے اس نے عقب نشینی اختیار کی اور پرانی فوجوں کو بیس کلومیٹر پیچھے لے گیا اور دریائے دل آرام کے کنارے پھیلا کر متعین کر دیا۔ لیکن اس اقدام کے باوجود چونکہ فوج شکست کی وجہ سے بد حال ہو رہی تھی لہذا ایسی فوج کو سنبھالنا کسی طرح بھی آسان کام نہ تھا۔ ایک طرف محاذ جنگ کی یہ صورتحال تھی اور دوسری جانب اسماعیل خان کے دفتر میں ہرات کی افواج کے کمانڈروں کا ایک ہنگامی اجلاس ہو رہا تھا۔ جس میں لڑائی کے احوال اور فوجوں کی نفسیات سے متعلق اہم صلاح مشورے ہو رہے تھے۔ اس اجلاس میں اسماعیل خان اور اس کے نائب عبدالخالق، جنرل افضلی، ڈاکٹر طاہر، جنرل مجید، غلام یحییٰ اکبری، بصیر غوریاتی، جنرل قتالی اور میں شامل تھے۔

اس اجلاس کے اختتام پر اسماعیل خان نے ٹیلیفون پر صدر برہان الدین ربانی سے کاہل بات کی اور ان سے درخواست کی کہ جس قدر جلد ممکن ہو سکے پانچ ہزار مسلح افراد پر مشتمل ایک فوج ہماری مدد کیلئے روانہ کریں، ورنہ عین ممکن ہے ہینڈ ڈاکا ائیر پورٹ بہت جلد ہمارے قبضے سے نکل جائے۔“





طالبان کے بعد

یہ بات بالکل صحیح ہے کہ کسی بھی نعمت کی صحیح قدر و قیمت اس کے چھن جانے کے بعد محسوس ہوتی ہے۔ طالبان جب برسرِ اقتدار تھے تو مغربی حلقے اور ان کے تمام پیروکار شب و روز انہیں وطن و تشبیح اور دشنام طرازی کا نشانہ بناتے تھے۔ انہیں طالبان کا طرز حکومت، ان کا مسلک و مشرب، ان کی پالیسیاں اور طریق کار بہت برا محسوس ہوتا تھا اور وہ مسلسل ان پر تنقید کرتے رہتے تھے، اور پھر ایسا ہوا کہ طالبان کی حکومت واقعی ختم ہو گئی۔ عین ان لوگوں کی مرضی اور خواہشات کے مطابق اب دنیا بھر کے عوام انتظار کر رہے تھے کہ دیکھئے کب افغانستان میں امن قائم ہوتا ہے، خوشحالی آتی ہے، آزادی فرد ملتی ہے، حقوق نسواں بحال ہوتے ہیں، دہشت کی فضاء کا خاتمہ ہوتا ہے، طوائف المملو کی دم توڑتی ہے اور افغان عوام عالمی برادری کے ”تعاون“ سے امریکہ اور اقوام متحدہ کی زیر سرپرستی ترقی کا نیا سفر شروع کرتے ہیں؟

یہ تمنائیں، امیدیں اور سوالات بلا جواز اور بے بنیاد نہیں تھے، اس لیے کہ ان سب باتوں کا وعدہ طالبان حکومت کا خاتمہ کرنے والوں نے بڑے زور و شور کے ساتھ کیا تھا۔ یہ اور بات ہے کہ آج یہ وعدہ کرنے والے خود حیران و سرگرداں ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ امن و سلامتی کی ان فاختاؤں کو جو ملا محمد عمر کے قہقار سے نکلنے دم فضاؤں میں گم ہو گئیں، کیونکہ دوبارہ بلایا جابا اور کیسے بلایا جائے؟

برطانیہ میں قائم عالمی نشریاتی ادارہ بی بی سی کسی بھی دور میں طالبان کا حامی نہیں رہا، اس نے ہمیشہ طالبان پر تنقید کی اور انہیں اپنی مخالفت کا ہدف بنایا۔ افغانستان پر امریکی حملوں کے بعد دو سال مکمل

ہونے پر ۷/ اکتوبر ۲۰۰۳ء کو اس ادارے نے طالبان کے بعد کے افغانستان پر ”اور جنگ جیتو گے؟“

کے عنوان سے ایک خصوصی تجزیہ پیش کیا، ہم وہ تجزیہ یہاں درج کر رہے ہیں:

”آج کے امریکی اخبارات میں ایک خبر ڈھونڈنے سے نہیں ملتی۔ ہر

برس سا سسر، نرسوں سیکرٹریوں اور پالتو جانوروں تک کے خصوصی دن منانے

والا ملک اور اس پر ہفتوں پہلے سے واویلا کرنے والا میڈیا یہ بھول گیا کہ سات

اکتوبر افغانستان پر امریکی حملے کا دن ہے۔ دو برس پہلے اسی دن دنیا کے غریب

اور پسماندہ ترین ملک کی بے دست و پا طالبان فوج اور بندوتوں، کلہاڑیوں اور

تکواروں سے مسلح ان کے پاکستانی حامیوں کی سرکوبی کیلئے امریکہ نے بی باون

طیارے بھیجے جو ازمنہ قدیم کے ان جنگجوؤں کی پہنچ سے بہت دور رہتے ہوئے

ان پر اتنے وزنی اور خطرناک بم گراتے رہے جنہوں نے پہاڑوں کا بھی سرمہ

بنادیا، اور ایسے خوبصورت رنگوں والے کلستر بم جو اس وقت نہ پھٹے تو اب دو

سال بعد تک پہاڑوں اور میدانوں میں بچوں کو لالچ دلا کر ان کی جانیں لے

رہے ہیں۔ امریکی عوام امن پسند لوگ ہیں، جنگ شروع کرنے کے بارے

میں ان کے کوئی طے شدہ نظریات نہیں ہیں لیکن جب لڑائی شروع ہو جائے تو وہ

دو چیزوں کا مطالبہ کرتے ہیں: ایک یہ کہ جنگ جلد از جلد ختم ہو جائے اور دوسرا

اس میں جیت ان کی ہو۔ لہذا اس بات سے بے خبر، یا اس کے باوجود کہ یہ ہاتھی

کا چوٹی سے مقابلہ تھا، امریکیوں نے اس فٹافٹ جیت کو اپنی فتوحات کے سلسلے

میں ایک اور اضافہ اور اس بات کا ثبوت دیا کہ خداوند خدا ان سے خوش ہے۔ تو

اس فتح کا جشن ہر سال کیوں نہیں منایا جاتا؟ یا کم از کم اس دن اپنے کارناموں

کی یاد کیوں نہیں تازہ کی جاتی؟ اپنے شہیدوں کی بہادری کا ذکر کیوں نہیں کیا

جاتا؟ شاید اس لیے کہ بیشتر امریکی شہید (اور تقریباً سبھی کینیڈین شہید) امریکی

فوجیوں ہی کے ہاتھوں مارے گئے تھے۔ شاید اس لیے بھی کہ جنگ کی بات

کرنے سے اس کے ایک بڑے مقصد کا ذکر بھی آسکتا ہے جو صدر بش کے الفاظ

میں اسامہ بن لادن اور ملا عمر کی گرفتاری تھا اور اس میں ناکامی کے ذرے سے

امریکہ میں کسی کو خوشی نہیں ہوگی اور رہے وہ فوجی جنہوں نے براہ راست ٹنوں و زنی بم پھینکے تو انہیں اس بات کا پورا یقین تھا کہ نیچے سے کوئی توپ انہیں نشانہ بنانے کیلئے موجود ہے نہ ہی ہوا میں کوئی طیارہ۔ تو کہاں کی بہادری، کون سے کارنامے! اس جنگ کے واقعات تو امریکی پائلٹ اپنے بچوں کو سنانے سے بھی شرمائیں گے۔ رہے امریکی عوام تو انہیں یہ سب جاننے کی خواہش بھی نہیں۔ انہوں نے اپنی فتح پر خوشی منائی اور مزید خوشیوں کی تلاش میں آگے نکل گئے، لیکن افغانستان وہیں کھڑا ہے۔ وہی بھوک، وہی افلاس، وہی بد حالی، وہی بد امنی، نا انصافی اور ظلم جس نے سن چورانوے کے آس پاس طالبان تحریک کو جنم دیا تھا۔ انسانی ہمدردی کا کام کرنے والی تنظیموں نے ایک سے زیادہ رپورٹوں میں دعویٰ کیا ہے کہ آج امریکہ کے زیر تسلط افغانستان میں عورتوں، لڑکیوں اور لڑکوں کی عصمت دری طالبان کے دور کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہے، پوسٹ کی کاشت ایک بار پھر بڑھ گئی ہے۔ ایک بار پھر وہاں کی عوام نہ چاہتے ہوئے ایسی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں جہاں نہ ان کے سر پر چھت ہے نہ کھانے کو روٹی، جہاں دکانوں میں مجبوری بکتی ہے اور کھیتوں میں بارودی سرنگیں اگتی ہیں۔ طالبان نے اپنے دور حکومت میں حقوق انسانی کو اکثر پامال کیا تھا، وہ عورتوں کی تعلیم ہو، گناہگار کو سزا دینے کا معاملہ یا بدھا کے مجسمے کا تفسیر۔ وہ آج کی دنیا کو صدیوں پرانے طریقے سے چلانا چاہتے تھے، اس لیے ان کی ناکامی پر پوری دنیا نے اطمینان کا سانس لیا۔ اب اس دنیا کو یہ بھی جاننا پڑے گا کہ ان جنگیوں نے لوگوں کی جان و مال اور عزت کی رکھوالی بھی کی تھی۔ اور یہ بھی کہ امریکی ڈالر سے خریدے گئے افغان جنگجو سردار کل بھی قاتل اور لٹیرے تھے اور آج وزیر دفاع اور صوبائی گورنر بن کر بھی وہی ہیں۔ فرق ہے تو صرف اتنا کہ امریکی سیکشن افسروں کی اشیر باد سے بننے والے یہ الہکار آج گلی سے کسی بھی عورت مرد یا بچے کو تاوان اور ہوس کیلئے اٹھا لے جاسکتے ہیں، یہ جانتے ہوئے کہ ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوگی۔ افغان عورتوں کی تنظیم

”روا“ جس نے طالبان کے دور میں عورتوں کو دبائے جانے کی ہر کوشش کا بہادری سے مقابلہ کیا تھا، اب خوفزدہ ہے۔ تنظیم کی ایک اہلکار کا کہنا ہے کہ طالبان تو صرف خواتین کو گھر سے باہر نکلنے پر سختی کرتے تھے لیکن اب تو عورتوں کو اپنی جان اور صحت گھر کی چار دیواری میں بھی خطرے میں نظر آتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جنگجو سرداروں نے فٹنڈے پال رکھے ہیں جو کسی کو بھی اٹھالے جاتے ہیں اور جب تک تاوان ادا نہیں ہوتا اس سے جبری مشقت لیتے ہیں۔ ”قانع“ فوج آج بھی افغانستان میں ہے۔ ساڑھے گیارہ ہزار فوجی اور ہزاروں ٹن اسلحہ، لیکن یہ فوجی اپنا دفاع کریں یا ان کمزوروں کا؟ جدید ترین ہتھیاروں اور حفاظتی آلات سے ایسے فوجی دارالحکومت کابل کے اندر ہی دبک کر رہنے میں عافیت جانتے ہیں۔ کابل میں نئی عمارتیں بن رہی ہیں، شراب خانے کھل چکے ہیں، انواع و اقسام کے کھانے باآسانی دستیاب ہیں اور فوجیوں کی بیویوں کیلئے شاپنگ کے ہزاروں مواقع بھی ہیں۔ لیکن کابل سے باہر کی دنیا آج بھی ان سوراخوں کیلئے خوف سے بھرپور ہے۔ اور یہ خوف کچھ ایسا بلا جواز بھی نہیں۔ اگر تاریخ کا کام صرف خود کو دہرائتا ہی ہے تو افغانستان کے دور دراز علاقوں میں ظلم و زیادتی اور بوجھ کی اور اتنی زیادہ ہو جائے گی کہ ایک اور ملامت جنم لے گا، جو طالبان جیسی ایک اور ملیشیا بنائے گا اور ایک اور جہاد شروع ہوگا، ظالم سرداروں کے خلاف اور پھر ان کے امریکی سرپرستوں کے خلاف۔ کیا امریکہ وہ جنگ بھی جیتنا چاہے گا؟“

۲۲ فروری ۲۰۰۵ء کو اقوام متحدہ نے افغانستان کی تازہ صورتحال کے حوالے سے ایک رپورٹ

جاری کی۔ اس رپورٹ میں کہا گیا کہ:

”طالبان حکومت کو گرائے جانے کے تین سال بعد بھی افغانستان ایک غریب ملک ہے جو عالمی امن کیلئے خطرہ بن سکتا ہے۔ تین سال بعد بھی ملک میں بے روزگاری، صحت اور تعلیم کے مسائل موجود ہیں۔ اگر ان حالات میں بہتری پیدا نہ ہوئی تو افغانستان ایک بار پھر بد امنی کا شکار ہو سکتا ہے۔ دنیا میں

افغانستان سے زیادہ غریب صرف تین افریقی ملک ہیں۔ افغانستان انسانی ترقی کے چارٹ پر دنیا کے ایک سو اٹھہتر ملکوں میں سے ایک سو تہتر ویں نمبر پر ہے۔ رپورٹ کے مطابق افغانستان میں ہر پانچ سال کی عمر سے پہلے ہی فوت ہو جاتا ہے اور عام زندہ رہنے کی اوسط شرح چھالیس سال ہے۔ افغانستان میں بد امنی اور غربت سے سب سے زیادہ متاثر عورتیں ہوئی ہیں اور ہر آدمی کھنے میں ایک افغانی عورت زچگی کی پیچیدگیوں کا نشانہ بن جاتی ہے۔ افغانستان میں دنیا کا بدترین تعلیمی نظام ہے اور ملک میں بالغ شرح تعلیم صرف اٹھائیس اعشاریہ سات فیصد ہے۔ منشیات کا کاروبار آج بھی افغانستان کی معیشت کا اہم ستون ہے اور وہ آج دنیا کو منشیات مہیا کرنے والے ملکوں کی فہرست میں سب سے اوپر ہے۔ طالبان کو حکومت سے نکالے جانے کے باوجود جسانی تشدد آج بھی جاری ہے۔ اگر افغانستان کے حالات نہ بدلے تو وہ پھر ایک غیر محفوظ سلطنت بن جائے گی جہاں نہ صرف اس کے اپنے شہری غیر محفوظ ہوں گے بلکہ وہ دنیا کے لئے بھی خطرہ بن جائے گا۔“

افغانستان پر امریکی قبضے کے بائیس ماہ بعد ایک یورپی صحافی لنڈا ایس ہرڈ نے افغانستان کا دورہ کیا اور وہاں کی صورتحال پر ایک زبردست تجزیہ پیش کیا، جس سے طالبان کے بعد افغانستان کی حقیقی تصویر سامنے آتی ہے۔ ہم لنڈا ایس ہرڈ کا یہ تجزیہ قارئین کے سامنے پیش کر رہے ہیں:

”امریکہ نے دہشت گردی کے خلاف جنگ کی آڑ میں افغانستان پر جنگ مسلط کی تو ہزاروں افراد جنگ کی سمینٹ چڑھ گئے۔ امریکی و برطانوی میڈیا نے اس جنگ کو انسانیت کی بقاء کی جنگ قرار دینے کیلئے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا اور اس کے لیے ہر قسم کا حربہ استعمال کیا گیا، خصوصاً افغانی خواتین کے استحصال کے المیٹھو کا خاص طور پر ہوادی گئی تاکہ عوام کے جذبات کو زیادہ سے زیادہ اپنے حق میں کیا جاسکے۔ طالبان دور کے بارے میں یوں تاثر دیا گیا جیسے وہاں پر خواتین کو زنجیریں پہنا کر گھروں میں بند کر دیا گیا تھا۔ جنگ کے خاتمے پر افغانستان کی تعمیر نو اور افغانی خواتین کے حقوق کی بحالی کے بارے میں بڑی

تقریریں کی گئیں۔ اس سلسلے میں پوری دنیا کو پھر میڈیا کے ذریعے گمراہ کیا گیا۔ یوں تاثر دیا گیا گویا کہ افغانستان میں مثالی امن قائم ہو گیا ہے، خواتین کو تمام حقوق حاصل ہو گئے ہیں اور افغان عوام خوش ہیں۔ ۱۷ نومبر ۲۰۰۱ء کو امریکی صدر بش کی اہلیہ لارا بش نے ریڈیو پر تقریر کی جس میں اس نے کہا کہ افغانستان پر امریکی قبضے سے افغانی خواتین کی ترقی کا نیا دور شروع ہوا ہے انہیں ہر قسم کی مکمل آزادی حاصل ہے۔ تعلیم حاصل کر سکتی ہیں، میوزک سن سکتی ہیں۔ لارا بش نے اس جنگ کو خواتین کے حقوق کی بحالی کی جنگ قرار دیا۔ اس سے صرف دو دن کے بعد چیری بلیمز نے بھی اسی قسم کا بیان داغ دیا اور ایک تقریب میں اس بات کا اعلان کیا کہ افغانستان پر امریکی قبضے سے افغانی خواتین کو مکمل حقوق حاصل ہو گئے ہیں۔ ہیومن رائٹس کے ہیڈ کوارٹری نے بیان جاری کیا کہ طالبان دور میں خواتین نیل پالش تک نہیں لگا سکتی تھیں کیونکہ طالبان ناخن اکھاڑ دیتے تھے مگر اب ایسی کوئی پابندی نہیں ہے، اب خواتین آزادی سے میک اپ کر سکتی ہیں۔ اسی طرح ٹونی بلیمز نے ایک جذباتی بیان دیا کہ افغانستان کے خلاف جنگ کا مقصد دہشت گردی کا خاتمہ اور خواتین کو طالبان کے پنجے سے نجات دلانا تھا، افغانستان کی خواتین ہماری ماؤں، بہنوں کی طرح ہیں، انہیں ان کا حق ملنا چاہئے، انہیں پڑھنے لکھنے اور کمروں سے باہر نکلنے کا حق ملنا چاہئے، خاص طور پر اگر کوئی خاتون اپنے حق پر ڈا کہ ڈالنے کے خلاف آواز اٹھانا چاہتی ہے تو اسے اس کا موقع ضرور ملنا چاہئے۔ یہ سب بیانات اس وقت کے ہیں جب افغانستان کی جنگ ابھی ختم ہوئی تھی۔ اس قسم کے بیانات کا مقصد صرف اور صرف افغانستان میں ہونے والی ہلاکتوں پر عالمی برادری کے جذبات کو شہنشاہ کرنے کے سوا کچھ ثابت نہ ہوا۔ جنگ کو ختم ہونے ۲۲ ماہ گزر چکے ہیں مگر اب اس قسم کی باتیں کرنے والی لارا اور چیری یہ سمجھ رہی ہیں کہ افغان خواتین کے بارے میں میں میں بیانات جاری کرنے سے ان کے مسائل حل ہو گئے ہیں اور افغانستان میں امریکی حکومت کے ڈیر کنٹرول افغان خواتین کو تمام حقوق حاصل

ہو گئے ہیں، مگر صورتحال اس کے برعکس ہے۔ جب ایک امریکی فلم اٹار اور مصنف نے افغانستان کا دورہ کیا اور دورے کے دوران افغانستان میں خواتین کے حقوق کیلئے کام کرنے والی تنظیم ”روا“ کی ایک اہم ممبر سے ملاقات کی تو اس نے بتایا کہ خواتین کیلئے اب حالات زیادہ خراب ہو گئے ہیں طالبان کے دور میں خواتین پر پابندیاں ضرور تھیں مگر ان کی عزتیں محفوظ تھیں اب ہمیں نام نہاد آزادی ضرور حاصل ہوئی ہے مگر خواتین پر حملے معمول بن گئے ہیں جس کی وجہ سے خواتین گھروں سے کم ہی نکلتی ہیں اور خواتین بدستور برقعہ استعمال کر رہی ہیں کیونکہ اب تو خواتین کو اپنی حفاظت کیلئے برقعہ اوڑھنا اور زیادہ ضروری ہو گیا ہے۔ افغانستان میں طبی سہولتوں کا جائزہ لیا جائے تو انتہائی مایوس کن صورتحال کا سامنا کرنا پڑتا ہے، خاص طور پر خواتین اور بچوں کا حال بہت ہی خراب ہے لاکھوں افغان خواتین اور بچے ناقص اور کم خوراک ملنے کی وجہ سے مختلف بیماریوں کا شکار ہیں، بچوں میں اموات کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ ہر چار افغان بچوں میں سے ایک بچہ اپنی پانچویں سالگرہ منانے سے قبل ہی دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ افغانستان پر امریکی قبضے کو تقریباً ۲۰ سال ہو چکے ہیں۔ مگر تمام تر امریکی دعوؤں کے باوجود امن قائم نہیں ہو سکا، ہر وقت جنگ کا خطرہ رہتا ہے اور پھر جس طرح ہر معاشرے میں جرائم پیشہ عناصر متحرک ہو جاتے ہیں افغان سوسائٹی میں بھی ایسی ہی صورتحال ہے بلکہ صورت حال انتہائی تشویشناک ہے کیونکہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ ہیومن رائٹس واچ کی ایک رپورٹ کے مطابق خواتین اور لڑکیوں پر حملے دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں اور ان کا گھروں سے نکلنا مشکل ہو گیا ہے۔ ایسی صورت میں خواتین کیسے روز مرہ کی زندگی میں حصہ لے سکتی ہیں اور خواتین کا سیاسی مستقبل تو انتہائی مخدوش ہے امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے ذریعے طاقت میں آنے والے جنگجو گروپوں نے انسانی حقوق کی کھلے عام خلاف ورزیاں شروع کر دی ہیں۔

”تمہیں قتل کرنا ہمارے لئے بہت آسان ہے“ کے عنوان سے چھپنے والی

رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ کیسے پولیس اور فوج کے جوان عام شہریوں کو بلاوجہ پکڑ کر جیل میں بند کر دیتے ہیں اور کئی کئی روز پوچھتے تک نہیں کہ آخراً نہیں کیوں قید کیا گیا ہے؟ کوئی ملنے آئے تو اسے ملنے نہیں دیتے۔ حوالات عقوبت خانے بن گئے ہیں۔ طاقتور سردار گھروں میں داخل ہو کر زبردستی سامان اٹھا لیتے ہیں اور اس قسم کی کارروائیوں کے دوران اکثر خواتین کی عزت لوٹ لی جاتی ہے۔ طالبان کے دور حکومت کے خاتمے کے ساتھ ہی فرقہ واریت کو کافی ہوا ملی ہے، خاص طور پر شیعہ سنی فساد خطرناک صورتحال اختیار کرتا جا رہا ہے اور بعض مقامات پر تصادم بھی ہوا جس سے درجنوں افراد ہلاک ہو گئے۔ اصل میں افغانستان میں ابھی تک اسلحہ کے پھیلاؤ کو کنٹرول نہیں کیا جا سکا جس کی وجہ سے معمولی جھگڑا بھی جنگ کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ امن و امان کی خراب صورتحال کی وجہ سے لڑکیاں ابھی تک اسکولوں کا رخ نہیں کر سکیں۔ اسکولوں کا رخ کریں بھی کیسے جب کسی کی عزت محفوظ نہیں ہے تو ظاہر ہے ڈر کے مارے گھر سے نکلا نہیں جا سکتا اسکول کھلے ہیں مگر پڑھنے والا کوئی نہیں ہے۔ نیویارک کی ایک فلاحی تنظیم ”دین فار افغان دین“ نے اعلان کیا کہ امریکہ اور اس کے اتحادی افغان خواتین کے حق میں کئے گئے وعدوں کو پورا کرنے میں ناکام رہے ہیں۔ تشدد کے واقعات میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے اور طالبان کا دور حکومت امن کا گہوارہ معلوم ہونے لگا ہے۔ خاص طور پر جنوبی افغانستان میں اس وقت تشدد کے زیادہ واقعات پیش آ رہے ہیں۔ افغان گروپوں کا کہنا ہے کہ امریکی صدر کی طرف سے افغانستان اور عراق کیلئے ملنے والی امداد کا صرف ایک فیصد افغان عوام پر خرچ کیا جائے گا اور باقی کی رقم حکمرانوں کی عیاشیوں کی نذر ہو جائے گی اور افغان صدر حامد کرزی کو ایک دفعہ پھر واشنگٹن کے سامنے کھنگول پھیلا پڑے گا تاکہ اسے امداد کے نام پر مزید بھیک مل سکے۔ افغانستان کے حکمران تو بڑے بڑے مخلوں میں رہتے ہیں جبکہ ان کے عوام کے رہنے کیلئے جھونپڑا ابھی میسر نہیں ہے، مگر طالبان نے خود جھونپڑوں اور کچے مکانوں میں رہ

کراچی عوام کو امن و امان، عزت، وقار اور سکون عطا کیا تھا۔“

☆.....☆.....☆.....

طالبان کے جانے اور امریکہ کے آنے کے بعد افغان خواتین پر جنسی تشدد کے تشویشناک واقعات بھی سامنے آئے ہیں اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ ایسے واقعات وہاں متعین امریکی افواج کی کوکھ سے جنم لے رہے ہیں۔ ایسے واقعات پر مشتمل کراچی کے ایک موثر اخبار روز نامہ امت نے ایک تحقیقی رپورٹ شائع کی۔ اس رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ امریکی فوجی افغانستان کے مختلف علاقوں کے رہائشی مقامات، اسکولوں اور اسپتالوں سے خوب روڈ شیزاؤں کو طالبان اور القاعدہ کیلئے جاسوسی کے الزام میں گرفتار کر کے بگرام اور دیگر علاقوں میں قائم امریکی فوجی اڈوں کے قید خانوں میں بند کر دیتے ہیں۔ ان طالبات کی عمریں بارہ سے سترہ سال اور سترہ سے تیس سال کے درمیان ہوتی ہیں۔ گرفتاری کے بعد جنسی تشدد کا نشانہ بنا کر ان کی فلمیں بنائی جاتی ہیں جنہیں امریکی افسران اپنے ملک لے جا کر فحاشی پھیلانے والی کمپنیوں کو سستے داموں فروخت کر دیتے ہیں، بعد ازاں یہ فلمیں دنیا بھر میں سپلائی کی جاتی ہیں۔ انسانی حقوق کے عالمی ادارے ہیومن رائٹس واچ نے ایک سال قبل امریکی افواج کے ان جرائم کی نشاندہی کر کے افغان حکومت سے اس کے خلاف ایکشن لینے کی درخواست کی تاہم افغان حکومت نے خاموشی اختیار کی۔ رپورٹ کے مطابق امریکی افسران نے القاعدہ اور طالبان کے خطرے کا بہانہ بنا کر شمالی افغانستان کے صوبہ قندوز، فاریاب، سمنگان، بغلان، بلخ، شبرغان، جوزجان اور بامیان میں آپریشنل ہیڈ کوارٹرز کے نام سے اڈے بنوائے تاہم آج کل یہ تمام اڈے جنسی اذیت رسانی اور تجرہ گری کے سب سے بڑے مراکز میں تبدیل ہو گئے ہیں۔ شمالی افغانستان میں القاعدہ کا کوئی وجود ہی نہیں تاہم امریکی فوجی افسران نے اپنی جنسی تسکین کیلئے وہاں بھی کروڑوں ڈالر کے فوجی ہیڈ کوارٹرز تعمیر کرائے۔ ذرائع کے مطابق امریکی فوجی افسران نے ملک کے متعدد علاقوں میں اپنی جنسی ہوس رانی کے لئے معصوم دیہاتی خواتین اور بچوں کی اغوا کاری کا سلسلہ بھی شروع کر دیا ہے۔ امریکی افسران کو جنوبی اور جنوب مغربی افغانستان میں کامیابی حاصل نہیں ہوئی تاہم مرکزی اور شمالی افغانستان میں انہوں نے متعدد مقامی کمانڈروں کو خواتین اور بچوں کی اغوا کاری کیلئے بھرتی کرایا ہے۔ کئی میں اس مقصد کیلئے امریکی فوجیوں نے کمانڈر حضرت علی کے کزن کمانڈر موسیٰ کو بھرتی کیا ہوا ہے جبکہ ہمسایہ صوبہ نغمان میں کمانڈر عصمت اللہ کو اس مقصد کیلئے استعمال کیا جاتا رہا ہے۔ ہیومن رائٹس واچ کے مطابق متعدد

خواتین نے ان کے اہلکاروں کے سامنے بیان دیتے ہوئے اعتراف کیا کہ کمانڈر عصمت کی نفی نے انہیں گرفتار کر کے غیر ملکیوں کی خدمت میں پیش کر دیا تھا۔ کمانڈر موسیٰ اور اس کے بیٹے نے جلال آباد میں امریکیوں کیلئے پر تعیش مکانات بھی تعمیر کرا دیئے ہیں، صوبہ غزنی کے اضلاع شہرستان، مالستان اور جغتو میں بھی امریکی فوجی کیمپ بنائے گئے ہیں جہاں ہزارہ کمانڈر اعتمادی، حسینی، فرہادی وغیرہ امریکی افواج کیلئے ہزارہ خواتین اور بچے اغوا کر کے بہم پہنچاتے ہیں۔

ایک اور رپورٹ کے مطابق صوبہ زابل میں ایک مقامی باشندے نے ایک دن اپنی اہلیہ کو علاج کی غرض سے طبی مرکز پہنچایا۔ مرکز پہنچنے کے فوراً بعد خاتون کو اندر لے جایا گیا اور اسکے شوہر کو گھر بھیج دیا گیا کئی گھنٹے بعد جب خاتون اپنے گھر واپس آئی تو اس نے روتے ہوئے اپنے خاوند کو طبی مرکز میں خود پر بیٹے گئے پورے واقعے کی روداد سنائی اور کہا کہ امریکی فوجیوں نے اسے اجتماعی طور پر ہوس کا نشانہ بنایا جبکہ واپسی پر اسے پندرہ سو ڈالر کی رقم بھی دی گئی۔ شوہر نے یہ سن کر پہلے اپنی بیوی کو موقع پر ہلاک کر دیا جبکہ کئی دیگر رشتہ داروں کو جرح کر کے طبی مرکز پر حملہ کر کے دس امریکیوں کو ہلاک کر دیا۔ بعد میں امریکی طیاروں نے بمباری کر کے انہیں بھی شہید کر دیا۔


امریکیوں کی آمد کے بعد یہاں جگہ جگہ قبضہ خانے بھی قائم ہو گئے ہیں، جہاں عورتوں کی جسم فروشی کا گھناؤنا کاروبار ہوتا ہے۔ صرف افغان دارالحکومت میں اس وقت ستر سے زائد لائسنس یافتہ قبضہ خانوں کے مالکان اپنے اڈوں میں موجود بدکردار عورتوں کی ایک فہرست افغان وزارت صحت کے ایڈز کنٹرول ڈپارٹمنٹ اور اقوام متحدہ کے ذیلی ادارے WHO کو فراہم کرنے کے پابند ہیں جبکہ اقوام متحدہ کے حکام بدکردار عورتوں کا معائنہ کر کے انہیں ایڈز سے پاک قرار دیتے ہیں۔ چنانچہ کابل کے بیشتر قبضہ خانوں پر WHO کے لوگوں کے حامل بورڈ صاف نظر آتے ہیں جن پر لکھا ہوتا ہے کہ اس قبضہ خانے میں مصروف عمل تمام بدکردار عورتیں ایڈز کے وائرس سے پاک ہیں۔ افغانستان کے مختلف شہروں میں لائسنس یافتہ قبضہ خانوں کی تعداد درج ذیل ہے۔ کابل ۷۸، ہرات ۲۶، مزار شریف ۱۰۵، شبرغان ۷، قندوز ۴، بدخشاں ۷، قندھار ۲۴، خوست ۲، گردیز ۱، جلال آباد ۷، غزنی ۳۔

امریکیوں کے ہاتھوں افغان خواتین کی بے حرمتی کا ایک المناک واقعہ شمالی صوبہ تخار سے آنے والے ایک افغان باشندے معراج الدین نے بیان کیا۔ معراج الدین بتاتا ہے:

”صبح کے کوئی آٹھ بجے تھے کہ ہماری گاڑی صوبہ بغلان کے ضلع نہرین

کی حدود میں داخل ہو گئی، ہم شمال مشرقی صوبہ تخار سے کابل جانے کی نیت سے نکلے تھے۔ کابل جانے کا راستہ صوبہ بغلان کے ضلع نہرین سے ہو کر نکلتا ہے۔ نہرین کا علاقہ چونکہ طالبان کے حامی پختونوں کا گڑھ سمجھا جاتا ہے لہذا امریکی فوج نے ان کی بغاوت کچلنے کیلئے کابل تخار شاہراہ پر جگہ جگہ اپنے فوجی اڈے قائم کر دیئے ہیں۔ ابھی ہم نہرین بازار سے کافی فاصلے پر تھے کہ پانچ خواتین نے سڑک کے بیچ میں پہنچ کر ہماری گاڑی روکنے کی کوشش کی۔ مسافر اور ڈرائیور یہ صورتحال دیکھ کر حیران بھی ہوئے اور پریشان بھی، اچانک پانچ خواتین کا بیچ سڑک میں آنا حیران کن تو تھا ہی، ڈرائیور نے خوف کے مارے گاڑی بھگانے کی کوشش کی مگر مسافروں کی اپیل پر وہ گاڑی روکنے پر راضی ہو گیا۔ گاڑی روکنے کے بعد ابھی ڈرائیور کچھ بولنے کیلئے منہ کھول ہی رہا تھا کہ ایک ژولیدہ اور بکھرے بالوں والی خاتون نے اٹھ کر بڑی تکلیف کے ساتھ خود کو گاڑی تک پہنچایا۔ خاتون کے زرد چہرے سے نقاہت اور ایک قسم کا کرب ٹپک رہا تھا۔ اس نے بڑی تکلیف سے خود کو سنبھالا دے کر گاڑی میں بیٹھے مسافروں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ کیا تم میں کوئی غیرت مند، مرد افغان موجود ہے؟ خاتون کے اس سوال پر تمام مسافر دل ہی دل میں ماجرا سمجھ گئے، مگر خاتون نے وقفہ کئے بغیر اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا کہ تمہیں شرم سے ڈوب مرنا چاہئے کہ تمہاری بہنوں اور ماؤں کی عزتیں یوں سر بازار لوٹی جا رہی ہیں اور تم کاندھوں پر سر رکھ کر چلتے جا رہے ہو، اس نے بتایا کہ پرسوں رات ہم تخار سے کابل جا رہے تھے کہ نہرین میں واقع امریکی فوجی اڈے کے سامنے امریکیوں نے ہمارے گاڑی روک لی، انہوں نے ہمارے مردوں کو نیچے اتار کر انہیں بھاری تھیلیاں پہنائیں اور جیل میں ڈال دیا جبکہ ہم پانچوں کو اڈے میں منتقل کر کے مسلسل اجتماعی جنسی تشدد کا نشانہ بنایا۔ ستم بالائے ستم یہ کہ امریکیوں نے تشدد سے قبل خود بھی شہوت برا بیخیز کرنے والی دوائیوں کا استعمال کیا جبکہ ہمیں بھی زبردستی دوائیاں دی گئیں، ان دوائیوں کے استعمال سے امریکی فوجیوں

سے انسانیت یکسر رخصت ہوگئی اور وہ بالکل درندے اور وحشی جانوروں کی شکل میں سامنے آ گئے۔ تیس سے زائد امریکی فوجیوں نے ہمیں مسلسل دو راتوں تک تشدد کا نشانہ بنایا۔ اپنی ہوس کی تکمیل اور ہماری بے ہوشی کے بعد انہوں نے آج صبح سویرے ہمیں گاڑیوں میں لا کر ادھر سڑک کے کنارے پھینک دیا جبکہ ہمارے مردوں کا اب تک کچھ پتہ نہیں چلا۔ خاتون بولے جارہی تھی اور آنسوؤں کا ایک سیلاب بڑی تیزی سے اس کی آنکھوں سے اٹھا چلا آ رہا تھا۔ اس کی یہ غمگین سرگزشت سن کر ہمارے سر شرم سے جھک گئے مگر ہم کیا کر سکتے تھے؟ ہم نے تو بس یہی کیا کہ خاتون کو گاڑی میں بٹھا کر کابل پہنچا دیا.....“



پوست کی لعنت کے خاتمے کیلئے طالبان کی کامیاب پالیسیوں کا ایک جائزہ آپ گذشتہ صفحات میں ملاحظہ کر چکے ہیں۔ یہاں ہم چند رپورٹیں اور تجزیے پیش کر رہے ہیں، جن میں طالبان کے بعد افغانستان میں پوست کی کاشتکاری میں زبردست اضافے پر اقوام متحدہ، مختلف حکومتوں اور عالمی میڈیا کی طرف سے تشویش کا اظہار کیا گیا ہے۔

قندھار سے طالبان کے انخلاء کے آٹھ ماہ بعد ۱۹/ اگست ۲۰۰۲ء کو کرنزی حکومت کے زیر انتظام کابل میں افغانستان کا ۸۳واں یوم آزادی منایا گیا۔ اس موقع پر قوم سے خطاب کرتے ہوئے صدر حامد کرنزی نے دعویٰ کیا کہ طالبان حکومت کے خاتمے بعد افغانستان نے بہت ترقی کی ہے، تاہم اسی روز اقوام متحدہ کے ماتحت منشیات کی روک تھام کے ادارے نے اعلان کیا کہ افغانستان کی نئی حکومت ملک میں پوست کی کاشت کو ختم کرنے کی کوششوں میں ناکام رہی ہے۔

اقوام متحدہ کے ایک ترجمان، ہیکٹر ملیبا کا کہنا تھا کہ حکومت افغانستان نے اپریل میں اس سلسلے میں جو ہم شروع کی تھی اس کے اثرات نہایت محدود رہے ہیں۔ اقوام متحدہ نے کہا کہ پوست کی پیداوار اب لگ بھگ ۹۰ کے عشرے کے اواخر کی سطح پر ہے، جبکہ طالبان نے پوست کی کاشت مکمل طور پر ممنوع قرار دے دی تھی۔ ہیکٹر ملیبا نے انکشاف کیا کہ اس صورتحال میں افغانستان میں خوراک کی رسد بھی متاثر ہوئی، کیونکہ پوست کی کاشت کی وجہ سے گیہوں کی کاشت ۱۰ فی صد کم رقبے پر ہوئی ہے۔

طالبان حکومت کے خاتمے کے تقریباً گیارہ ماہ بعد ۲۶/اکتوبر ۲۰۰۲ء کو بی بی سی اردو ڈاٹ کام نے ”افغانستان: پوسٹ کی پیداوار میں اضافہ“ کے عنوان سے اقوام متحدہ کی مندرجہ ذیل رپورٹ جاری کی:

”اقوام متحدہ نے افغانستان میں افیون کی پیداوار سے متعلق سروے رپورٹ میں تصدیق کی ہے کہ ملک میں پوسٹ کی پیداوار میں انتہائی اضافہ ہو گیا ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ۲۰۰۰ء میں ایک اندازے کے مطابق تین ہزار چار سو میٹرک ٹن پوسٹ کاشت کی گئی ہے جو کہ گزشتہ برس ایک سو پچاسی ٹن کے مقابلے میں اٹھارہ گنا زیادہ ہے۔ طالبان نے گزشتہ برس اپنے دور حکومت میں پوسٹ کی کاشت پر پابندی عائد کر دی تھی۔ منشیات اور جرائم پر قابو پانے سے متعلق اقوام متحدہ کے ادارے جس نے حالیہ رپورٹ جاری کی ہے، الزام لگایا ہے کہ ملک کے پسماندہ کسانوں نے طالبان حکومت کے خاتمے سے پیدا ہونے والے خلا کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پوسٹ کی پیداوار میں دوبارہ اضافہ کر دیا ہے۔ افغانستان میں افیون کی پیداوار میں حالیہ اضافہ برطانیہ اور منشیات پر قابو پانے سے متعلق اقوام متحدہ کے ادارے کے لئے ایک بڑی خبر ہے کیونکہ دونوں افغانستان میں افیون کے خاتمے کیلئے بین الاقوامی تعاون حاصل کرنے میں مصروف رہے ہیں۔ تاہم اقوام متحدہ نے جو اعداد و شمار اس سال کے شروع میں جاری کیے تھے ان کے مقابلے میں حالیہ رپورٹ میں شائع کیے گئے اعداد و شمار کے مطابق افیون کی پیداوار میں کہیں زیادہ اضافہ ہو چکا ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ منشیات کی پیداوار ایک بار پھر اتنی ہو گئی ہے جتنی ۱۹۹۰ء کے عشرے کے آخری حصے میں تھی۔ اس وقت افغانستان دنیا میں تیار کی جانے والی افیون کا ستر فیصد حصہ تیار کر رہا تھا۔ تاہم اقوام متحدہ نے واضح کیا ہے کہ افغانستان کی نئی عبوری حکومت اور خود اقوام متحدہ پوسٹ کی پیداوار میں اضافے کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ کیونکہ اس کے مطابق ملک کے بد حال کسانوں نے طالبان حکومت کے خاتمے کے باعث پیدا ہونے والی لاقانونیت کے نتیجے میں پوسٹ کی کاشت میں دوبارہ اضافہ کیا ہے۔ اقوام متحدہ اب افغانستان کی نئی

حکومت کے ساتھ مل کر پوسٹ کی غیر قانونی پیداوار پر قابو پانے کی کوشش کر رہی ہے۔ فروری ۲۰۰۳ء کے آغاز میں منشیات کی روک تھام سے متعلق اقوام متحدہ کی ایک ایجنسی نے خبردار کیا کہ افغانستان میں حکومت اور بین الاقوامی اداروں کی کوششوں کے باوجود بھی دنیا میں اس وقت سب سے زیادہ افیون افغانستان ہی میں پیدا کی جا رہی ہے۔ ایجنسی کے نئے سروے کے مطابق افغانستان میں بڑے پیمانے پر افیون کی کاشت کو ختم کرنا ایک طویل اور پیچیدہ عمل قرار دیا گیا۔ اقوام متحدہ کی اس رپورٹ میں کہا گیا کہ ۲۰۰۲ء میں دنیا میں چھٹی پوسٹ پیدا ہوئی تھی اس کی تین چوتھائی افغانستان میں پیدا ہوئی حالانکہ افغانستان میں منشیات کی پیداوار اور تجارت پر صدر حامد کرزئی نے پوری پابندی عائد کر رکھی ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ یوں تو افغان حکام کے اقدامات منشیات کی روک تھام میں کلیدی اہمیت کے حامل ہیں لیکن ایک ایسے مسئلے کے حل کیلئے مزید بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے جس کی جڑیں برسوں کی خانہ جنگی اور کشاکش کی وجہ سے افغان معاشرے میں بہت گہری ہو چکی ہیں۔ منشیات اور جرائم کے اقوام متحدہ کے شعبے کے ڈائریکٹر انتونیو ماریا کوستانے کہا کہ افغانستان میں بہت سے ستائے ہوئے لوگوں کیلئے پوسٹ کی کاشت کے سوا اور کوئی طریقہ نہیں ہے۔ غریب کسان، بیوپاری، عورتیں اور بچے، جنگجو سرداروں اور مجرموں کے بین الاقوامی ٹولوں کے رحم و کرم پر ہیں۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ نوکریوں اور تعلیم کے بہتر مواقع، خاص طور سے عورتوں اور بچوں کے لئے پیدا کیے جائیں۔ انتونیو ماریا کوستانے کہا کہ مسئلے کی علامات کو دور کر لینے سے کام نہیں چلے گا۔ افیم کی پیداوار اور تجارت کا قلع قمع ایک جمہوری نظام، قانون کی عملداری اور ترقی کے تحت ہی ہو سکتا ہے۔“

اسی ماہ کے آخر میں بی بی سی نے اقوام متحدہ کی پوسٹ کی کاشت پر تشویش کے حوالے سے مندرجہ

ذیل رپورٹ جاری کی:

”اقوام متحدہ کے منشیات پر قابو پانے والے بورڈ آئی این سی بی نے اپنی

سالانہ رپورٹ میں کہا ہے کہ اسے افغانستان اور پاکستان میں ایک مرتبہ پھر پوسٹ کی کاشت شروع ہونے پر سخت تشویش ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ افغانستان میں ۲۰۰۲ء میں پھر دنیا میں افیون کی پیداوار میں پہلے نمبر پر آ گیا ہے جبکہ پاکستان کے چند قبائلی علاقوں میں پوسٹ کی کاشت کی اطلاعات ہیں۔ انٹرنیشنل نارکالکس کنٹرول بورڈ یا آئی این سی بی اقوام متحدہ کے منشیات کے کنوینشنز پر عمل درآمد کی نگرانی کا ایک آزاد ادارہ ہے۔ اس کی رپورٹ افغانستان میں طالبان حکومت کے خاتمے کے بعد وہاں پوسٹ کی کاشت میں زبردست اضافے پر بین الاقوامی تشویش کی عکاسی کرتی ہے۔ اسلام آباد میں ادارے کی سالانہ رپورٹ جاری کرتے ہوئے اقوام متحدہ کے منشیات اور جرائم کے ادارے کے ایک اہلکار تھامس زینڈل کروڈن کا کہنا تھا کہ چونکہ افغانستان میں پیدا ہونے والی منشیات تمام ممالک تک پہنچتی ہیں اس لیے یہ ایک بین الاقوامی مسئلہ ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ یورپ میں فروخت ہونے والی منشیات کا ۷۵ فیصد حصہ افغانستان سے آتا ہے۔ تھامس زینڈل کا کہنا تھا کہ افغانستان کی صورتحال بورڈ کیلئے کئی برسوں سے وجہ تشویش بنی ہوئی ہے۔ اقوام متحدہ کے مطابق افغانستان میں گزشتہ سال تین ہزار چار سو تین افیون پیدا ہوئی جس سے یہ ملک ایک مرتبہ پھر دنیا کا منشیات تیار کرنے والا نمبر ایک ملک بن گیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق یہ ایک بین الاقوامی مسئلہ ہے اور اس سے نمٹنے کیلئے افغان حکومت کو بین الاقوامی برادری کی مدد کی ضرورت ہے۔ رپورٹ میں افغانستان کو ایسا کیمیائی مواد کی سمگلنگ روکنے پر بھی زور دیا گیا ہے جو کہ منشیات کی تیاری میں معاون ہوں۔“

۲۹ / اگست ۲۰۰۳ء کو بی بی سی نے اپنے نمائندے عمر آفریدی کا افغانستان اور پاکستان میں پوسٹ کی کاشت کے حوالے سے ایک اہم تجزیہ پیش کیا۔ اس تجزیے سے طالبان کی پوسٹ کیٹلاف کامیاب حکمت عملی اور طالبان کے بعد اس میں زبردست اضافے کا بخوبی اندازہ ہوتا ہے، عمر آفریدی کا تجزیہ ہم یہاں نقل کر رہے ہیں:

”اقوام متحدہ کے انسداد منشیات کے ادارے کا کہنا ہے کہ افغانستان کے دارالحکومت کابل میں ایک محتاط اندازے کے مطابق منشیات کے عادی افراد کی تعداد ۲۹۰۰۰ ہے جس میں سے ۲۴۰۰۰ چرس، ۱۱۱۰۰۰ افیم، ۷۰۰۰ ہیروئن اور ۷۰۰۰ شراب کی لت میں مبتلا ہیں۔ اس میں صرف شراب باہر سے آتی ہے جبکہ باقی منشیات افغانستان اور پاکستان کے بعض قبائلی علاقوں میں پیدا ہوتی ہیں۔ جبکہ اس پیداوار کی زیادہ کھپت مغربی ملکوں میں ہوتی ہے۔ منشیات کی پیداوار، تیاری، خرید و فروخت اور استعمال ایک عالمی مسئلہ ہے۔ امریکہ میں غیر سرکاری شعبہ میں قائم ورلڈ واچ انسٹی ٹیوٹ کی ۲۰۰۳ء کی رپورٹ وائٹ سائزز کے مطابق اس وقت عالمی سطح پر تین سو سے پانچ سو ارب ڈالر سالانہ کی منشیات فروخت ہوتی ہیں جبکہ عالمی منڈی میں قانونی ادویات کی تجارت کا تخمینہ تین سو ارب ڈالر لگایا گیا ہے۔ دنیا کے کم سے کم ایک سو بیس ممالک میں چرس، ہینٹیس میں افیم اور صرف چھ میں کوکا کی پیداوار کی جاتی ہے۔ نوے کی دہائی کے اواخر میں دنیا بھر میں پیدا ہونے والی افیم کا ستر فیصد افغانستان میں پیدا ہوتا تھا تاہم ۲۰۰۱ء میں طالبان نے پوسٹ کی کاشت پر مکمل پابندی عائد کر دی جس کے نتیجے میں افیم کی پیداوار ۳۲۷۶ ٹن سے کم ہو کر ایک ۱۸۵ ٹن تک گر گئی۔ تاہم افغانستان پر امریکی حملہ کے نتیجے میں طالبان حکومت کے خاتمہ کے بعد ۲۰۰۲ء میں افیم کی پیداوار میں زبردست اضافہ ہو گیا اور تین ہزار چار سو ٹن افیم پیدا ہوئی۔ افغانستان میں دو لاکھ سے ڈھائی لاکھ خاندان پوسٹ کی کاشت کرتے ہیں جس سے انہیں اوسطاً تین سے چار ہزار امریکی ڈالر سالانہ کی آمدنی ہوتی ہے۔ افغانستان جیسے غریب ملک میں یہ ایک خطرہ رقم ہے۔ طالبان حکومت کے خاتمے کا اثر پاکستان کے قبائلی علاقوں پر بھی پڑا ہے۔ پاکستان میں منشیات کے انسداد اور تحقیق کی کونسل (نارک) کے مشیر ذوالقرنین شاہ کا کہنا ہے کہ قبائلی علاقوں میں بھی آٹھ سو میٹرک ٹن افیم پیدا ہوئی۔ مئی کے مہینے میں وہاں درجہ اول کی چرس نو ہزار روپے فی کلو جبکہ گھنیا درجے کی چرس کی قیمت ایک سو روپے

فی کلومی۔ اسی طرح تریا تا زہ الفیم کا بھاد میں ہزار روپے کلو اور خشک کا بیس ہزار روپے کلو تھا۔ اور کرنی ایجنسی کے ماموزی علاقے میں تقریباً دو سال پہلے تک علماء کی وجہ سے بھنگ یا پوست کی کاشت ناممکن تھی مگر اس سال وہاں بھی پوست کی کھیتی ”لہلہا“ رہی تھی۔ مقامی لوگوں کا کہنا تھا کہ افغانستان میں طالبان حکومت کے خاتمے کے بعد یا تو یہاں کے علماء خود کو کزور محسوس کرنے لگے ہیں یا پھر انہوں نے خاموشی اختیار کر لی ہے۔ ایک کاشتکار جمعہ گل کا کہنا تھا کہ اس سال اکثر لوگوں نے پوست اس لیے کاشت کی ہے کہ ایک تو منڈی میں الفیم کا نرخ بہت بڑھ گیا ہے اور مکئی کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ رقم ملتی ہے اور دوسرے یہ کہ یہ منشیات زیادہ تر مغربی ملکوں کو جاتی ہیں۔ اس لیے ان کے نزدیک یہ جائز ہے۔ نارک کے ایک اور رکن ڈاکٹر اقبال آفریدی کہتے ہیں کہ منشیات پر قابو پانے میں ناکامی کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ تمام ادارے منشیات کی نقل و حمل پر قابو پانے میں مصروف ہیں جبکہ ضرورت اس بات کی ہے کہ اسے پیداوار کے مرحلے پر ہی ختم کر دیا جائے۔ انہوں نے بتایا کہ ایم بی بی ایس کے پانچ سالہ کورس میں منشیات کے علاج کے بارے میں کوئی باب موجود نہیں ہے۔ ذوالقرنین شاہ نے بتایا کہ جون ۲۰۰۰ء میں کراچی میں انسداد منشیات پر ایک سیمینار منعقد کیا گیا تھا جس میں نارک نے ”پو پی پر چیزنگ پروگرام یا پی پی پی“ کی تجویز پیش کی تھی۔ اس سیمینار میں اس وقت کے امریکی قونصلر جان بینٹ اور طالبان قونصلر رحمت اللہ کا کازئی بھی شریک تھے۔ پی پی پی کے منصوبے کا مقصد یہ تھا کہ کاشتکاروں سے بھنگ اور پوست کی فصل منڈی کے نرخ پر خرید لی جائے اور اس کے بعد اسے تلف کر دیا جائے۔ کیونکہ اس پر صرف تیس کروڑ ڈالر خرچ ہوں گے جبکہ انسداد کیلئے عالمی اقدامات پر ساٹھ ارب ڈالر سالانہ کی لاگت آتی ہے جس میں سے صرف امریکہ بیس ارب ڈالر خرچ کرتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ تقریب کے اختتام پر امریکی قونصلر نے ازراہ مذاق کہا: ”یار! کیوں لوگوں کی نوکریوں کے پیچھے پڑ گئے ہو؟“ ذوالقرنین شاہ کہتے ہیں کہ اس کا روبرو

کے پیچھے بہت سے لوگوں کے سیاسی مفادات بھی ہیں۔ مثلاً افغانستان میں روسی جارحیت کے خلاف جنگ کے دوران منشیات کا کاروبار زوروں پر رہا کیونکہ اس سے جنگ کیلئے سرمایہ باہم پہنچایا جاتا تھا۔ سوال یہ ہے کہ کیا اس بار افغانستان کی تعمیر نو میں منشیات کی تجارت کوئی کردار ادا کرے گی؟“

۱۷/ ستمبر ۲۰۰۴ء کو امریکی صدر نے افغانستان میں پوسٹ کی کاشت میں اضافے پر سخت تشویش کا اظہار کیا۔ صدر بش نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ ”حامد کرزی کی حکومت افغانستان کے مختلف صوبوں میں منشیات پر کنٹرول حاصل کرنے کی اہلیت نہیں رکھتی۔“ افغانستان ان بائیس ممالک میں سے ایک تھا، جنہیں بش نے منشیات پیدا کرنے والے ملکوں کی فہرست میں شامل کیا۔ ان بائیس ممالک میں سے چودہ ممالک لاطینی امریکہ اور کیریبین سے تعلق رکھتے تھے۔ لیکن صدر بش کی اس تشویش کے باوجود عجیب بات یہ تھی کہ انہوں نے افغانستان کیخلاف یا کسی بھی دوسرے ملک کیخلاف پابندی کا فیصلہ نہیں کیا، حالانکہ بش انتظامیہ ہر سال منشیات پیدا کرنے والے ممالک کیخلاف پابندیاں لگاتی چلی آ رہی تھی:

۲۴ ستمبر ۲۰۰۴ء کو امریکی وزارت خارجہ نے کانگریس کی ایک کمیٹی کو بتایا کہ افغانستان میں پوسٹ کی کاشت میں تشویشناک حد تک اضافہ ہوا ہے۔ وزارت خارجہ کے انسداد منشیات کے شعبے کے ایک اہلکار رابرٹ چارلس نے کانگریس کی کمیٹی کو بتایا کہ اس سال افغانستان میں ایک لاکھ ایکڑ پر پوسٹ کی کاشت کی گئی۔ انہوں نے کہا کہ یہ گزشتہ سال کے مقابلے میں بیس سے چالیس فیصد تک کا اضافہ ہے۔ رابرٹ چارلس کے بقول یہ اعداد شمار اقوام متحدہ اور سی آئی اے کی ایک مشترکہ رپورٹ سے لیے گئے تھے جو کچھ دنوں بعد شائع ہوتی تھی۔ دریں اثناء افغانستان کے صدر حامد کرزی نے اعتراف کیا کہ پوسٹ کی کاشت اور منشیات کی اسمگلنگ افغانستان میں جمہوریت کے استحکام اور سیکورٹی کیلئے ایک بہت بڑا خطرہ ہے۔

۱۸ نومبر ۲۰۰۴ء کو امریکہ نے افغانستان میں منشیات کی پیداوار کو ختم کرنے کیلئے ایک نئے منصوبے کا اعلان کیا جس کے تحت امریکہ پوسٹ کی کاشت ختم کرنے پر ۸۰ ملین ڈالر خرچ کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ ایک امریکی اہلکار نے بتایا کہ سات سو ملین ڈالر کے اس پیکیج میں پوسٹ کی کاشت ختم کرنے کے علاوہ کاشتکاروں کیلئے متبادل ذریعہ آمدن پیدا کرنے پر خرچ کیے جائیں گے۔ اس امریکی منصوبے کی خبر کے ساتھ بی بی سی نے اپنے تجزیے میں کہا کہ طالبان کی حکومت کے خاتمے کے بعد

افغانستان میں پوسٹ کی کاشت میں تشویش ناک حد تک اضافہ ہوا ہے۔ ماہرین کے مطابق افغانستان میں پوسٹ کو ملک کی معیشت میں اہم حیثیت ہے۔

فروری ۲۰۰۵ء میں برطانوی وزیر خارجہ جیک اسٹرانے افغان دار الحکومت کابل کا دورہ کیا تو ان کے دورے کے اہم مقاصد میں سے ایک یہ بھی بتایا گیا کہ برطانیہ افغان حکام سے مذاکرات کر کے منشیات کی اسمگلنگ کی روک تھام کیلئے اہم اقدامات کرنا چاہتا ہے، کیونکہ مغربی ممالک میں استعمال ہونے والی ہیروئن کا نوے فیصد حصہ افغانستان سے ہی جاتا ہے۔

یکم مارچ ۲۰۰۵ء کو پاکستان نے بھی خدشہ ظاہر کر دیا کہ بین الاقوامی برادری کی دہشت گردی کیخلاف مہم سے انسداد منشیات کے اقدامات متاثر ہو رہے ہیں جس کی وجہ سے افغانستان میں پوسٹ کی کاشت میں خاصا اضافہ ہوا ہے اور خطرہ ہے کہ پاکستان میں پوسٹ کو ذخیرہ کرنے کے اسٹور اور ہیروئن کی لیبارٹریاں دوبارہ سے جنم لیں گی۔ ایٹنی نارکوٹکس فورس کے سربراہ میجر جنرل ندیم احمد نے ایک پریس کانفرنس میں بتایا کہ افغانستان میں اس سال پوسٹ ایک لاکھ اکتیس ہزار ہیکٹر پر کاشت کی گئی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ۲۰۰۳ء سے پاکستان میں بھی پوسٹ کی دوبارہ کاشت شروع ہو گئی ہے جس میں سے تقریباً اسی فیصد فصل کو تباہ کر دیا گیا ہے۔ تاہم انہوں نے کہا کہ بین الاقوامی برادری کی عدم توجہی اور پاکستان کو اس سلسلے میں قلیل امداد سے اس بات کا خطرہ بڑھے گا کہ پاکستان میں پوسٹ کی کاشت اور افغانستان میں کاشت کی گئی پوسٹ کی پاکستان کے راستے اسمگل کی جائے گی۔

مارچ ۲۰۰۵ء ہی میں اقوام متحدہ کے ادارے ڈرگ کنٹرول کی تیار کردہ رپورٹ میں افغانستان میں افیون کی کاشت کو تشویشناک قرار دیتے ہوئے کہا گیا کہ گزشتہ سال ۴ ہزار ۲ سو میٹرک ٹن افیون کاشت کی گئی تھی جو عالمی سطح پر فروخت ہونے والی منشیات کا ۸۷ فیصد بنتی ہے۔ رپورٹ کے مطابق افغانستان میں امریکہ اور اس کی اتحادی افواج کی جانب سے جنگ کے آغاز کے بعد افیون کی کاشت میں اضافہ ہوا ہے جس کی وجہ سے افغان حکومت اور عالمی برادری نے افغانستان میں منشیات اور پوسٹ کی کاشت کے خاتمہ کو اپنی اولین ترجیح قرار دیا ہے۔ اقوام متحدہ کی اس رپورٹ میں بتایا گیا کہ گزشتہ ۲ سال میں پوسٹ کی کاشت ۴۲ ہزار ایکڑ رقبے سے بڑھ کر ایک لاکھ ۳۱ ہزار ایکڑ رقبے تک پہنچ گئی ہے۔ اقوام متحدہ کے ادارے یو این او ڈی سی کے مطابق افغانستان میں گزشتہ سال افغانستان میں منشیات کے تاجروں نے ۲ ارب ۲۰ کروڑ ڈالر کا کاروبار کیا۔ افغانستان میں اس وقت ۳ لاکھ ۵۶ ہزار خاندانوں سے

تعلق رکھنے والے ۲۳ لاکھ افغانیاتی کی پیداواری سرگرمیوں میں ملوث ہیں جبکہ ۱۵ ہزار افراد نیشیات کی ڈینگ کر رہے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق نیشیات کی خرید و فروخت کیلئے افغان سرحدی صوبہ ننگر ہار میں ہول سیل اسٹرکچر قائم کیا گیا اور افغان حکومت نیشیات کی فصل کو رضا کارانہ طور پر تلف کرنے میں ناکام ہو گئی ہے کیونکہ کاشتکاروں نے متبادل کے طور پر ساڑھے تین سو امریکی ڈالر فی ایکڑ معاوضہ مسترد کرتے ہوئے ۳ ہزار امریکی ڈالر معاوضے کا مطالبہ کیا ہے جبکہ کئی کاشتکاروں نے معاوضہ وصول کرنے کے باوجود نارسا پہاڑی علاقوں میں افیون کی فصل کاشت کی ہے۔

پوسٹ کی بڑھتی ہوئی پیداوار کے حوالے سے اقوام متحدہ کی اس رپورٹ کے منظر عام پر آنے کے بعد، امریکہ نے افغانستان پر کافی برہمی کا اظہار کیا، چنانچہ امریکہ نے افیون کی کاشت اور نیشیات کی اسمگلنگ روکنے میں ناکامی پر افغان حکومت کی امداد روکنے کی دھمکی دے دی۔ اس دھمکی کے ساتھ ساتھ امریکہ نے افغانستان میں نیشیات کی پیداوار کے حوالے سے اپنی رپورٹ میں کرنزی حکومت پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے خبردار کیا کہ وہ نیشیات کی کاشت والے علاقوں میں اپنی افواج تعینات کر سکتا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ کوئٹہ لیزار اس کی جانب سے کانگریس میں پیش کردہ سالانہ صدارتی رپورٹ میں کہا گیا کہ افغانستان میں ۲۰۰۳ء کے مقابلے میں ۲۰۰۴ء میں ایک سال کے دوران پوسٹ کی پیداوار میں تین گنا اضافہ ہوا ہے جو کہ ملکی استحکام کیلئے خطرناک ہے۔ رپورٹ کے مطابق ۲۰۰۴ء میں افغانستان میں ۵ لاکھ ۱۰ ہزار ایکڑ رقبے پر افیون کاشت کی گئی جو ۲۰۰۳ء کے مقابلے میں ۳ گنا زیادہ ہے۔ رپورٹ میں مزید کہا گیا کہ صدر کرنزی کی حکومت افغانستان میں نیشیات کی تجارت کے خلاف جنگ میں اب تک ناکام رہی ہے اور طالبان حکومت کے خاتمے کے ساڑھے ۳ سال بعد افغانستان کے نیشیات کا اڈہ بننے کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے۔ امریکی وزارت خارجہ کی رپورٹ کے مطابق افغانستان میں پیدا ہونے والی پوسٹ عالمی سطح پر ہیرونن بنانے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے اور اس کی کاشت سے افغان حکومت کے مخالف گروپوں کو تقویت مل سکتی ہے۔ رپورٹ کے مطابق امریکا کی طرف سے سالانہ لاکھوں ڈالر امداد کے باوجود افغان حکومت ہیرونن کی تیاری، افیون اور چرس کی اسمگلنگ روکنے میں بری طرح ناکام رہی ہے۔

اپریل ۲۰۰۵ء میں روسی اداروں نے یہ حیرت انگیز انکشاف کیا کہ افغانستان سے ہیرونن کی اسمگلنگ اور کاشت میں امریکی حکام ملوث ہیں۔ گزشتہ ۳ سال سے امریکی ادارے بعض جنگجو کمانڈروں کے ذریعے ہیرونن یورپ پہنچانے میں مصروف ہیں۔ یہ انکشاف روسی وزارت داخلہ اور فیڈرل سیکورٹی

سروس کی مشترکہ رپورٹ میں کیا گیا۔ روسیوں کی اس رپورٹ کے مطابق افغانستان میں امریکی مداخلت کے بعد پوست کی فصل قابل کاشت رقبے پر ۵۲ فیصد تک پہنچ گئی ہے جبکہ روسی مداخلت کے دوران یہ کاشت صرف ۲۰ فیصد تھی۔ رپورٹ میں روسی حکومت سے اپیل کی گئی کہ وہ وسطی ایشیا کے راستے یورپ کو ہیروئن کی اسمگلنگ روکنے کیلئے مؤثر قانون سازی کرے اور دیگر ممالک سے مشترکہ طور پر ایک ایسا معاہدہ کیا جائے تاکہ امریکی حکام کی جانب سے ہیروئن کی اسمگلنگ کو روکا جاسکے۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ روسی سیکریٹ سروس کی تحقیقات کے مطابق شمالی افغانستان کے ۱۵ سے زائد کمانڈر اس سلسلے میں امریکی حکام کی مدد کر رہے ہیں۔ یہ کمانڈر طالبان کے خلاف امریکی اتحادی رہے ہیں۔





طالبان کیوں یاد آتے ہیں؟

رب رحمان کے بندے طالبان عالی شان، اہل پاکستان کیلئے بلاشک و شبہ اللہ کا بہت بڑا احسان تھے۔ دیمک خوردہ دماغ اور زخم خوردہ روح رکھنے والے ہمارے پالیسی سازوں کو اب اس حقیقت کا احساس ہو رہا ہے کہ وہ کیا متاع عزیز تھی جو انہوں نے گم کر دی، وہ کیا شمع تھی جس کے بجھتے ہی سرزمین افغانستان پر پاکستانی مفادات گھٹا ٹوپ اندھیروں میں گم ہو گئے۔ وہ کیا بے لوث سپاہی تھے جنہوں نے بڑے بڑے خطرات کو ہم سے روک رکھا تھا۔ وہ کیا کھرے لوگ تھے کہ بھارت سے صرف اس لیے بگاڑے رکھی کہ وہ پاکستان مخالف ہے۔

گیارہ ستمبر کے خوفناک حملوں نے ورلڈ ٹریڈ سنٹر کا سارا مطلبہ ہماری عقلوں پر ڈال دیا، اسی لیے تو ہم بھول گئے کہ ملت فروشی اور برادر کشی جیسا المناک رویہ ہمارے ہاتھوں سرزد ہو رہا ہے۔ ہم نے فراموش کر دیا کہ میر جعفر اور میر صادق جیسے کرداروں پر آج ان کی اولاد بھی چار حرف بھیجتی ہے۔ اضطراب اور بے سکونی کے ان دنوں میں جن لوگوں کی کوئی ”سب سے پہلے پاکستان“ پرانگی ہوئی تھی، وہ جواب دیں کہ پاکستانی سرحدات طالبان کے دور میں زیادہ محفوظ تھیں یا آج؟ بلوچستان جو آج ہمارے لئے گہری دلدل اور تپتے صحرا میں تبدیل ہو رہا ہے، اس کے پس منظر میں موجود افغان سرزمین پر چار بھارتی قونصل خانے کس کی مدد اور تعاون سے قائم ہوئے؟ اپنے پاؤں پر کلہاڑی چلانے والے عقل و خرد سے عاری لوگ، اب کلہاڑی کو الزام نہ دیں کہ وہ ان کے اپنے ہاتھوں میں پکڑی ہوئی ہے۔

طالبان ایک حقیقت ہیں۔ ان کا کردار کھلی ہوئی کتاب کی مانند اقوام عالم کے سامنے ہے۔ جو لوگ روزِ محرموں کی طرح وجود میں آتے ہیں اور چوٹیوں کی طرح فنا ہو جاتے ہیں، وہ کیا جانیں کہ

تاریخ کی پیشانی کا حسین جھومر، انسانیت کے چہرے کا غازہ، اعلیٰ اخلاق و کردار کے امین، بلند ہمت، باضمیر اور بامروت امیر المؤمنین علامہ عمر الجاہد جیسے لوگ ہی اپنے نظریے پر حکومت اور ریاست قربان کرنے کی طاقت رکھتے ہیں، ورنہ ہر مدعی کے واسطے دارورسن کہاں؟

ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں کہ طالبان کی خارجہ پالیسی کیاتھی؟ وہ امریکہ جیسی طاقت سے کیوں مرعوب نہیں ہوتے تھے؟ انہیں اپنے پڑوس میں روس جیسی مضبوط ریاست کیوں نہیں ڈرا سکتی تھی؟ ہمیں تو بحیثیت ایک مسلمان ہونے کے طالبان سے محبت و عقیدت اس لیے ہے کہ انہوں نے چند روزہ دور حکومت میں قرآن کریم کو گھروں اور مساجد کی الماریوں سے نکال کر عدالت اور بازار میں قانون کا درجہ دے دیا، انہوں نے اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام نافذ کر کے ثابت کر دیا کہ جدید دور، اکیسویں صدی، ماڈرن اسلام، عالمی برادری اور انسانی حقوق یہ سب نہ کرنے کے بہانے ہیں اور:

”جو تو ہی نہ چاہے تو بہانے ہزار ہیں“

انہوں نے بامیان کے بت گرا کر ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی بت شکنی کی یاد تازہ کر دی، انہوں نے چیچنیا کی آزاد مسلم ریاست کو سب سے پہلے تسلیم کر کے حق اخوت ادا کر دیا، انہوں نے حاکم اور رعایا کے درمیان فرق کو مٹا کر اس تیسری دنیا کی روایت ہی بدل ڈالی جہاں کے عوام بھوکوں مرتے ہیں اور اراکین پارلیمنٹ بدضمی کی وجہ سے کوچ کر جاتے ہیں، جہاں رعایا بے گھر اور بے در ہوتے ہیں لیکن صدر اور وزیر اعظم کے ایوان پورے شہر کا منظر پیش کرتے ہیں۔

انہوں نے سیدھا سادھا اور صاف ستھرا عدالتی نظام قائم کیا جہاں انصاف سر بلند اور ظلم سرنگوں ہوتا تھا، انہوں نے ایک مسلمان ملک میں عیسائی مشنریوں کے عزائم کو بے نقاب کرتے ہوئے ان کو لگام دی۔ انہوں نے ہمہ وقت حالت جنگ میں ہونے کے باوجود اپنے عوام کی زندگی آسان بنانے کی ہر ممکن کوشش کی۔ سچ تو یہ ہے کہ طالبان نے تاریخ کے دھارے کو موڑ دیا۔ دنیا بھر کے مظلوموں کو ظلم کے سامنے سینہ تان کر کھڑا ہونے کا سبق سکھایا اور تہذیب کے خوشنما پردوں میں پوشیدہ عالمی غنڈوں کی ہر بات ماننے سے انکار کر دیا۔

بلاشبہ طالبان نے وہ سب کچھ کر دیا، جو کچھ وہ کر سکتے تھے، اسی لیے تو دنیا بھر کا کفر اور نفاق ان کے مقابلے میں یکسو اور متحد تھا اور ہم نے میڈیا میں یہ مناظر بھی دیکھے کہ امریکی، آسٹریلیوی، برطانوی اور فرانسیسی نو مسلم بھی طالبان کے شانہ بشانہ برسرِ پیکار تھے۔ گویا طالبان حق و صداقت کی وہ شمعِ فرداں تھے

جن کی طرف فرزند ان تو حید پر دانہ دار لپکتے تھے۔

آج کی زندہ حقیقت یہ ہے کہ غیروں کی بمباری اور اپنوں کی ستم رانی کے باوجود طالبان اپنے پورے عزم و حوصلے کے ساتھ موجود ہیں۔ ذرائع ابلاغ میں جگہ پانے والے ان کے حملے ان کی توانائی اور جوانی کی دلیل ہیں۔ وہ یوریا نشین ایسے نہ تھے جنہیں صرف اپنی حکومت اور صدارت بچانے کیلئے ایمان اور غیرت کی قربانی دینی پڑتی، وہ کل قصر شامی میں تھے تو ان کے بال و پر سلامت تھے اور آج پہاڑوں کی چٹانوں پر بسیرا کر چکے ہیں تو بھی ان میں شاہین کی ساری خوبیاں موجود ہیں۔

طالبان یاد آتے ہیں، ہمیں بھی اور ان کو بھی جو نہ چاہتے ہوئے بھی ان کو چاہتے ہیں۔ آپ اسی کتاب میں ان لوگوں کے خیالات بھی پڑھیں گے جو طالبان کے بدترین نظریاتی مخالف ہیں۔ اقوام متحدہ اب لاکھوں ڈالر خرچ کر کے نشیات کے کاروبار کو کنٹرول نہیں کر سکی تو اب اسے بھی وہ درویش صفت طالبان یاد آتے ہیں، جن کے امیر کے ایک حکم سے نشیات کا دھندا سو فیصد ختم ہو گیا تھا۔




طالبان یاد آتے ہیں اور کیوں نہ آئیں کہ انہوں نے جس طرح وفا کے پھولوں سے زمانے کی جاگ بھروی اس کے سامنے وفا کی مشتقہ داستانیں بھی پتھر در پتھر نظر آتی ہیں۔

.....☆.....☆.....



میں نے کہا کہ اب تیرے دیبا

موقف و اثر



کتابچہ

MADNI ARTS

